

# آئینہ ادب

## AAINA-E-ADAB

برائے بارہویں جماعت



بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن راجستھان، اجیر  
ek;/ fed f' k{kk ckM] jktLFkku] vtej

# آئینہ ادب

## AAINA-E-ADAB

برائے بارہویں جماعت

FOR CLASS XII



بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن راجستھان، اجmer  
ek/; fed f'k{kk ckM] jktLFkku] vtej

# آئینہ ادب

## AAINA-E-ADAB

برائے بارہویں جماعت

FOR CLASS XII

مرتبین

ڈاکٹر قائد علی خاں

Dr. Qaid Ali Khan  
Associate Professor  
Dept. of Urdu  
S.P.C. Govt. College, Ajmer

ڈاکٹر شاہد الحق چشتی

Dr. Shahidul Haque Chishty  
(Principal)  
Govt. Adarsh Higher Secondary School  
Gagwana (Ajmer)

ڈاکٹر فیروز بیگ (کنویز)

Dr. Firoz Baig  
Associate Professor (Convener)  
Dept. of Urdu  
S.P.C. Govt. College, Ajmer

ڈاکٹر معین الدین شاہین

Dr. Moinuddin 'Shaheen'  
Associate Professor  
P.G. Deptt. of Urdu  
Govt. Dungar College, Bikaner

ہیرالال

Hira Lal  
(Lecturer Urdu)  
Govt. Adarsh Sr. Sec. School, Mohangarh,  
Jaisalmer



بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن راجستھان، اجیئر  
ek;/ fed f'k{kk ckM] jktLFkku] vtej

## کمیٹی برائے اردو نصاہب

ڈاکٹر معین الدین شاہین (کنویز)

گورنمنٹ ڈوگر کالج، بیکانیر

۱-

ڈاکٹر شاہد الحق چشتی

گورنمنٹ آرشن سسیکنڈری اسکول، گلوانہ (اجمیر)

۲-

محمد صادق

گورنمنٹ ہائسرسیکنڈری اسکول، رامسر (اجمیر)

۳-

ڈاکٹر صولت علی خاں

ایس۔ پی۔ سی۔ گورنمنٹ کالج، اجمیر

۴-

ڈاکٹر خورشید جہاں نقوی

یونیورسٹی آف راجستھان، بھے پور

۵-

## کمیٹی برائے ترتیب درسی کتاب

کتاب : آئینہ ادب AAINA-E-ADAB

برائے بارہویں جماعت

FOR CLASS XII

کنویز

ڈاکٹر فیروز بیگ

Dr. Firoz Baig

Associate Professor (Convener)  
Dept. of Urdu, S.P.C. Govt. College, Ajmer

اراکین

ڈاکٹر قائد علی خاں

Dr. Qaid Ali Khan

Associate Professor

Dept. of Urdu, S.P.C. Govt. College, Ajmer

ڈاکٹر معین الدین شاہین

Dr. Moinuddin 'Shaheen'

Associate Professor

P.G. Deptt. of Urdu

Govt. Dungar College, Bikaner

ڈاکٹر شاہد الحق چشتی

Dr. Shahidul Haque Chishty

(Principal)

Govt. Adarsh Higher Secondary School, Gagwana (Ajmer)

ہیرالل

Hira Lal

(Lecturer Urdu)

Govt. Adarsh Sr. Sec. School, Mohangarh, Jaisalmer

## عہد (i frKk)

بھارت میرا دلیش ہے۔ سبھی بھارتی میرے بھائی بہن ہیں۔ میں اپنے دلیش سے محبت کرتا/کرتی ہوں۔ مجھے اس کے کثیر اور گوناگوں سرمایہ پر فخر ہے۔ میں اس کے لاائق ہونے کے لیے ہمیشہ کوشش کرتا رہوں گا/کرتی رہوں گی۔

میں اپنے والدین، استاتزہ اور سبھی بزرگوں کی عزّت کروں گا/ کروں گی۔ اور ہر شخص کے ساتھ حسنِ اخلاق سے پیش آؤں گا/ آؤں گی۔

میں اپنے دلیش اور دلیش کے باشندوں کے تین وفادار رہنے کا عہد کرتا/کرتی ہوں۔

میری خوشی صرف ان کی خوشحالی اور بہبودی میں ہی ہے۔

## دولظ

طالب علم کے لیے درسی کتاب منظم مطالعے اور مبصرانہ صلاحیت کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ مواد اور طریقہ تعلیم کی رو سے درسی کتاب کے معیار کا لحاظ رکھنا نہایت ضروری ہوتا ہے۔ درسی کتب کو دقيق (مشکل) اور محض مدح و قدح کی مثال نہیں بنانا چاہیے۔ درسی کتاب آج بھی درس و تدریس اور طریقہ تعلیم کا ضروری اور اہم ذریعہ ہے۔ جسے ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔

گذشتہ کچھ برسوں سے مادھیمک شکشا بورڈ، راجستھان کے نصاب میں لسانی اور تہذیبی اقدار کی نمائندگی کی کمی شدت سے محسوس کی جا رہی تھی۔ تاہم صوبائی حکومت نے نویں جماعت سے بارہویں جماعت تک کے طبا و طالبات کے لیے بذریعہ مادھیمک شکشا بورڈ راجستھان، اپنا نصاب مرتب کر کے نافذ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسی کے مطابق بورڈ نے درسی کتب، تسلیم شدہ نصاب کے مطابق تیار کرائی ہیں۔ امید ہے کہ یہ کتب طبا و طالبات میں فکر و تدبیر اور اظہارِ خیال کی صلاحیت کے روشن موقع فراہم کریں گی۔

پروفیسر بی۔ ایل۔ چودھری

صدر

مادھیمک شکشا بورڈ راجستھان اجمیر

## پیش لفظ

زیر نظر کتاب ”آئینہ ادب“ بورڈ آف سینڈری ایجوکیشن راجستان، اجmir کی بارہویں جماعت کے لیے، تعلیم شدہ اردو نصاب کے مطابق مرتب کی گئی ہے۔ اس کتاب کو مرتب کرتے وقت اُن تمام ضروری نکات اور امور کو ملحوظ رکھا گیا ہے جن کا تعلق تعلیم اور طالب علم سے ہوتا ہے۔ کتاب میں ایسے اسباق اور تخلیقات کو شامل کیا گیا ہے جن میں ہندوستانی تہذیب، تمدن اور صاحب اقدار کی جھلک دکھائی دے۔ قومی بحثت کے جذبے کو تقویت دینے کی غرض سے اردو کے مسلم اور غیر مسلم شعر اور ادب کی تخلیقات کو یکساں طور پر شامل کتاب کیا گیا ہے۔ طلباء کے معیار کا لحاظ رکھتے ہوئے مشکل الفاظ اور بوجھل تحریروں سے حتی الامکان گریز کیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں اسباق و تخلیقات کے ذریعہ طلباء میں وسعت مطالعہ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اسباق و تخلیقات میں تنوع، توازن اور اعتدال قائم کرنے کی غرض سے موضوعات کی تکرار سے گریزو پرہیز کیا گیا ہے۔ ہر تخلیق اور مضمون کے آخر میں مشکل الفاظ کے معنی تحریر کیے گئے ہیں تاکہ طلباء کو معنی کی تلاش میں دقوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے۔

تمام اسباق کے آخر میں بالترتیب مختصر ترین، مختصر اور تفصیلی سوالات شامل کیے گئے ہیں تاکہ طلباء کو بورڈ کے امتحان کے ساتھ ساتھ مقابلوں کے امتحنات کے لیے بھی شعوری طور پر بیان کیا جاسکے۔ تخلیق اور تخلیق کا رکا مختصر تعارف بھی پیش کیا گیا ہے تاکہ طلباء کو سبق اور مصنف و شاعر سے متعلق اہم معلومات فراہم ہو سکیں۔ شامل نصاب ادبی اصناف کا تعارف اور روایت کی تفصیل اس غرض سے پیش کی گئی ہے کہ

طلبا کو یہ علم ہو سکے کہ کس صنف کی کیا خصوصیات اور تقاضے ہیں۔ خواتین اور صوبہ راجستان کی نمائندگی کی کوشش بھی کی گئی ہے۔ قواعد اردو سے متعلق معلومات بھی شامل کتاب ہیں۔ صحیت متن اور طباعت کا چیزیں الامکان لاحاظہ رکھا گیا ہے۔ امید ہے کہ زیرِ نظر نصابی انتخاب طلا کی تعلیم و تربیت میں معاون ثابت ہوگا۔

مُرتَّبین

## اردو ادب

### Distribution of Marks

|          |    |  |  |
|----------|----|--|--|
| کل نمبر: | 80 | وقت:   | 3.15   |
| نمبر     |    | موضوع  | نمبر شمار  |
| 10       |    | خلاصہ مضمون و نظم  | ۱  |
| 17       |    | مضمون نگاری، قواعد   | ۲  |
|          |    | نصابی کتاب: آئینہ ادب  | ۳  |
| 25       |    | (الف) حصہ نثر  |  |
| 28       |    | (ب) حصہ نظم  |  |
| 10       |    | خلاصہ مضمون و نظم  | ۱۔ خلاصہ مضمون و نظم   |
| 17       |    | تصنیف  | ۲۔ تصنیف   |
| 08       |    | (الف) مضمون نگاری (سامجی و ادبی موضوعات پر ایک مضمون)                | (الف) مضمون نگاری (سامجی و ادبی موضوعات پر ایک مضمون)                |
|          |    | (ب) قواعد: علم بیان و بدیع: تشییہ، تمجیح، استعارہ، ایہام، حسن تعلیل، | (ب) قواعد: علم بیان و بدیع: تشییہ، تمجیح، استعارہ، ایہام، حسن تعلیل، |
| 09       |    | مراءات النظیر (چار میں سے تین صنعتوں کی تعریف مع مثال)               | مراءات النظیر (چار میں سے تین صنعتوں کی تعریف مع مثال)               |
| 25       |    | حصہ نثر  | ۳۔ حصہ نثر   |
| 08       |    | (الف) اقتباسات کی تشریح اور ان پر مشتمل مختصر سوالات                 | (الف) اقتباسات کی تشریح اور ان پر مشتمل مختصر سوالات                 |

|    |    |   |
|----|----|---|
|    |    | (ب) شاملِ نصابِ مضامین میں سے مختصر سوالات (چار میں سے تین) 06  |
| 5  |    | (ج) ایک تفصیلی سوال (دو میں سے ایک)   |
|    |    | (د) سوانح حیات: نصاب میں شامل کسی ایک مصنف کی سوانح حیات اور طرزِ تحریر پر تبصرہ۔   |
| 06 |    |   |
| 28 | ۲- | حصہ نظم:  |
|    |    | (الف) شاملِ نصابِ منظومات میں سے دو جزائے نظم کی تشریع (تین میں سے دو) 08   |
| 06 |    | (ب) شاملِ نصابِ منظومات / غزلیات پر مشتمل تفصیلی سوال (دو میں سے ایک)   |
|    |    | (ج) شاملِ نصابِ شعر میں سے کسی ایک کے حالاتِ زندگی پر تبصرہ اور اس کی شاعرانہ خصوصیات کا جائزہ۔   |
| 06 |    |   |
| 08 |    | (د) شاملِ نصابِ منظومات میں سے چار مختصر سوالات (پانچ میں سے چار) بحوزہ کتابِ نصاب: آئینہ ادب<br>(راجستھان پاٹھیہ پستک منڈل، بے پور سے طبع شدہ) |

## اردو ادب (نصاب)

نصابی کتاب: آئینہ ادب

### حصہ نشر

- |   |                        |
|---|------------------------|
| ۱۔ داستان: تعریف اور مختصر تاریخ                                      | ڈاکٹر فیروز بیگ        |
| میر امن: سیر پہلے درویش کی (میری پیدائش اور وطن بزرگوں کا ملک یمن ہے) |                        |
| ۲۔ ناول: تعریف اور مختصر تاریخ  | ڈاکٹر فیروز بیگ        |
| ڈپٹی نذریاحمد: مرزا طاہر دار بیگ                                      |                        |
| ۳۔ مختصر افسانہ: تعریف اور مختصر تاریخ                                | ڈاکٹر قائد علی خاں     |
| (i) نشی پریم چند: قول کا پاس  |                        |
| (ii) سریندر پرکاش: بجوا کا  |                        |
| ۴۔ مکتوب نگاری: ایک تعارف   | ڈاکٹر معین الدین شاہین |
| مرزا غالب:  |                        |
| (i) بنام میاں دادخاں سیاحد (مشی صاحب سعادت واقبال....)                |                        |
| (ii) بنام چودھری عبدالغفور سرور (بندہ پور بہت دن کے بعد....)          |                        |
| ۵۔ مضمون و انشا پردازی: ایک تعارف                                     | ڈاکٹر شاہد الحق چشتی   |
| (i) ابوالکلام آزاد: حقیقی عظمت  |                        |

- (ii) وحید الدین سعیم: خطاب بہ طلباء  
 ڈاکٹر معین الدین شاہین ۶۔ طزو مزاج: ایک تعارف  
 پطرس بخاری: سوریے جو کل آنکھ میری کھلی  
 ہیرالال ۷۔ قواعد: علم بیان و بدیع  
 لسانیات: (سرجع مطالعہ) ۸۔  
 ڈاکٹر فیروز بیگ (i) اردو زبان کی پیدائش: مختلف نظریات  
 ڈاکٹر قائد علی خاں (ii) دبستانِ دہلی اور دبستانِ کھنڈو  
 ڈاکٹر قائد علی خاں (iii) فورٹ ولیم کالج کی ادبی خدمات  
 ڈاکٹر فیروز بیگ (iv) علی گڑھ تحریک

## حصہ نظم

ڈاکٹر شاہد الحق چشتی

غزل: ایک تعارف

غزلیات:

(الف) مرزا غالب:

(i) یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصالِ یار ہوتا

(ii) کیوں جل گیانہ تاب رُخ یار دیکھ کر

(ب) مومن خاں مومن:

(i) اثر اُس کوذر انہیں ہوتا

(ii) ٹھانی تھی دل میں اب نہ ملیں گے کسی سے ہم

(ج) داغِ دہلوی:

(i) جلوے میری نگاہ میں کون و مکاں کے ہیں

(ii) غصب کیا تیرے وعدے پے اعتبار کیا

(د) جگر مراد آبادی:

(i) دل کو سکون روح کو آرام آگیا

(ii) برابر سے نج کر گزر جانے والے

(ه) فراق گورکھپوری:

(i) آنکھوں میں جوبات ہو گئی ہے

(ii) ہر کائنات سے یہ الگ کائنات ہے

قصیدہ: تعریف اور مختصر تاریخ  
ڈاکٹر معین الدین شاہین

(i) مرزا محمد رفع سودا: (اٹھ گیا بہن و دے کا چمنستاں سے عمل)

(ii) شیخ محمد ابراہیم ذوق: (ساون میں دیا پھر مہ شوال دکھائی)

مرثیہ: تعریف اور مختصر تاریخ  
ڈاکٹر قائد علی خاں

(i) میراثیں:

امام حسینؑ کی مدینے سے روائی: فرزدِ پیغمبر کا مدینے سے سفر ہے (انتخاب)

(ii) خواجہ الطاف حسین حاتی (مرثیہ غالب: بلبل ہند مرگ کیا ہیہات)

نظم: ایک تعارف  
ڈاکٹر معین الدین شاہین

(i) نظیرا کبر آبادی: روضہ تاج گنج

(ii) خواجہ الطاف حسین حاجی: جدید ترقیات

(iii) علامہ اقبال: شعاعِ امید

(iv) برج نرائن چکبست: رامائن کا ایک سین (انتخاب)

(v) قابلِ اجمیری: بے یادِ اجمیر

### معاون کتب:

۱۔ تاریخِ ادب اردو: از پروفیسر سید نور الحسن نقوی  
ایجوکیشنل بک ہاؤس، علی گڑھ

۲۔ اردو قواعد: این۔سی۔ای۔ آر۔ٹی۔ نئی دہلی

## فہرست

## حصہ نشر

| نمبر شمار | عنوان                               | مضمون نگار / مصنف / مرتب | صفحہ نمبر |
|-----------|-------------------------------------|--------------------------|-----------|
| ☆         | دولفظ                               | پروفیسر بی۔ ایل۔ چودھری  | iv        |
| ☆         | پیش لفظ                             | مرتنین                   | v         |
| ۱         | داستان: تعریف اور مختصر تاریخ       | ڈاکٹر فیروز بیگ          | ۲         |
| ۲         | میرامن                              |                          | ۶         |
| ۳         | سیریلے درویش کی                     | میرامن دہلوی             | ۸         |
| ۴         | ناول: تعریف اور مختصر تاریخ         | ڈاکٹر فیروز بیگ          | ۱۵        |
| ۵         | مرزا طاہر دار بیگ                   | ڈیپی نذر احمد            | ۲۰        |
| ۶         | مختصر افسانہ: تعریف اور مختصر تاریخ | ڈاکٹر قائد علی خاں       | ۳۶        |
| ۷         | قول کا پاس                          | مشی پریم چند             | ۴۰        |
| ۸         | بجوکا                               | سریندر پرکاش             | ۴۷        |
| ۹         | مکتوب نگاری: ایک تعارف              | ڈاکٹر معین الدین شاہین   | ۵۹        |
| ۱۰        | خط بنام میاں دادخاں سیاح            | مرزا غالب                | ۶۳        |
| ۱۱        | خط بنام چودھری عبدالغفور سرور       | مرزا غالب                | ۶۸        |
| ۱۲        | مضمون و انشا پردازی: ایک تعارف      | ڈاکٹر شاہد الحنفی چشتی   | ۷۴        |
| ۱۳        | حقیقی عظمت                          | مولانا ابوالکلام آزاد    | ۷۷        |

|     |                        |                            |    |
|-----|------------------------|----------------------------|----|
| 86  | وحید الدین سعیم        | خطاب پڑھنا                 | ۱۳ |
| 98  | ڈاکٹر معین الدین شاہین | نظر و مزاج: ایک تعارف      | ۱۵ |
| 102 | پطرس بخاری             | سویرے جو کل آنکھ میری کھلی | ۱۶ |
| 118 | ہیرالال                | قواعد: علم بیان و بدیع     | ۱۷ |

### حصہ نظم

| صفہ نمبر | مضمون نگار / شاعر      | عنوان                             | نمبر شمار |
|----------|------------------------|-----------------------------------|-----------|
| 123      | ڈاکٹر شاہد الحنفی چشتی | غزل: ایک تعارف                    | ۱         |
| 127      |                        | مرزا غالب:                        | ۲         |
| 130      | مرزا غالب              | ۱۔ یہ تھی ہماری قسمت.....         |           |
| 131      | مرزا غالب              | ۲۔ کیوں جل گیانہ تاب رُخ یار..... |           |
| 135      |                        | مومن خاں مومن:                    | ۳         |
| 137      | مومن خاں مومن          | ۱۔ اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا        |           |
| 138      | مومن خاں مومن          | ۲۔ ٹھانی تھی دل میں.....          |           |
| 141      |                        | داغ دہلوی:                        | ۴         |
| 144      | داغ دہلوی              | ۱۔ جلوے مری نگاہ میں.....         |           |
| 145      | داغ دہلوی              | ۲۔ غصب کیا تیرے وعدے یہ.....      |           |
| 148      |                        | جگر مراد آبادی:                   | ۵         |
| 150      | جگر مراد آبادی         | ۱۔ دل کو سکون روح کو.....         |           |
| 151      | جگر مراد آبادی         | ۲۔ برابر سے نج کر .....           |           |

|     |                        |                                       |    |
|-----|------------------------|---------------------------------------|----|
| 154 |                        | فرقہ گورکھپوری:                       | ۶  |
| 157 | فرقہ گورکھپوری         | ۱۔ آنکھوں میں جوبات.....              |    |
| 158 | فرقہ گورکھپوری         | ۲۔ ہر کائنات سے یہ.....               |    |
| 161 | ڈاکٹر معین الدین شاہین | قصیدہ: تعریف اور مختصر تاریخ          | ۷  |
| 164 |                        | مرزا محمد رفع سودا:                   | ۸  |
| 166 | مرزا محمد رفع سودا     | اٹھ گیا بہمن و دے کا.....(انتخاب)     |    |
| 176 |                        | محمد ابراہیم ذوق:                     | ۹  |
| 178 | محمد ابراہیم ذوق       | ساوان میں دیا پھر مہ شوال ..(انتخاب)  |    |
| 185 | ڈاکٹر قائد علی خاں     | مرشیہ: تعریف و تاریخ                  | ۱۰ |
| 188 |                        | میرانیس:                              | ۱۱ |
| 191 | میرانیس                | امام حسینؑ کی مدینے سے روانگی(انتخاب) |    |
| 200 |                        | خواجہ الطاف حسین حائل:                | ۱۲ |
| 203 | خواجہ الطاف حسین حائل  | مرشیہ غالب(انتخاب)                    |    |
| 209 | ڈاکٹر معین الدین شاہین | نظم: ایک تعارف                        | ۱۳ |
| 212 |                        | نظیرا کبر آبادی:                      | ۱۴ |
| 214 | نظیرا کبر آبادی        | روضہ تاج گنج                          |    |
| 221 |                        | خواجہ الطاف حسین حائل:                | ۱۵ |
| 223 | خواجہ الطاف حسین حائل  | جدید ترقیات                           |    |
| 229 |                        | علام اقبال:                           | ۱۶ |
| 231 | علام اقبال             | شاعرِ اُمید                           |    |

|     |                 |                            |    |
|-----|-----------------|----------------------------|----|
| 238 |                 | برج نرائن چکبست:           | ۱۷ |
| 240 | برج نرائن چکبست | رامائن کا ایک سین (انتخاب) |    |
| 248 |                 | قابل اجیری:                | ۱۸ |
| 251 | قابل اجیری      | بے یادِ اجیر               |    |

## سریع مطالعہ

| نمبر شمار | عنوان                             | مضمون نگار / مصنف / مرتب | صفحہ نمبر |
|-----------|-----------------------------------|--------------------------|-----------|
| ۱         | اردو زبان کی پیدائش: مختلف نظریات | ڈاکٹر فیروز بیگ          | 257       |
| ۲         | دہستان دہلی                       | ڈاکٹر قائد علی خاں       | 261       |
| ۳         | دہستان لکھنؤ                      | ڈاکٹر قائد علی خاں       | 265       |
| ۴         | فورٹ ولیم کالج کی ادبی خدمات      | ڈاکٹر قائد علی خاں       | 268       |
| ۵         | علی گڑھ تحریک                     | ڈاکٹر فیروز بیگ          | 273       |

حصہ شر

ڈاکٹر فیروز بیگ

## داستان: تعریف اور مختصر تاریخ

داستان نثری ادب کی قدیم اور مقبول صنف ہے۔ قصہ، کہانی کو ایک صنف کی حیثیت سے داستان ہی نے متعارف کیا۔ اگرچہ ابتداء داستانیں سنائی جاتی تھیں۔ بعد میں تحریری شکل میں منظر عام پر آئیں۔ فطرت انسانی ہے کہ قصہ، کہانی کہنا اور سننا اس کا محبوب مشغله رہا۔ داستانیں اُس وقت وجود میں آئیں جب لوگوں کے پاس فرصت اور فراغت تھی۔ اس لیے داستانیں وقت گزاری کا ذریعہ ہوا کرتی تھیں۔

داستان ایک طویل اور مسلسل قصے کو کہتے ہیں، جس کی بنیاد حقیقت پر نہیں ہوتی بلکہ فرضی و خیالی چیزیں اور مافوق الفطرت عناصر پر ہوتی ہے۔ جس کا مقصد تفریح طبع اور تفکرات سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوتا تھا۔ جب انسانی شعور ترقی یافتہ نہ تھا اُس وقت یہ داستانیں انسان کی آرزوؤں، امنگوں اور جذبات کی تسکین کرتی تھیں، وہ چیزیں جو اسے حقیقی زندگی میں حاصل نہیں ہوتی تھیں وہ اسے خوابوں کی دنیا میں حاصل کرنے کی کوشش کرتا تھا۔

داستان کے فن پر نظر ڈالیں تو پلاٹ، کردار، مکالمہ، مافوق الفطرت عناصر، تجھیل و مبالغہ اور انجام یہ داستان کے لازمی اجزاء ہیں جس کے بغیر داستان مکمل نہیں ہوتی۔

داستان کے اجزاء مدرجہ ذیل ہیں:-

**پلاٹ:**

پلاٹ واقعات کی ترتیب و تنظیم کو کہتے ہیں، جو داستانوں میں اکثر مفقود ہے۔ داستانوں کے پلاٹ عموماً مر بوط مسلسل نہیں ہوتے۔ ایک قصہ میں دوسرا قصہ پیوست ہوتا ہے، مرکزی قصے میں ضمنی قصے

جوڑ دیے جاتے ہیں جو اس کی طوالت میں اضافہ کرتے ہیں، لچک پسی اس کا بنیادی عنصر ہے، داستانیں زیادہ تر عشقیہ موضوعات پر لکھی جاتی تھیں۔

### کردار:

داستانوں میں کردار حقیقی زندگی کے کرداروں سے بالکل مختلف غیر معمولی صلاحیتوں کے ماں، بادشاہ، وزیر، شہزادیاں، نجومی، رمآل، جن، دیو، پری ہوتے ہیں، شہزادہ اپنی منزل مقصود کو حاصل کرنے کے لئے فوق الفطری عناصر سے نبرد آزمائہوتا ہے اور اپنی محبت کو حاصل کر لیتا ہے۔

### ما فوق الفطرت عناصر:

فوق الفطری عناصر داستانوں کا لازمی جزو ہے، یعنی جن، دیو، پری، ہوا میں پرواز کرتے ہوئے قالین، بولتے ہوئے جانور، جادو کی ٹوپی، عجیب الخلق تلوگ اگر ان کو داستانوں سے نکال دیا جائے تو داستان، داستان نہ رہے۔

### تخیل و مبالغہ:

تخیل اور مبالغہ پر داستان کی بنیاد قائم ہوتی ہے۔ داستانیں خیالی و فرضی واقعات پر استوار ہوتی ہیں۔ ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا سارے واقعات جیرت و استتعاب میں ڈالنے والے ہوتے ہیں۔

### انجام:

داستانوں کا انجام ہمیشہ نشاطیہ اور رجائی ہوتا ہے، یہاں انسان کی کبھی شکست نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ اپنے دشمنوں پر فتح حاصل کرتا ہے۔ داستانوں میں زندگی کا راز مایوسی پر نہیں امید پر قائم ہے۔ داستانوں میں حق اور باطل کا ٹکراؤ اور باطل پر حق کی فتح دکھائی جاتی ہے۔ داستانوں میں زبان و بیان کی رنگینی عبارت آرائی اور اطافت کا ہونا ضروری ہے۔

## داستان کی تاریخ

اردو میں داستانیں نظم و نثر دونوں میں لکھی گئیں۔ اردو میں منظوم داستانوں کا سلسلہ ۱۹۳۵ء سے ملتا ہے۔ فخر دین نظامی کی مشنوی 'کدم راو پدم راو'، کو پہلی منظوم داستان کہا جاتا ہے۔ اور نظر میں ملاوجہی کی 'سب رس'، کو جو ۱۹۳۵ء میں لکھی گئی، اردو نثر کی پہلی داستان کہا جاتا ہے۔ دکن میں 'سب رس' کے علاوہ منتشری محمد ابراہیم بیجاپوری نے فارسی 'انوارِ سہیلی'، کا ترجمہ دکنی 'انوارِ سہیلی'، کے نام سے کیا۔ شمس الدین احمد نے 'الف لیلی'، کا پہلا اردو ترجمہ 'حکایت الجلیلہ'، کے نام سے کیا۔ اس کے علاوہ دکنی 'سنگھاسن بنتیسی'، اور 'ملکہ زماں و کام کندلہ'، اہم داستانیں ہیں۔

شمالی ہند میں اٹھارویں صدی سے قبل کوئی داستان نہیں ملتی، اٹھارویں صدی میں شمالی ہند کی داستانوں میں عیسوی خاں کی 'قصہ مہرا فروز و دلبر'، عطا حسین خاں تحسین کی 'نو طرزِ مرضع'، مہر چند کھتری کی، 'نو آئینہ ہندی'، عرف قصہ ملک محمد و گتی افروز، سید حسین شاہ حقیقت کی 'جذب عشق'، مغل حکمران شاہ عالم ثانی کی 'بجائب اقصص'، بھی اہم داستانیں ہیں۔

اردو داستان کو فروعِ غدینے میں فورٹ ولیم کالج میں لکھی کئی داستانوں کو فراموش نہیں کیا جاسکتا، ان میں میرا من کی 'باغ و بہار'، حیدر بخش حیدری کی 'آرائشِ محفل'، اور 'طوطا کہانی'، شیر علی افسوس کی 'باغِ اردو مرزا علی لطف' کی 'تذکرہ گلشن' ہند، بہار دلی حسینی کی 'نیڑ بے نظیر'، اخلاقی ہندی، مظہر علی والا کی 'مادھونل اور کام کندلہ' و 'ھفت گلشن'، مرزا کاظم علی جوآل کی 'شکنستلا'، نہال چند لاہوری کی 'منہب عشق'، قابل ذکر ہیں۔ اسی دور میں فورٹ ولیم کالج سے باہر بھی داستانیں لکھی گئیں ان میں انشا اللہ خاں انشا کی

‘رانی کیکنی کی کہانی’، رجب علی بیگ سرور کی، ‘فسانہ عجائب’، اہم ہیں۔ ‘فسانہ عجائب’، شمالی ہند کی پہلی اہم طبع زاد داستان ہے۔

غرض داستان امیر حمزہ، بوستان خیال، آرائشِ محفل، باغ و بہار، ‘فسانہ عجائب’، اف لیلی،

‘رانی کیکنی کی کہانی’، غیرہ اردو کی مشہور داستانیں ہیں۔

## میرامن

میرامن کا نام میر امان علی تھا اور امن تنخوا کرتے تھے۔ ۵۰۷ء میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے بزرگ مغل بادشاہ عالم گیر شاہ ثانی کے عہد حکومت تک دربار شاہی سے وابستہ رہے، اور خانہ زاد موروثی و منصب دار قدمی کھلائے۔ ۶۱۷ء میں احمد شاہ عبدالی کے حملے نے دلی شہر کو تباہ و بر باد کر دیا اور سورج مل جاٹ نے ان کی آبائی جا گیر پر قبضہ کر لیا، تو میرامن دہلی کو خیر باد کہہ کر عظیم آباد (پٹنہ) چلے آئے۔ کچھ عرصہ یہاں رہے مگر روزگار کی کوئی صورت نہ بی۔ آخر کار رکلتہ پہنچے۔ کچھ وقت بے روزگاری میں گزارا۔ آخر نشی میر بہادر علی حسینی کے ذریعہ جان گل کرسٹ سے رسائی ہوئی اور فورٹ ولیم کالج میں نشی کی حیثیت سے ملازمت حاصل کی۔

میرامن نے فورٹ ولیم کالج کے اردو زبان کے شعبے کے صدر جان گلکرسٹ کی فرمائش پر انگریز افسروں کو اردو سکھانے کے لیے فارسی قصہ چہار درویش کا ترجمہ ”باغ و بہار“ کے نام سے کیا۔ یہ ترجمہ ۱۸۰۲ء میں مکمل ہوا اور ۱۸۰۳ء میں شائع ہوا۔ اس ترجمہ میں انہوں نے ٹھیٹھ ہندوستانی زبان کا استعمال کیا ہے اور دہلی کی بولچال کی زبان اور محاورے بڑی خوبصورتی سے استعمال کیے ہیں۔ میرامن نے لکھا ہے کہ ”باغ و بہار“ کی زبان وہی ہے جو دہلی کے بچے، بوڑھے، مرد، عورت اور ہندو مسلمان بولتے ہیں۔ میرامن سے پہلے میر عطا حسین خان تحسین بھی ”نو طرزِ مرصع“ کے نام سے اس قصہ کا ترجمہ کر چکے تھے۔ لیکن اس کی زبان بہت مشکل تھی لیکن میرامن نے اس قصہ میں نہایت آسان، صاف اور بولچال کی

### زبان استعمال کی۔

باغ و بہار میں چار درویشوں کے قصے بڑے پُر لطف انداز میں بیان کیے گئے ہیں۔ زیرِ نظر کتاب میں شامل قصہ ”سیر پہلے درویش کی“، میں بھائی اور بہن کا قصہ ہے۔ میر امّن نے بہن کا ایسا صحیح اور موثر تصور پیش کیا ہے کہ ہمارے پورے داستانی ادب میں اس کی مثال ملنی مشکل ہے۔ باغ و بہار میں ہر قسم کے فوق فطری عناصر موجود ہیں۔ دیو، پری، بلائیں، جادوگر اور عجیب الخلق ت کا ذکر ہے۔ میر امّن کی زبان سادہ، سلیس اور بامحاورہ ہے۔ فارسی اور عربی الفاظ کے ساتھ ساتھ ہندی الفاظ بھی رنگینے کی طرح جڑے ہوئے ہیں۔ باغ و بہار میں اس زمانے کی تہذیب و معاشرت کی عکاسی بھی کی گئی ہے۔ اس میں اخلاقی رنگ بھی ہے اور حسن و عشق کی رنگینیاں بھی۔ اس میں اچھی داستان کی ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ میر امّن نے ایک اور فارسی کتاب ملا حسین واعظ کا شفی کی ”اخلاقِ محسنی“، کا ”گنجِ خوبی“، کے نام سے اردو میں ترجمہ کیا لیکن یہ زیادہ مقبول نہیں ہوا۔ ۱۸۳۷ء میں میر امّن کا انتقال ہوا۔

میر امن دہلوی

## سیر پہلے دوریش کی

میری پیدائش اور وطن بزرگوں کا ملک یمن ہے۔ والد اس عاجز کا ملک التجار خواجہ احمد نام بڑا سودا گر تھا۔ اس وقت میں کوئی مہاجن یا پیپاری ان کے برابر نہ تھا۔ اکثر شہروں میں کوٹھیاں اور گماشتوں، خرید و فروخت کے واسطے مقرر تھے، اور لاکھوں روپے نقد اور جنس ملک ملک کی گھر میں موجود تھی۔ ان کے بیہاں دولڑ کے پیدا ہوئے۔ ایک تو یہی فقیر جو کفنی میلی پہنے ہوئے مرشدوں کی حضوری میں حاضر اور بولتا ہے۔ دوسری ایک بہن جس کی قبلہ گاہ نے اپنے جیتے جی اور شہر کے سودا گر بچے سے شادی کر دی تھی۔ وہ اپنی سرال میں رہتی تھی غرض جس کے گھر میں اتنی دولت اور ایک لڑکا ہواں کے لاڈ پیار کا کیا ٹھکانا ہے؟ مجھ فقیر نے بڑے چاؤ چوز سے ماں باپ کے سامنے میں پرورش پائی اور پڑھنا لکھنا، سپاہ گری کا کسب فن، سودا گری کا بھی لکھنا، روز نامچہ سکھبینے لگا۔ چودہ برس تک نہایت خوشی اور بے فکری میں گزرے۔ کچھ دنیا کا اندر یشہ دل میں نہ آیا۔ یک بہیک ایک ہی سال میں والدین قضاۓ الہی سے مر گئے۔

عجب طرح کاغم ہوا جس کا بیان نہیں کر سکتا۔ ایک بارگی یتیم ہو گیا۔ کوئی سر پر بوڑھا بڑا نہ رہا۔ اس مصیبت ناگہانی سے رات دن رویا کرتا، کھانا پینا سب چھوٹ گیا۔ چالیس دن جوں توں کر کٹے۔ چہلم میں اپنے بیگانے چھوٹے بڑے جمع ہوئے۔ جب فاتحہ سے فراغت ہوئی، سب نے فقیر کو باپ کی پگڑی بندھوائی اور سمجھایا۔ دنیا میں سب کے ماں باپ مرتے آئے ہیں اور اپنے تیئیں بھی ایک روز مزنا ہے۔ پس صبر کرو، اپنے گھر کو دیکھو، اب باپ کی جگہ تم سردار ہوئے۔ اپنے کاروبار لین دین سے ہشیار رہو۔ تسلی دے کر وہ رخصت ہوئے۔ گماشتوں کا روباری، نوکر چاکر جتنے تھے آن کر حاضر ہوئے۔ نذر دیں اور بولے کوٹھے نقد جنس کی اپنی نظر مبارک سے دیکھ لیجئے۔ ایک بارگی جو اس دولت بے انہا پر نگاہ

پڑی، آنکھیں کھل گئیں۔ دیوان خانے کی تیاری کا حکم کیا۔ فراشوں نے فرش فروش بچھا کر چھت پر دے، چلو نیں تکلف کی لگادیں اور اچھے اچھے خدمت گار، دیدہ رونو کر رکھے۔ سرکار سے زرق برق کی پوشائیں بنوادیں۔ فقیر مند پر تکیہ لگا کر بیٹھا۔ ویسے ہی آدمی غندے، پھانکڑے، مفت پر کھانے پینے والے، جھوٹے خوشامدی آ کر آشنا ہوئے اور مصاحب بنے، ان سے آٹھ پہر صحبت رہنے لگی ہر کہیں کی با تین اور ٹیلیں، وہی تباہی ادھر ادھر کی کرتے اور کہتے ”اس جوانی کے عالم میں کیتیکی کی شراب یا گل گلاب کھنچوایے ناز نہیں معشوقوں کو بلو اکران کے ساتھ پیجئے اور عیش کیجئے۔

غرض آدمی کا شیطان آدمی ہے! ہر دم کہنے سننے سے اپنا بھی مزاج بہک گیا۔ شراب ناق اور جوئے کا چرچا شروع ہوا۔ پھر تو یہ نوبت پہنچی کہ سودا گری بھول کر تماش بینی کا اور دینے لینے کا سودا ہوا۔ اپنے نوکر اور رفیقوں نے جب یہ غفلت دیکھی، جو جس کے ہاتھ پڑا الگ کیا، گویا لوٹ مچا دی۔ کچھ خبر نہ تھی کتنا روپیہ خرچ ہوتا ہے، کہاں سے آتا اور کہ دھر جاتا ہے۔ مالِ مفت دل بے رحم۔ اس درخراچی کے آگے اگر گنج قارون کا ہوتا تو بھی وفا نہ کرتا۔ کئی برس کے عرصے میں ایک بارگی یہ حالت ہوئی کہ فقط ٹوپی اور لنگوٹی باقی رہی۔ دوست آشنا جودانت کاٹی روٹی کھاتے تھے اور چچپہ بھرخون اپنا ہر بات میں نثار کرتے تھے کافور ہو گئے۔ بلکہ راہ بات میں اگر کہیں بھینٹ ملاقات ہو جاتی تو آنکھیں چرا کر منہ پھیر لیتے اور نوکر چاکر، خدمت گار، بہلیے ڈھیلت، خاص بردار، ثابت خانی سب چھوڑ کر کنارے لگے۔ کوئی بات کا پوچھنے والا نہ رہا، جو کہے یہ کیا تمہارا حال ہوا۔ سوائے غم اور افسوس کے کوئی رفیق نہ ہوا۔

اب دمڑی کی ٹھڈیاں میسر نہیں جو چبا کر پانی پیوں۔ دو تین فاقہ کڑا کے کھینچتا بھوک کی نہ لاسکا۔ لاچار بے حیائی کا بر قعہ منہ پر ڈال کر یہ قصد کیا بہن کے پاس چلیے۔ لیکن یہ شرم دل میں آتی تھی کہ قبلہ گاہ کی وفات کے بعد نہ بہن سے کچھ سلوک کیا۔ نہ خالی خط لکھا بلکہ اس نے دو ایک خط خطوط ماتم پر سی اور اشتیاق کے جو لکھے ان کا بھی جواب اس خوابِ خرگوش میں نہ بھیجا۔ اس شرمندگی سے جی تو نہ چاہتا تھا،

پرسوائے اس گھر کے اور کوئی ٹھکانہ نظر میں نہ ٹھہرا۔ جوں توں پاپیادہ خالی ہاتھ گرتا پڑتا ہزار محنت سے وہ کئی منزلیں کاٹ کر ہمیشہ کے شہر میں جا کر اُس کے مکان پر پہنچا۔

وہ ماں جائی میرا یہ حال دیکھ کر بلائیں لے اور گلے مل کر بہت روئی تیل، ماش اور کالے ٹکلے مجھ پر سے صدقے کیے، کہنے لگی اگرچہ ملاقات سے دل بہت خوش ہوا، لیکن بھیا تیری یہ کیا صورت بنی؟ اس کا جواب میں کچھ نہ دے سکا۔ آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا کر چپکا ہو رہا۔ بہن نے جلدی خاصی پوشاک سلوا کر حمام میں بھیجا۔ نہاد ہو کروہ کپڑے پہنے۔ ایک مکان اپنے پاس، بہت اچھا تکلف کا میرے رہنے کو مقرر کیا۔ صحیح کو شربت اور لوزیات حلوا، سوہن پستہ، مغزی ناشتے کو اور تیسرے پھر میوے، خشک و ترپھل پھلاری اور رات دن دونوں وقت پلاو نان قلیے، کباب تختہ تختہ، مزے دار منگو اکرا پنے رو برو کھلا کر جاتی۔ سب طرح خاطرداری کرتی۔ میں نے ویسی تصدیع کے بعد جو یہ آرام پایا، خدا کی درگاہ میں ہزار ہزار شکر بجالا یا۔ کئی مہینے اس فراغت سے گزرے کہ پانوں اس خلوت سے باہر نہ رکھا۔

ایک دن وہ بہن جو بجائے والدہ کے میری خاطر رکھتی تھی کہنے لگی۔ ”اے بیرون! تو میری آنکھوں کی پتلی اور ماں باپ کی موئی مٹی کی نشانی ہے۔ تیرے آنے سے میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوا۔ جب تجھے دیکھتی ہوں باغ باغ ہوتی ہوں۔ تو نے مجھے نہال کیا لیکن مردوں کو خدا نے کمانے کے لئے بنایا ہے۔ گھر میں بیٹھ رہنا ان کو لازم نہیں۔ جو مرد کھٹو ہو کر گھر سیتا ہے اُس کو دنیا کے لوگ طعنہ مہنا دیتے ہیں۔ خصوصاً اس شہر کے آدمی چھوٹے بڑے بے سبب تمہارے رہنے پر کہیں گے، اپنے باپ کی دولت دنیا کھو، کھا کر بہنوئی کے ٹکڑوں پر آپڑا۔ یہ نہایت بے غیرتی اور میری تمہاری ہنسائی اور ماں باپ کے نام کو سبب لاج لگنے کا ہے۔ نہیں تو میں اپنے چبڑی کی جوتیاں بنائے کر تجھے پہناؤں اور کلیجے میں ڈال رکھوں۔ اب یہ صلاح ہے کہ سفر کا قصد کرو۔ خدا چاہے تو دن پھریں اور اس جیرانی و مفلسی کے بد لے خاطر جمعی اور خوشی حاصل ہو۔ یہ بات سن کر مجھے بھی غیرت آئی، اس کی نصیحت پسند کی۔ جواب دیا ”اچھا اب تم ماں کی جگہ ہو،

جو کہ سوکروں،“ یہ میری مرضی پا کر گھر میں جا کے، پچاس توڑے اشرنی کے اصل لوٹدیوں کے ہاتھوں میں لو اکر میرے آگے لارکھے اور بولی ”ایک قافلہ سوداگروں کا دمشق کو جاتا ہے۔ تم ان روپیوں سے جنس تجارت کی خرید کرو۔ ایک تاجر ایمان دار کے حوالے کر کے، دست آویز پکی لکھوا لوا اور آپ بھی قصد دمشق کا کرو۔ وہاں جب خیریت سے جا پہنچو، اپنا مال مع منافع سمجھ بوجھ لجو یا آپ بچو،“ میں وہ نقد لے کر بازار میں گیا۔ اسباب سوداگری کا خرید کر، ایک بڑے سوداگر کے سپرد کیا۔ نوشت و خواند سے خاطر جمع کر لی۔ وہ تاجر دریا کی راہ سے جہاز پر سوار ہو کر روانہ ہوا۔ فقیر نے خشکی کے راستے چلنے کی تیاری کی۔ جب رخصت ہونے لگا، بہن نے ایک سرے پاو بھاری اور ایک گھوڑا جڑ اوساز سے تواضع کیا اور مٹھائی پکوان ایک خاصدان میں بھر کر ہرنے سے لٹکا دیا اور چھاگل پانی کی شکار بند میں بندھوادی۔ امام ضامن کا روپیہ میرے بازو پر باندھا، وہی کاٹیا ماتھے پر لگا کر آنسو پی کر بولی ”سدھارو! تمہیں خدا کو سونپا۔ پیٹھ دکھائے جاتے ہو، اسی طرح جلد اپنا منہ دکھائیو، میں نے فاتحہ خیر کی پڑھ کر کہا، ”تمہارا بھی اللہ حافظ ہے، میں نے قبول کیا۔“ وہاں سے نکل کر گھوڑے پر سوار ہوا اور خدا کے توکل پر بھروسہ کر کے دو منزل کی ایک منزل کرتا ہوا دمشق کے پاس جا پہنچا۔

## مشکل الفاظ اور ان کے معانی

| الفاظ    | معانی   |
|----------|---|
| مہاجن    | دولت مند، سوداگر، ساہوکار                               |
| گماشته   | وہ شخص جسے کوئی کام سپرد کیا گیا ہو، کارندہ، منیم، وکیل |
| مرشد     | ہدایت کرنے والا، رہنماء، پیر، اُستاد                    |
| قبلہ گاہ | والد ماجد، بزرگ   |
| سپاہ گری | سپاہی کا کام یا پیشہ                                    |
| روزنامچہ | ہر روز حساب لکھنے کی کتاب، ڈائری                        |
| اندیشہ   | فکر، سوچ، خوف   |
| چہلم     | چالیسوال، چالیسویں کا فاتحہ                             |
| آن       | قسم، عہد، سو گند، بڑوں کی رسم کے خلاف                   |
| نذر      | کسی بڑے کے سامنے کوئی چیز بطور تکہ پیش کرنا             |
| لگا      | لاگ، پیار، دوستی، نسبت، برابری، ہمسری، ڈھنگ، شروع       |
| زرق برق  | شان و شوکت والا   |
| خوشامدی  | جھوٹی تعریفیں کرنے والا۔                                |
| آشنا     | واقف کار، جان پہچان والا                                |
| مُصاحب   | ساتھی، ہم نشین، خاص دوست                                |
| صحبت     | ساتھ، دوستی، ہمراہی، مجلس، مل بیٹھنا                    |

|  |              |
|--|--------------|
| بکواس، بے معنی بات، فضول قصہ                               | زنلیں        |
| زمانہ، دُنیا، مخلوق، قسم، جنس، حالت صورت، ڈھنگ             | عالم         |
| طبعت، خاصیت، عادت  | مِزاج        |
| معشوق کے عاشقوں میں سے کوئی ایک                            | رقیب         |
| حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پچازاًد بھائی جو بہت مالدار تھا۔ | قارون        |
| صرف، تنہا، اکیلا، بس، ختم                                  | فقط          |
| وہ چیز جو آسانی سے مل سکے، حاصل، موجود                     | میسر         |
| ارادہ، نیت، مطلب، کوشش                                     | قصد          |
| شوq، آرزو، تمثنا   | اشتیاق       |
| پیدل، سواری کے بغیر، پاؤں پاؤں                             | پاپیادہ      |
| بادام کا حلوا  | لوزیات       |
| دکھ، درد، تکلیف  | تصدیع        |
| نجات، رہائی، اطمینان، آسودگی                               | فراغت        |
| تنہائی کی جگہ، خواب گاہ                                    | خلوت         |
| مرا ہوا، مردہ، لغش، میت                                    | موئی مٹی     |
| تحریر، لکھائی، لکھنا پڑھنا                                 | نوشت و خواند |
| سوکھاپن، نبی نہ ہونا، روکھاپن، زمین                        | خشکی         |
| خاطر مدارت، مہماں نوازی                                    | تواضع        |

## مشقی سوالات

**مختصر ترین سوالات:**

- ۱۔ ”سیر پہلے درویش کی“، کس داستان کا قصہ ہے؟
- ۲۔ ”باغ و بہار“ کے مصنف کا کیا نام ہے؟
- ۳۔ مرشدوں کی حضوری میں کون حاضر رہتا تھا؟

**مختصر سوالات:**

- ۴۔ پہلے درویش کو عجب طرح کاغم کیوں ہوا؟
- ۵۔ داستان ”باغ و بہار“ کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟
- ۶۔ بہن نے پہلے درویش کی خاطرداری کس طرح کی؟

**تفصیلی سوالات:**

- ۷۔ داستان کسے کہتے ہیں؟ داستان کی تعریف اور اجزاء ترکیبی بیان کیجیے۔
- ۸۔ میرامن کی حالاتِ زندگی تحریر کیجیے اور ان کی ادبی خدمات پر روشنی ڈالیے۔

ڈاکٹر فیروز بیگ

## ناول: تعریف اور مختصر تاریخ

ناول اطالوی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ”نیا“ کے ہیں۔ زندگی کی عکاسی کرنے والے مسلسل قصے یا کہانی کو ناول کہا جاتا ہے۔ یہ کہانی کی جدید صنف ہے جو داستان کے بعد منظر عام پر آئی۔ وقت کی ضرورت اور زمانہ کے حالات کے سبب ناول وجود پذیر ہوا۔ ناول میں داستان کے برعکس زندگی کی حقیقتوں کو بے نقاب کیا گیا ہے۔ ناول اور زندگی کا چولی دامن کا ساتھ ہے، ناول سیاسی، سماجی، اخلاقی، اصلاحی، تاریخی سبھی موضوعات پر لکھے گئے جہاں تک فن اور تکنیک کا تعلق ہے ناول میں کہانی، پلاٹ کردار، مکالمے، پس منظر، زماں و مکاں، اسلوب، نقطہ نظر، ضروری اجزاء ہیں جو کم و بیش سبھی ناولوں میں ملتے ہیں۔

### ۱۔ کہانی:

ناول کا بنیادی عضر ہے، ناول میں کہانی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ ہر افسانوی صنف چاہے وہ داستان ہو، ناول ہو، مختصر افسانہ ہو یا ڈرامہ سبھی میں کہانی اس کا اہم حصہ ہوتی ہے۔ ناول میں حقیقی زندگی کی کہانی پیش کی جاتی ہے۔ قدیم زمانے سے ہی انسان قصے کہانیوں میں دلچسپی لیتا رہا ہے لیکن وقت کے ساتھ اس کے روپ بدلتے رہے۔ ہر کہانی میں ابتداء ہوتی ہے درمیانی حصہ نقطہ عروج ہوتا ہے پھر کہانی انجام پر ختم ہوتی ہے۔ کہانی میں دلچسپی کا برقرار رہنا انتہائی ضروری ہے۔

### ۲۔ پلاٹ:

پلاٹ میں واقعات کو ترتیب کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے جس میں ربط کا ہونا ضروری ہے۔ کہانی

میں مختلف واقعات ہوتے ہیں۔ ایک واقعے کا دوسرے واقعے پر جواہر پڑتا ہے اس کو نمایاں کیا جاتا ہے۔ پلاٹ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک مربوط پلاٹ دوسرے غیر مربوط پلاٹ۔ مربوط پلاٹ میں غیر اہم واقعات اور کرداروں کو بڑے پیمانے پر پیش نہیں کیا جاتا بلکہ ضروری اور اہم واقعات و کرداروں کو فوقيت دی جاتی ہے۔ غیر مربوط پلاٹ وہ ہوتے ہیں جس میں بے شمار واقعات و کردار بے ترتیب انداز میں موجود رہتے ہیں۔

### ۳۔ کردار:

ناول میں حقیقی زندگی کے جیتے جا گئے چلتے پھرتے کردار ہوتے ہیں جو روزمرہ کی زندگی میں ہمیں نظر آتے ہیں، کردار ہی کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ناول کے کرداروں کی خوبی اس بات پر منحصر ہے کہ وہ ایسے جیتے جا گئے ہوں کہ ہم انھیں حقیقی انسان سمجھ لیں جیسے نذریاحمد کا ناول 'مراۃ العروس' میں اصغری و اکبری کا کردار، 'توبۃ النصوح' میں مرزان ظاہردار بیگ کا کردار، مرزابادی رسوا کے ناول 'امراۃ جان ادا' میں امراۃ جان ادا کا کردار اتنے حقیقی معلوم ہوتے ہیں کہ ان پر فرضی و خیالی ہونے کا گمان تک نہیں ہوتا۔ کردار دو طرح کے ہوتے ہیں یک رخی (Flat) دوسرے پہلو دار (Round) کردار جو کہانی کو مکمل بناتے ہیں۔

### ۴۔ مکالمے:

کرداروں کے درمیان آپسی گفتگو اور بات چیت کو مکالمے کہتے ہیں، مکالمہ فطری اور کرداروں کے حسب مراتب ہونے چاہئیں۔ کردار جس حیثیت اور طبقہ سے تعلق رکھتا ہے اسی کے مطابق مکالمے لکھے جاتے ہیں۔ جیسے بادشاہ کے مکالموں سے اس کے شاہی مرتبہ اور غلام کے مکالموں سے عاجزی و انکساری ظاہر ہونی چاہیے۔ اعلیٰ متوسط اور ادنیٰ سبھی طبقے کے کردار کہانی کا حصہ ہوتے ہیں۔ ناول نگار کو اچھے مکالمے لکھنے کے لیے زبان و بیان پر قدرت ہونا بہت ضروری ہے۔

### ۵۔ زمال و مکاں:

ناول میں کہانی کو سمجھنے کے لیے اس کے پس منظر، محول اور زمال و مکاں کا اہم روپ ہوتا ہے، کردار کس محول کا پروار ہے، قصہ میں پیش آنے والے واقعات کس مقام اور زمانہ سے تعلق رکھتے ہیں غرض ناول نہ صرف اپنے دور کی نمائندگی کرتے ہیں بلکہ اس دور کی تہذیب و معاشرت، اخلاقی اقدار کی جھلک بھی ان میں دیکھی جاسکتی ہے۔ چونکہ ناول حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں اس لیے ان کا محول، پس منظر اور زمال و مکاں بھی اتنے ہی حقیقی ہوتے ہیں۔

### ۶۔ اسلوب:

ناول میں اسلوب کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اس پر ناول کی کامیابی کا انحصار ہوتا ہے، مصنف کا اسلوب بیان ہی اس کی پہچان بتتا ہے۔ ہر صنف ادب کا اسلوب منفرد ہوتا ہے، ناول میں واقعات کی ترتیب ہو یا کرداروں کا ارتقاء یا قصہ میں دلچسپی کا عنصر سب ناول نگار کے بہترین اسلوب نگارش کا نتیجہ ہوتے ہیں۔

### ۷۔ نقطہ نظر:

ناول نگار زندگی کے جس پہلو کو کرداروں کے ذریعہ قاری تک پہنچاتا ہے اس میں اس کا نقطہ نظر واضح طور پر سامنے آ جاتا ہے جیسے نذرِ احمد کی ناول میں ان کا اصلاحی نقطہ نظر صاف نظر آتا ہے۔ امراءُ جان ادا کے قصے کو پڑھ کر ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ انسان بذاتِ خود را ہ راست پر ہوتا ہے لیکن حالات و واقعات بھی اسے برے راستے پر لے جاتے ہیں۔

### ۸۔ ناول کا ارتقاء:

اردو میں ناول نگاری کا آغاز نذرِ احمد سے مانا جاتا ہے۔ ان کا ناول ”مراة العروس“، جو کہ

۱۸۶۹ء میں لکھا گیا اردو کا پہلا ناول تسلیم کیا گیا۔ نذر احمد نے متوسط طبقہ کے مسلم گھرانوں کی معاشی اور اخلاقی زندگی پر غور کیا اور اس کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ 'مراة العروس'، 'بنات النعش'، 'توبۃ النصوح'، 'فسانۃ بنیلہ'، 'ابن الوقت'، 'ایامی'، 'رویائے صادقة' ان کے مشہور ناول ہیں۔

پنڈت رتن ناٹھ سرشار کا مشہور ناول 'فسانۃ آزاد' ہے جس میں لکھنؤی تہذیب و معاشرت کی عکاسی کی ہے۔ 'جامِ سرشار'، 'سیر کہسار'، 'کامنی'، 'کڑم دھرم'، ان کے نمائندہ ناول ہیں۔

عبدالحکیم شررنے کامیاب تاریخی ناول لکھے۔ فردوس بریں، منصور موہنا، ملک ورجینا ان کے مشہور ناول ہیں۔

مرزا ہادی رسو اکا نام ان کے شاہکار ناول امراؤ جان ادا کی وجہ سے ادبی حلقوں میں مشہور ہوا۔ یہ ایک بہترین ناول ہے جس میں نفسیاتی تجزیہ بھی موجود ہے اور لکھنؤی تہذیب بھی، آپ نے ذات شریف، شریف زادہ، اختری بیگم، افشاۓ راز ناول بھی لکھے۔

پریم چندر اردو کے مشہور اور کامیاب ناول نگار ہیں انہوں نے سماجی مسائل، دیہی زندگی اور حقیقت نگاری کو ناول میں جگہ دی، انہوں نے بہت سے ناول لکھے ان میں 'جلوہ ایثار'، 'بازارِ حسن'، 'گوشۂ عافیت'، 'غبن'، 'نرملاء'، 'پردۂ نجائز'، 'چوگان ہستی'، 'بیوہ'، 'میدانِ عمل'، 'گودان' شامل ہیں۔

ترقی پسند تحریک کا آغاز ۱۹۳۶ء میں ہوا جس نے ادب کو زندگی سے قریب تر کیا۔ اردو ناول کو بعض نئے روحانات سے روشناس کرایا۔ اس دور میں جو ناول لکھے گئے ان میں سجاد ظہیر کا 'لندن کی ایک رات'، قاضی عبدالغفار کا 'لیلی' کے خطوط، عصمت چفتائی کا 'ٹیڑھی لکیر'، قرۃ العین حیدر کا 'آگ کا دریا'، کرشن چندر کا 'شکست' اور عزیز احمد کا 'گریز'، قابل ذکر ہیں۔

کرشن چندر نے اپنی ناولوں میں اشتراکی خیالات کو پیش کیا وہیں عصمت چفتائی نے متوسط گھرانوں کے لڑکے لڑکیوں کے جنسی مسائل کو ناولوں کا موضوع بنایا، قرۃ العین حیدر کا مطالعہ بہت وسیع

تھا، انہوں نے نئی تکنیک شعور کی رو سے متعارف کرایا اور اسے اپنی ناولوں میں بخوبی برتا۔ آگ کا دریا ان کا مشہور ناول ہے۔

تقسیم ملک کے بعد ان حالات کا عکس اس عہد کی تخلیقات میں دیکھا جاسکتا ہے۔ اس دور میں عبداللہ حسین کا، اس نسلیں، شوکت صدیقی کا، خدا کی بستی، خدیجہ مستور کا، آنگن، حیات اللہ انصاری کا، لہو کے پھول، راجندر سنگھ بیدی کا، ایک چادر میلی سی، بلونٹ سنگھ کا، معمولی لڑکی، قاضی عبدالستار کا، شب گزیدہ، مہندر ناتھ کا، ارمانوں کی سیج، جمیلہ ہاشمی کا، تلاش بھاراں، جیلانی بانوں کا، ایوان غزل، انور سجاد کا، خوشیوں کا باغ، انتظار حسین کا، بستی، سلیم اختر کا، ضبط کی دیوار، جیسے ناول منظر عام پر آئے۔

ڈاکٹر فیروز بیگ

## ڈپٹی نذری احمد

مولوی نذری احمد ۱۸۳۶ء میں بجور میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام مولوی سعادت علی تھا نذری احمد نے عربی فارسی کی ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی، پھر مولوی نصر اللہ خاں صاحب ڈپٹی گلٹر بجور سے عربی، نجوم، منطق اور فلسفہ پڑھا۔ چودہ سال کی عمر تھی کہ والد ان کو دہلی لے آئے اور تعلیم کے لئے آپ کو مولوی عبدالخالق کے سپرد کیا۔ نذری احمد نے طالب علمی کے زمانے میں استاد کا حکم بجالانے میں کوئی کسر باتی نہیں چھوڑی۔ مولوی صاحب کے گھر کا سودا سلف لانا، کھانے کی صورت نہ ہوتی تو گھر گھر سے کھانا مانگ کر لاتے۔ ان کی پوتی اپنے گھر اور سارے محلے کا مصالحہ باریک پسواتی تھی۔ مولوی صاحب نے ان کی لیاقت اور پڑھائی میں ان کی ترقی کو دیکھ کر اپنی پوتی کی شادی ان سے کر دی۔ دہلی کا لج میں داخلہ لیا۔ انتہائی محنت و لگن سے پڑھائی پوری کی پھر مدرس کی حیثیت سے پنجاب میں تقرر ہوا۔ ڈپٹی انسپکٹر مدارس کا نپور اور الہ آباد مقرر ہوئے۔ تعریفات ہند کے ترجمے کا کام بھی کیا۔ ۱۸۶۳ء میں ڈپٹی گلٹر بنے۔ سرسالار جنگ حیدر آباد نے ان کو حیدر آباد بلا لیا۔ ان کے انتقال کے بعد مولوی صاحب دہلی چلے آئے اور باقی زندگی درس و تدریس اور تصنیف و تالیف میں گزار دی۔ ۱۸۹۷ء میں ان کو شمس العلماء کا خطاب ملا۔

نذری احمد اردو کے پہلے ناول نگار ہیں۔ آپ نے غیر شعوری طور پر ناول نگاری کی شروعات کی۔

انہوں نے اپنے بچوں کو ابتدائی تعلیم دینے کے لیے ایسے قصے چنے جو دلچسپ بھی ہوں اور نصیحت آموز بھی۔ نذری احمد نے ناولوں میں حقیقی زندگی کی تصویر کشی کی ہے اور مسلم معاشرت کے جیتے جا گئے مرقعے پیش کیے ہیں۔ نذری احمد کا ہر ناول اصلاحی ہے اور کسی نہ کسی سماجی عیب کو دور کرنے کے خیال سے لکھا کیا ہے۔ نذری احمد کے ناولوں میں مقصدیت حاوی ہے۔ انہوں نے اپنے قصوں سے دینداری، خدا ترسی اور

اصلاح معاشرت کا کام لیا ہے۔ ان کی نظر فن کے بجائے مقصد پر ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنے ناولوں میں مختلف موضوعات پر قلم اٹھایا۔ لڑکیوں کی تعلیم و تربیت، خانہ داری، پاکیزہ مذہبی فضا، ان کے ذاتی تجربات و نظریات، ہمیں ان کی ناولوں میں جگہ جگہ نظر آتے ہیں۔ ان ناولوں کے پلاٹ مربوط ہیں۔ کردار نگاری میں انھیں مہارت حاصل ہے۔ مکالے لا جواب ہیں۔

ندیرا احمد کا پہلا ناول ”مراة العروس“ ہے جو ۱۸۶۹ء میں لکھا گیا۔ مراۃ العروس کے بعد انہوں نے ”بنات النعش“، لکھا یہ ناول ۱۸۷۳ء میں شائع ہوا۔ ”توبۃ النصوح“ ۱۸۷۷ء میں شائع ہوا۔ ۱۸۸۵ء میں ”فسانۃ بتلما“ لکھا۔ ابن الوقت ۱۸۸۸ء میں شائع ہوا۔ اس کے بعد ”ایامی“ پھر ۱۸۹۲ء میں ”رویائے صادقة“ شائع ہوا۔ انہوں نے ان تمام ناولوں کے ذریعہ معاشرے کی اصلاح کرنے کی کوشش کی اور خاص طور پر تعلیم نسوان کی اہمیت اور ضرورت پر زور دیا۔ توبۃ النصوح ایک مقصدی ناول ہے۔ ندیرا احمد نے ہر کردار کو بہت اچھے ڈھنگ سے پیش کیا ہے۔ مرزا طاہر دار بیگ توبۃ النصوح کا ایک زندہ اور فطری کردار ہے۔ طاہر دار بیگ جیسے خود پسند، خوشامدی، ظاہر دار، نمائش پرست کردار ہر دور میں پائے جاتے ہیں۔ طاہر دار بیگ جو اصلی زندگی میں دولت و ثروت سے محروم رہا اپنی لفاظی اور جادو بیانی کے ذریعہ اپنی شان و شوکت کو قائم رکھنے میں مصروف تھا۔ امیرزادوں کی صحبت میں اٹھنا بیٹھنا، امیروں جیسی عادتیں اختیار کرنا اور ان ہی لوگوں کی طرح وضع قطع بنانا، مشاعروں اور نشستوں میں بلا تکلف جانا اور خود کو جمعدار کی اولاد طاہر کرنا، کچھ ایسی باتیں ہیں جن سے ہم اس پر لطف کردار کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں سے واقف ہو جاتے ہیں گرچہ یہ کردار مختصر عرصے کے لئے ہمارے سامنے آتا ہے مگر اپنی چرب زبانی سے جھوٹ کو سچ بنانا کراس طرح پیش کرتا ہے کہ ہمیں اس کی غلط بیانی کا گمان تک نہیں ہوتا۔

نصاب میں شامل سبق مرزا طاہر دار بیگ ندیرا احمد کی ناول ”توبۃ النصوح“ کا کردار ہے جس میں انہوں نے مرزا طاہر دار بیگ کا خاکہ کھینچا ہے۔

ڈپٹی نذریا احمد

## مرزا ناطا ہردار بیگ

اس شخص کی کیفیت یہ تھی کہ شاید اس کا نانا، وہ بھی حقیقی نہیں، ابتدائے عمل داری سرکار میں جناب ریزیڈنٹ کی اردوی کام جمودار تھا۔ اول تو ایسی عالی جاہ سرکار، دوسرے باعتبار منصب اردوی کام جمودار، تیسرا ان دونوں کی بے عنوانی، اس پر خود اس کی رشوت ستانی، بہت کچھ کمایا۔ یہاں تک کہ اس کا اعتداد دلی کے رواداروں میں ہو گیا۔ مرزا کی ماں ادائی عمر میں بیوہ ہو گئی تھی۔ جمع دار نے باوجود دے کہ دور کی قرابت تھی۔ حبۃ اللہ اس کا تکلف اپنے ذمے لے لیا۔ جمودار اپنی حیات میں تو اتنا سلوک کرتا رہا کہ مرزا کو یتیمی اور اس کی ماں کو بیوگی بھول کر بھی یاد نہ آئی ہوگی۔ لیکن جمودار کے مرنے پر، اس کے بیٹے پوتے، نواسے کثرت سے تھے۔ انہوں نے بے انتہائی کی۔ اگرچہ جمودار بہت کچھ وصیت کر مرے تھے۔ مگر ان کے ورثانے بہ ہزار دقت محل سرا کے پہلو، میں ایک بہت چھوٹا سا قطعہ ان کے رہنے کو دیا اور سات روپے مہینے کے کرائے کی دکانیں مرزا کے نام کر دیں۔ یہ تو حال تھا کہ مرزا، مرزا کی ماں، مرزا کی بیوی، تین تین آدمی اور سات روپے کی کل کائنات اس پر مرزا کی شیخی اور نمودیہ مسخرہ اس ہستی پر چاہتا تھا کہ جمودار والوں کی برابری کرے، جن کو صد ہاروپے ماہوار کی آمد نہ تھی اگرچہ جمودار والے اس کو منہ نہیں لگاتے تھے، مگر یہ بے غیرت زبردستی ان میں گھستا تھا یہ کسی کو بھائی جان، کسی کو ماموں جان، کسی کو غالوجان بناتا، اور وہ لوگ اس کے ادعائی رشتؤں ناتوں سے جلتے اور دق ہوتے، اوپنجی حیثیت کے لوگوں میں بیٹھنا اس کے حق میں اور زبوں تھا۔ ان کی دیکھادیکھی اس نے تمام عادتیں امیرزادوں کی سی اختیار کر رکھی تھیں۔ مگر امیرزادگی نہجے تو کیسے؟ دکانیں گروہی ہوتی جاتی تھیں۔ ماں بے چاری بہتیرا کمی، مگر کون سنتا تھا؟ مرزا کو جب دیکھو، پانو میں ڈبڑھ حاشیے کی جوتی، سر پر دو ہری بیل کی بھاری کامدار ٹوپی، بدن میں ایک چھوڑ دودو

انگر کھے، اوپر ہلکی سی تن زیب، نیچے کوئی طرح دار ڈھا کے کا نینو، جاڑا ہوا تو بانات، مگر سات روپے گز سے کم کی نہیں، خیر، یہ تو صحیح و شام، اور تیسرے پھر کاشانی محمل کی آصف خانی، جس میں حریر کی سنجاف کے علاوہ گنگا جمنی کم خواب کی عمدہ بیل ٹنکی ہوئی، سرخ نیفہ، پائجاما اگر ڈھیلے پائچوں کا ہوا تو کلی دار اور اس قدر نیچا کہ ٹھوکر کے اشارے سے دو دو قدم آگے، اور اگر تنگ مہری کا ہوا تو نصف ساق تک چوڑیاں، اور اوپر جلد بدن کی طرح منڈھا ہوا، ریشمی ازار بند گھٹنوں میں لٹکتا ہوا اور اس میں بے قفل کی کنجیوں کا گچھا غرض دیکھا تو مرزا صاحب اس ہیئت کذائی سے چھیلا بنے ہوئے سر باز ارجھم چھم کرتے چلے جا رہے ہیں۔

کلیم سے، اور مرزا سے محفل مشاعرہ میں تعارف ہوا شدہ مرزا صاحب کلیم کے مکان پر تشریف لانے لگے، یہاں تک کہ چند روز سے تو دونوں میں ایسی گاڑھی چھنے لگی تھی کہ گویا ایک جان دو قالب تھے۔ کلیم کو تو مرزا کے مکان پر جانے کا کبھی اتفاق نہیں ہوا مگر مرزا شام کو تو کبھی کبھی، لیکن صحیح کو بلانا غم آتے، اور تمام تمام دن کلیم کے پاس رہتے، مرزا نے اپنا اصلی حال کلیم پر ظاہر نہیں ہونے دیا، کلیم یہی جانتا تھا کہ جمودار کا تمام تر کہ مرزا کو ملا ہے اور وہ جمودار کے بیٹے پوتوں کو مرزا کی محل سرا اور جمودار کے دیوان خانے کو مرزا کا دیوان خانہ اور جمودار کے بیٹے پوتوں کے نوکروں کو مرزا کے نوکر سمجھتا تھا، اور اسی غلط فہمی میں وہ گھر سے نکلا، تو سیدھا جمودار کے محل سرا کی دیوڑھی پر جا موجود ہوا۔ بار بار کے پکارنے اور کنڈی کھڑکھڑا نے سے دلوٹ دیاں چراغ لیے ہوئے اندر سے نکلیں اور ان میں سے ایک نے پوچھا،

کون صاحب ہیں، اور اتنی رات گئے کیا کام ہے؟

کلیم۔ جاؤ مرزا کو فتح دو۔

لوٹڈی۔ کون مرزا؟

کلیم۔ مرزا ظاہر دار بیگ، جن کا مکان ہے، اور کون مرزا؟

لوٹڈی۔ یہاں کوئی ظاہر دار بیگ نہیں رہتا۔

اتنا کہہ کر قریب تھا کہ لوٹدی پھر کواڑ بند کر لے کہ جلدی سے کلیم نے کہا۔ کیوں جی! کیا یہ جمدار صاحب کی محل سر انہیں؟،

لوٹدی: ” ہے کیوں نہیں؟“

کلیم پھر تم نے یہ کیا کہا کہ یہاں کوئی ظاہردار بیگ نہیں، کیا ظاہردار بیگ جمدار کے وارث اور جانشین نہیں؟

لوٹدی جمدار کے وارثوں کو خدا سلامت رکھے، مو اظاہردار بیگ جمدار کا وارث بننے والا کون ہوتا ہے؟

دوسری لوٹدی: ” اری کم جنت! یہ کہیں مرزا بانکے کے بیٹے کونہ پوچھتے ہوں۔ وہ ہر جگہ اپنے تیس جمدار کا بیٹا بتایا کرتا ہے۔ (کلیم کی طرف مخاطب ہو کر) کیوں میاں! وہی ظاہردار بیگ نا، جن کی رنگت زرد ہے، آنکھیں کرنجی، چھوٹا قد، دُبلاڈیل، اپنے تیس بہت بناۓ سنوارے رکھتے ہیں۔“

کلیم: ” ہاں ہاں، وہی ظاہردار بیگ۔“

لوٹدی: ” تو میاں! اس مکان کے پچھوڑے، اپلوں کی ٹال کے برابر ایک چھوٹا سا کچا مکان ہے، وہاں میں رہتے ہیں۔“

کلیم نے وہاں جا کر آواز دی تو کچھ دیر بعد مرزا صاحب نگ دھڑک جانگھیے پہنے ہوئے باہر تشریف لائے اور کلیم کو دیکھ کر شرمائے اور بولے اہا، آپ ہیں، معاف کیجئے گا میں سمجھا کوئی اور صاحب ہیں، بندہ کو کپڑا پہن کر سونے کی عادت نہیں، میں ذرا کپڑے پہن آؤں تو آپ کے ہم رکاب چلوں۔

کلیم: چیز گا کہاں؟ میں آپ ہی پاس تک آیا تھا۔

مرزا: پھر اگر کچھ دیر تک تشریف رکھنا منظور ہو تو میں اندر پرداہ کراؤں؟

کلیم: میں آج شب کو آپ ہی کے یہاں رہنے کی نیت سے آیا ہوں۔

مرزا: بسم اللہ تو چلیے، اسی مسجد میں تشریف رکھیے، بڑی فضا کی جگہ ہے۔ میں بھی آیا۔

کلیم نے جو مسجد میں آ کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ ایک نہایت پُرانی چھوٹی سی مسجد ہے۔ مسجد ضرار کی طرح وحشت ناک، نہ کوئی حافظ ہے نہ ملا، نہ طالب علم نہ مسافر، ہزار ہا چھوٹا ڈریں اس میں رہتی ہیں کہ ان کی شیشج بے ہنگام سے کان کے پردے پھٹے جاتے ہیں۔ فرش پر اس قدر بیٹ پڑی ہے کہ بجائے خود کھڑے بخ کا فرش بن گیا ہے۔ مرزا کے انتظار میں کلیم کو چاروناچار اسی مسجد میں ٹھہرنا پڑا۔ مرزا آئے بھی تو اتنی دیر کے بعد کہ کلیم مایوس ہو چکا تھا قبل اس کے کہ کلیم شکایت کرے، مرزا صاحب بطور دفع دخل مقدر فرمانے لگے کہ بندے کے گھر میں کئی دن سے طبیعت علیل ہے۔ خفتان کا عارضہ، اختلاف قلب کا روگ ہے، اب جو میں آپ کے پاس سے گیا تو ان کو غشی میں پایا، اس وجہ سے دیر ہوئی۔ پہلے یہ تو فرمائیے کہ اس وقت بندہ نوازی فرمانے کی کیا وجہ ہے؟

کلیم نے باپ کی طلب، اپنا انکار، بھائی کی التجا، ماں کا اصرار، تمام ماجرا کہہ سنایا

مرزا: پھر اب کیا ارادہ ہے؟

کلیم: سوائے اس کہ اب گھر لوٹ کر جانے کا ارادہ تو نہیں ہے اور جو آپ کی صلاح ہو۔

مرزا: خیر، نیت شب حرام، صح تو ہو، آپ بے نکلف استراحت فرمائیے۔ میں جا کر بچھونا وغیرہ بھیجے اور مجھے مریضہ کی تیارداری کے لیے اجازت دیجیے کہ آج اس کی علاالت میں اشتماد ہے۔

کلیم: یہ ماجرا کیا ہے؟ تم تو کہا کرتے تھے کہ ہمارے یہاں دو ہری محل سرائیں، متعدد دیوان خانے، کئی پائیں باغ ہیں، حوض اور حمام اور کڑے اور گنج اور دکانیں اور سرائیں ہیں۔ میں تو جانتا ہوں عمارت کی قسم سے کوئی چیز ایسی نہ ہو گی، جسے تم نے اپنی ملک نہ بتایا ہو، یا یہ حال کہ ایک تنفس کے واسطے ایک شب کے لیے تمھیں جگہ میسر نہیں جو جو حالات تم نے اپنی زبان سے بیان کیے، ان سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ جعدار کے تمام تر کے پرتم قابض اور متصرف ہو، لیکن میں اُس تمام جاہ و حشمت کا ایک شمشہ بھی نہیں دیکھتا۔

مرزا: آپ کو میری نسبت سے سخن سازی کا احتمال ہونا سخت تجھ کی بات ہے۔ اتنی مدت مجھ سے آپ سے صحبت رہی۔ مگر افسوس ہے کہ آپ نے میری طبیعت اور عادت کو نہ پہچانا۔ یہ اختلافِ حالت جو آپ دیکھتے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ بندے کو جمیڈار صاحبِ مرحوم مغفور نے متینی کیا تھا اور جانشین کر مرے تھے۔ شہر کے کل رو سا اس سے واقف اور آگاہ ہیں۔ ان کے انتقال کے بعد لوگوں نے اس میں رخنہ انداز یاں کیں۔ بندے کو آپ چانتے ہیں کہ بکھیرے سے کوسوں بھاگتا ہے، صحبت نامائم دیکھ کر کنارہ کش ہو گیا، لیکن کسی کو انتظام کا سلیقہ، بندوبست کا حوصلہ نہیں اسی روز سے اندر باہر واپسی پھی ہوئی ہے اور اس بات کے مشورے ہو رہے ہیں کہ بندے کو منالے جائیں۔

کلیم: لیکن آپ نے کبھی تذکرہ بھی نہیں کیا۔

مرزا: اگر میں آپ سے یا کسی سے تذکرہ کرتا تو استقلالِ مزاج سے بے بہرہ اور غیرت و حیثیت سے بے نصیب ٹھہرتا، اب آپ کو کھڑے رہنے میں تکلیف ہو گی۔ اجازت دیجیے کہ میں جا کر بچونا بھجوں دوں اور مریضہ کی تیاداری کروں۔

کلیم: خیر، مقامِ مجبوری ہے، لیکن پہلے ایک چراغ تو بھیج دیجیے، تاریکی کی وجہ سے طبیعت اور بھی گھبراتی ہے۔

مرزا: چراغ کیا، میں نے تو یہ پروشن کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن گرمی کے دن ہیں پروانے بہت جمع ہو جائیں گے اور آپ زیادہ پریشان ہو جیے گا اور اس مکان میں ابا بیلیوں کی بھی کثرت ہے۔ روشنی دیکھ کر گرے نے شروع ہوں گے اور آپ کا بیٹھنا دشوار کر دیں گے تھوڑی دری صبر کیجیے کہ ماہتاب نکلا آتا ہے۔

کلیم جب گھر سے نکلا تھا تو کھانا تیار تھا۔ لیکن وہ اس قدر طیش میں تھا کہ اُس نے کھانے کی مطلقاً پروانہ کی۔ بے کھاوے نکل کھڑا ہوا۔ مرزا سے ملنے کے بعد وہ منتظر تھا کہ آخر مرزا خود پوچھیں ہی گے تو کہہ

دوسرا کو ہر چند کھانے کی نسبت پوچھنا ضرور تھا، کیوں کہ اول تورات کچھ ایسی زیادہ نہیں گئی تھی، دوسرے اس یہ معلوم ہو چکا تھا کہ کلیم گھر سے نکلا ہے، تیسرا دنوں میں بے تکلفی غایت درجے کی تھی، لیکن مرزا قصد اس بات سے معرض ہی نہ ہوا اور کلیم بے چارے کا یہ حال کے مسجد میں آنے سے پہلے اس کی انتظروں نے قل حوال اللہ پڑھنی شروع کر دی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ مرزا کسی طرح اس پہلو پر نہیں آتا عن قریب تمام شب کے واسطے رخصت ہوا چاہتا ہے، تو بے چارے نے بے غیرت بن کر کہا

”سنو یار! میں نے کھانا بھی نہیں کھایا“

مرزا: سچ کہو! نہیں جھوٹ بہ کاتے ہو۔

کلیم: تمہارے سر کی قسم میں بھوکا ہوں۔

مرزا: مرد خدا! تو نے آتے ہی کیوں نہیں کہا؟ اب اتنی رات گئے کیا ہو سکتا ہے؟ دو کا نیس سب بند ہو گئیں اور جو ایک دو کھلی بھی ہیں تو باسی چیزیں رہ گئی ہوں گی جن کے کھانے سے فاقہ بہتر، گھر میں تو آج آگ تک نہیں سلگی، مگر ظاہرًا تم سے بھوک کی سہار ہونی مشکل معلوم ہوتی ہے۔ دیواشتہ کو زیر کرنا بہت ہمت والوں کا کام ہے ایک تدبیر سمجھ میں آئی ہے کہ جاوں چھدمائی بھڑ بھونجے کے یہاں سے گرم چلنے کی دال بنوالاں۔ بس ایک دھیلے کی مجھے اور تھجے دنوں کو کافی ہوگی، رات کا وقت ہے؛ ابھی کلیم کچھ کہنے ہی نہ پایا تھا کہ مرزا جلدی سے اٹھ باہر گئے اور چشم زدن میں چنے بھنوالے مگر دھیلے کے کہہ کر گئے تھے، یا تو کم کے لائے یاراہ میں دو چار پھنکے لگا گئے اس واسطے کہ کلیم کے رو برو دو تین مٹھی چنے سے زیادہ نہ تھے۔

مرزا: ”یار! ہو بڑے خوش قسمت، اس وقت بھاڑمل گیا، واللہ ذرا ہاتھ تو لگا و دیکھو کیسے بھلس رہے ہیں اور سوندھی سوندھی خوش بو، عجیب ہی دل فریب ہے کہ بس بیان نہیں ہو سکتا تعجب ہے کہ لوگوں نے خس اور مٹی کا عطر نکالا، مگر بھنسنے ہوئے چنوں کی طرف کسی کا ذہن منتقل نہیں ہوا، کوئی فن ہو، کمال بھی کیا چیز ہے،

دیکھیے، اتنی رات گئی ہے، مگر چھدمامی کی دوکان پر بھیڑ لگی ہوتی ہے، بندے نے تحقیق سنائے کہ حضور والا کے خاصے میں چھدمامی کی دوکان کا چنان بلا ناغہ لگ کر جاتا ہے اور واقع میں آپ ذرا غور سے دیکھیے، کیا کمال کرتا ہے کہ بھوننے میں چنوں کو سڈول بنادیتا ہے بھتی! تمہیں میرے سر کی قسم، سچ کہنا، ایسے خوبصورت خوش قطع، سڈول چنے تم نے پہلے بھی کبھی دیکھے تھے؟ دال بنانے میں اسے کمال حاصل ہے کہ کسی دانے پر خراش تک نہیں، ٹوٹنے پھوٹنے کا کیا مذکور! دانوں کی رنگت دیکھیے، کوئی بستی ہے، کوئی پستی، غرض دونوں رنگ خوش نما، یوں تو صدقہ قسم کے غلے اور پھل زمین سے اُگتے ہیں لیکن چنے کی لذت کو کوئی نہیں پاتا، آپ نے، وہ ایک طریف کی حکایت سنی ہے۔“

کلیم: ”فرمائیے۔“

مرزا: ایک مرتبہ چنا حضرت میکائیل کی خدمت میں، جنہیں رزقِ عباد کا کام سپرد ہے فریاد لے کر گیا کہ یا حضرت! میں نے ایسا کیا قصور کیا ہے کہ جوں ہی میں نے زمین سے سرباہر نکالا، تیرستم چلنے لگے، ماکولات اور بھی ہیں، مگر جیسے جیسے ظلم مجھ پر ہوتے ہیں، کسی پر نہیں ہوتے نشوونما کے ساتھ میری قطع و برید ہونے لگتی ہے، میری کونپلوں کو توڑ کر لوگ ساگ بناتے ہیں اور مجھے کچھ بھی کھا جاتے ہیں۔ جب بار آور ہوا تو خدا جھوٹ نہ بلوائے آدمی بکری بن کر لاکھوں من بونٹ چر جاتے ہیں اس سے نجات ملی تو ہوئے کرنے شروع کیے، پاک تو شاخ و برگ بھسن بن کر بیلوں اور بھیسوں کے دوزخ شکم کا ایندھن ہوا۔ رہادانہ اسے چکی میں دلیں گھوڑوں کو کھلائیں، بھاڑ میں بھوٹیں، بیسیں بنائیں، کھولتے ہوئے پانی میں ابالیں، گھنگھیاں پسائیں، غرض شروع سے آخر تک مجھ پر طرح طرح کی آفتیں نازل ہوتی رہتی ہیں، حضرت میکائیل کے دربار میں چنے کا اس طرح بے با کانہ چڑپ بولنا سن کر حاضر ہیں دربار اس قدر ناخوش ہوئے کہ ہر شخص اسے کھانے کو دوڑا۔ چنانچہ یہ ماجرا دیکھ کر بے انتظار حکم اخیر رخصت ہوا، سو حضرت! یہ چنے ایسے لذت کے بننے ہیں کہ فرشتوں کے دندان آزان پر تیز ہیں۔ افسوس ہے کہ اس وقت نمک مرچ بہم

نہیں پہنچ سکتا۔ ورنہ میر مددو کے کبابوں میں یہ خستگی اور سوندھا پن کہاں؟

غرض، مرزا نے اپنی چرب زبانی سے چنوں کو گھی کی تلی دال بنا کر اپنے دوست کلیم کو کھلایا، کلیم بھوکا تو تھا، اسے بھی ہمیشہ سے کچھ زیادہ مزے دار معلوم ہوئے۔ مرزا نے گھر جا کر ایک میلی دری اور ایک کثیف ساتکیہ بھیج دیا۔ دوہی گھٹری میں کلیم کی حالت کا اس قدر متغیر ہو جانا عبرت کا مقام ہے۔ یا تو خلوت خانے اور عشرت منزل میں تھا یا اب ایک مسجد میں آ کر پڑا اور مسجد بھی ایسی، جس کا تھوڑا اسا حال ہم نے اوپر بیان کر دیا ہے، گھر کے الوانِ نعمت کو لات مار کر نکلا، تو پہلے ہی وقت پنے چبانے پڑے۔ نہ چراغ نہ چارپائی نہ بہن نہ بھائی، نہ موس نہ غم خوار، نہ نوکر نہ خدمت گار، مسجد میں اکیلا بیٹھا تھا، جیسے قید خانے میں حاکم کا گنہ گار یا نفس میں مرغ نو گرفتار، کوئی اور ہوتا تو اس حالت پر تنبیہ پکڑتا، اپنی حرکت سے توبہ اور اپنے اعمال سے استغفار کرتا اور اسی وقت نہیں تو سویرے گجردم باپ کے ساتھ نماز میں جا شریک ہوتا۔ لیکن کلیم کو اور بہت سے مضمون سوچنے تھے۔ اس نے رات بھر میں ایک قصیدہ مسجد کی ہجو میں تیار کیا اور ایک مشنوی مرزا کی شان میں صبح ہوتے آنکھ لگ گئی تو نہیں معلوم مرزا یا محلے کا کوئی اور عیار، ٹوپی، جوتی، رومال، چھڑی، تکیہ، دری یعنی جو چیز کلیم کے بدن سے منفك اور اس کے جسم سے جدا تھی، لے کر چمپت ہو گیا، کلیم یوں بھی بہت دیر کوسکر اٹھتا تھا اور آج رات تو ایک خاص وجہ تھی۔ کوئی پھر سُوا پھر دن چڑھے جا گا، تو دیکھتا کیا ہے فرش مسجد پر پڑا ہے اور نیند کی حالت میں جو کروٹیں لی ہیں، تو سیروں گرد کا بھبھوت اور چمگا دڑوں کی بیٹ کا ضماد بدن پر تھپا ہوا ہے۔ حیران ہوا کہ قلب ماہیت ہو کر کہیں بھتنا تو نہیں بن گیا، مرزا کو ادھر کو دیکھا، ادھر دیکھا، کہیں پتہ نہیں، مسجد بھی ویران، اس میں پانی کہاں؟ صبر کر کے بیٹھ رہا، کہ اللہ کا کوئی بندہ ادھر کو آنکھے تو اس کے ہاتھ مرزا کو بلاؤں اور یا منھ ہاتھ دھوکر خود مرزا تک جاؤں۔ اس میں دوپھر ہونے آئی، بارے ایک لڑکا کھلتا ہوا آیا، جوں ہی زینے پر چڑھا کہ کلیم اس سے عرض مطلب کرنے کے لیے لپکا، وہ لڑکا اس کی ہیئت کذائی دیکھ، ڈر کر بھاگا، خدا جانے اس نے اسے

بھوت سمجھا، یا سڑی خیال کیا، کلیم نے بہتیرا پکارا، اس لڑکے نے پیٹھ کرنہ دیکھا، ناچار کلیم نے بہزار مصیبت دوسرے فاقہ سے شام پکڑی اور جب اندھیرا ہوا، تو الوکی طرح اپنے نشیمن سے نکلا سیدھا مرزا کے مکان پر گیا اور آواز دی تو یہ جواب ملا کہ وہ تو بڑے سوریے کے قطب صاحب سدھارے ہیں۔ کلیم نے چاہا کہ اپنا تعارف ظاہر کر کے ممکن ہو تو منھ ہاتھ دھونے کو پانی اور مرزا کی پھٹی پرانی جوئی مانگے، تاکہ کسی طرح گلی کو چوں میں چلنے کے قابل ہو جائے۔ یہ سوچ کر اس نے کہا، کیوں حضرت! آپ مجھ سے بھی واقف ہیں؟ اندر سے آواز آئی۔ ہم تمہاری آواز تو نہیں پہچانتے۔ اپنا نام و نشان بتاؤ تو معلوم ہو۔“

کلیم: ”میرا نام کلیم ہے اور مجھ سے اور مرزا ظاہر دار بیگ سے بڑی دوستی ہے۔ بلکہ میں شب کو مرزا صاحب ہی کی وجہ سے مسجد میں تھا۔“

گھروالے: ”وہ دری تکنیہ کہاں ہے، جورات تمحارے سونے کے لیے بھیجا کیا تھا؟“

تکنیہ اور دری کا نام سن کر کلیم بہت چکرا یا اورابھی جواب دینے میں تامل تھا کہ اندر سے آواز آئی، ”مرزا زبردست بیگ! دیکھنا یہ مردوں کی پیس چل نہ دے، دوڑ کر تکنیہ، دری تو اس سے لو۔“

کلیم یہ بات سن کر بھاگا۔ ابھی گلی کے نگر تک نہیں پہنچا تھا کہ زبردست بیگ نے چور چور کر کے جالیا۔ کلیم نے ہر چند مرزا ظاہر دار بیگ کے ساتھ اپنے حقوق معرفت ثابت کیے۔ مگر زبردست کا ٹھینگا سر پر، اس نے ایک نہ مانی اور پکڑ کر کوتوالی لے گیا۔ کوتوال نے سرسری طور پر دونوں کا بیان سننا اور کلیم نے اس کا بیان سُنا پوچھا۔ کلیم ہر چند اپنا پتہ بتانے میں جھینپتا تھا، مگر چارونا چارا سے بتانا پڑا۔ لیکن اس کی حالت ظاہری ایسی تیز ہو رہی تھی کہ اس کا سچ بھی جھوٹ معلوم ہوتا تھا۔

## مشکل الفاظ اور ان کے معانی

| معانی   | لفظ                  |
|---|----------------------|
| حکومت، سلطنت  | عمل داری             |
| مقیم و کیل شاہی جو گورنمنٹ کی طرف سے غیر ریاست میں مقرر ہوتا ہے | ریزیڈینٹ             |
| ساتھ رہنے والا سپاہی، اطلاع لانے اور لے جانے والا ہر کارہ       | اردی                 |
| چند سپاہیوں کا افسر   | جع دار               |
| بلند اور بڑے رتبہ والا  | عالیٰ جاہ            |
| عہدہ، کام   | منصب                 |
| بے عنوانی   | بے قاعدگی، بدانتظامی |
| رشوت لینا، ناجائز طریقے سے روپیہ حاصل کرنا                      | رشوت ستانی           |
| طرفدار، خیرخواہ   | روادار               |
| اول کی جمع ابتداء، شروع   | اوائل                |
| نزدیکی، رشته داری   | قرابت                |
| ذمہ دار ہونا، کفالت   | تکفل                 |
| زندگی، عمر  | حیات                 |
| بے پرواہی   | بے اعتنائی           |
| سفر کرنے یا مرنے کے وقت کی نصیحت                                | وصیت                 |

|   |               |
|---|---------------|
| وارث کی جمع، مُسْتَحْقٌ، میراث لینے والا                | ورثا          |
| قطعہ طکڑا، خطہ زمین                                     | قطعہ          |
| کل کائنات سرمایہ، پونچی                                 | کل کائنات     |
| نمود دکھاوا   | نمود          |
| مسخرہ مذاقیہ  | مسخرہ         |
| صدہا سینکڑوں  | صدہا          |
| ادعائی دعویٰ کرنے والا                                  | ادعائی        |
| دق ستانا، تنگ کرنا                                      | دق            |
| زبوب برا، ذلیل  | زبوب          |
| محل سرا نوابوں کا زنان خانہ                             | محل سرا       |
| ہم رکاب ہم راہ، ساتھی، ہم سفر                           | ہم رکاب       |
| مسجد ضرار عہد رسالت میں منافقوں کی ایک مسجد             | مسجد ضرار     |
| تسیح بے ہنگام بے وقت کی تسبیح (پڑھنا)                   | تسیح بے ہنگام |
| کھڑنخ اینٹ کافرش  | کھڑنخ         |
| دفع دخل اعتراض کا جواب دینا                             | دفع دخل       |
| علیل مریض، بیمار  | علیل          |
| نھفغان ایک بیماری کا نام جس میں دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے | نھفغان        |
| عارضہ دکھ، بیماری                                       | عارضہ         |
| غشی بے ہوشی   | غشی           |

|          |                                |
|----------|--------------------------------|
| اصرار    | ضد کرنا، ہٹ کرنا               |
| استراحت  | آرام                           |
| اشتداد   | زیادتی کرنا، بختی کرنا         |
| تنفس     | سانس لینے والا، جاندار انسان   |
| متصرف    | قابل                           |
|          | عزت، مرتبہ، قدر                |
| حشمت     | دبدبہ، شان و شوکت              |
|          | تحوڑی سی چیز، قلیل مقدار       |
| احتمال   | شك و شبہ، وہم و گمان           |
| متنبی    | آگاہ کرنا، خبردار کرنا         |
|          | بے بہرہ                        |
| حمیت     | شرم، غیرت، عزت                 |
|          | غضہ                            |
| غایت     | انہما، آخر                     |
| اشتہا    | بھوک                           |
| چشم زدن  | پلک جھپکتے، فوراً              |
|          | اچھی وضع، طریقہ، انداز         |
| ظریف     | خوش طبع، لطیفہ گو              |
| رزق عباد | عبد کی جمع، بندہ، بندوں کا رزق |

**قطع و برید کاٹ چھاٹ، تراش خراش**

|          |                              |     |
|----------|------------------------------|-----|
| بار آور  | پھلدار                       | شکم |
| دندان آر | لاچ، حرص                     |     |
| کثیف     | گندا ہونا، میلا ہونا         |     |
| تفس      | پنجڑا                        |     |
| تنبیہ    | آگاہ کرنا، جھڑکی، نصیحت      |     |
| گجردم    | ترڑکے، بہت سویرے             |     |
| ہجو      | برائی کرنا                   |     |
| منفک     | الگ، جدا ہونا                |     |
| ضماد     | لیپ                          |     |
| حقوق     | حق کی جمع، درست، واجب معاوضہ |     |
| معرفت    | پہچاننا، ذریعہ، خداشناسی     |     |

## مشقی سوالات

**مختصر ترین سوالات:**

- ۱۔ نذری احمد کے والد کا نام کیا تھا؟
- ۲۔ مرزا طاہر دار بیگ کس ناول کا کردار ہے؟
- ۳۔ مرزا طاہر دار بیگ کن لوگوں کی صحبت میں اٹھتا بیٹھتا تھا؟

**مختصر سوالات:**

- ۴۔ اردو کا پہلا ناول نگار کون ہے؟
- ۵۔ مرزا طاہر دار بیگ نے کس کو مسجد میں ٹھہرایا تھا؟
- ۶۔ درج ذیل الفاظ کے معنی تحریر کیجیے۔  
منصب، قرابت، علیل، نمود

**تفصیلی سوالات:**

- ۷۔ مولوی نذری احمد کے حالاتِ زندگی اور ان کی ناول نگاری پر روشنی ڈالئے۔
- ۸۔ مرزا طاہر دار بیگ کے کردار پر تبصرہ کیجیے۔

ڈاکٹر قائد علی خاں

## مختصر افسانہ: تعریف اور مختصر تاریخ

مختصر افسانہ مغربی ادب سے اردو ادب میں داخل ہوا، مختصر افسانہ کو انگریزی میں شارت اسٹوری کہا جاتا ہے، اس میں مختصر قصہ ہوتا ہے اس لیے اس میں پوری زندگی کو پیش نہیں کیا جاتا بلکہ زندگی کا ایک واقعہ، ایک کردار، ایک جذبہ ایک خیال یا زندگی کی ایک جھلک پیش کی جاتی ہے، اختصار، جدت، وحدتِ تاثر، جامعیت، رومانیت اس کی امتیازی خصوصیات ہیں۔

افسانہ ایک جدید ادبی صنف ہے جو وقت کے تقاضوں کے سبب وجود میں آئی اس سے پہلے ناول نگاری کا چلن تھا، امریکی ادیب ایڈگر ایلین پونے افسانے کی تعریف اس طرح کی ہے:-

”مختصر افسانہ ایک ایسی بیانیہ نثری صنف ہے جو ایک ہی نشست میں پڑھی جاسکے، جو متاثر کن انداز میں لکھی گئی ہو، جس میں وحدتِ تاثر اور جامعیت ہو۔

مختصر افسانے کی امتیازی خصوصیت اختصار ہے اس میں غیر ضروری اور غیر متعلق باتوں کی گنجائش نہیں ہوتی، نہ تو طویل مکالمے ہوتے ہیں نہ منظر نگاری، ہر جگہ اختصار کو مددِ نظر رکھا جاتا ہے۔

مختصر افسانے کے اجزاء ترکیبی حسب ذیل میں:

- |                           |          |             |           |
|---------------------------|----------|-------------|-----------|
| ۱۔ کہانی                  | ۲۔ پلاٹ  | ۳۔ کردار    | ۴۔ مکالمہ |
| ۵۔ پس منظر یا زماں و مکاں | ۶۔ اسلوب | ۷۔ نقطہ نظر |           |

کہانی:

افسانہ میں ایک کہانی ہوتی ہے جو بہت مختصر ہوتی ہے اس میں انسانی زندگی کا پوا احاطہ نہیں ہوتا

بلکہ زندگی کے کسی ایک پہلو، کسی ایک واقعہ یا مقصد کو چند کرداروں کے ذریعہ انجام تک پہنچایا جاتا ہے جو اپنی جگہ جامع اور مکمل ہوتے ہیں۔

### پلاٹ:

افسانہ کا بنیادی عنصر ہے جس میں مرکزی خیال کو پیش نظر رکھ کر واقعات کو ترتیب دیا جاتا ہے۔ واقعات میں ربط کا ہونا ضروری ہے، ایک واقعہ کا دوسرا واقعہ سے ایسا تال میل ہو کہ آپس میں فرق کرنا مشکل ہو، یہی پلاٹ کافی ہے۔

### کردار:

کردار نگاری افسانہ میں بڑی اہمیت رکھتی ہے، قصہ کو آگے بڑھانے کے لئے کرداروں کا سہارا لیا جاتا ہے لیکن اختصار کے منظراً افسانے میں چند کردار ہی پیش کیے جاتے ہیں اور کردار کا ایک ہی رخ پیش کیا جاتا ہے اس لئے چند جملوں میں یا ایک پیراگراف میں اس کردار کی پوری زندگی کا نقشہ پیش کر دیا جاتا ہے۔

### مکالمہ:

کرداروں کی آپسی گفتگو مکالمہ کہلاتی ہے، مکالمے کردار کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو بے نقاب کرتے ہیں، کردار جس طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں ان کی حیثیت و مرتبہ کی مناسبت سے مکالمے ادا کئے جاتے ہیں، مکالمے غیر فطری نہ لگیں اس کا پورا خیال رکھا جاتا ہے اس میں بھی اختصار کو مدد نظر رکھا جاتا ہے۔

### پس منظر یا زماں و مکاں:

مختصر افسانے میں پس منظر اور زماں و مکاں کا ہونا لازمی ہے۔ ہر کہانی کا کوئی پس منظر ضرور ہوتا ہے جو قصہ اور کرداروں کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ اختصار کے پیش نظر زماں و مکاں دونوں کا افسانے

میں بیک وقت ہونا ضروری ہے۔

### اسلوب:

ہر افسانہ نگار کا اپنا اسلوب ہوتا ہے، اسلوب کا اچھا یا برا ہونا افسانے کی کامیابی اور ناکامی کی دلیل ہوتا ہے، افسانہ نگار کو اختصار کو مددِ نظر رکھتے ہوئے فقرے اور جملوں کو استعمال کرنا پڑتا ہے اور مرکزی خیال کو ہی پیش نظر رکھا جاتا ہے، واقعہ اور کردار کو اسلوب کے ذریعہ ہی ابھارا جاتا ہے۔

### نقطہ نظر:

ہر افسانہ نگار زندگی کے متعلق اپنا ایک الگ نظر یہ اور نقطہ نظر رکھتا ہے۔ جو اس کے افسانوں میں صاف نظر آتا ہے، جیسے راشد الغیری کے یہاں سماجی اصلاح، سجاد حیدر یلدرم کے افسانوں میں رومانیت اور پریم چند کے افسانوں میں حقیقت نگاری پر زور دیا گیا ہے۔

## مختصر افسانے کا ارتقاء

اردو میں مختصر افسانے کے ابتدائی نمونے بیسویں صدی کی ابتداء میں ملتے ہیں، باقاعدہ افسانے کا آغاز پریم چند سے ہوتا ہے، پریم چند نے افسانے کو فنی حیثیت عطا کی، وطن پرستی سماجی اصلاح اور دینہاتی زندگی کے مسائل کو اپنے افسانوں میں جگہ دی۔ ”سو ز وطن“ ان کا پہلا افسانوی مجموعہ ہے۔ سجاد حیدر یلدرم رومانی افسانہ نگار ہیں۔ نیاز فتح پوری، مجنوں گور کھپوری، سلطان حیدر جوش کے افسانوں میں بھی رومانیت ملتی ہے۔

۱۹۳۶ء میں افسانوی مجموعے ”انگارے“ نے افسانوی ادب میں انقلاب پیدا کر دیا، ان افسانوں میں رومانیت سے بغاوت، حقیقت نگاری اور جنسی معاملات پر زور دیا گیا ہے، اس میں لکھنے

والے رشید جہاں، احمد علی، سجاد ظہیر اور محمود الظفر تھے۔

۱۹۳۶ء میں ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا، جس میں ادب برائے زندگی پر زور دیا گیا، افسانوں

میں حقیقت نگاری اور مقصدیت جیسے موضوعات نے فروغ پایا، اس دور کے افسانہ نگاروں میں کرشن چندر، راجندر سنگھ بیدی، سعادت حسن منٹو، عصمت چفتائی، احمد ندیم قاسمی، حسن عسکری اور ممتاز مفتی کے نام قابل ذکر ہیں اس کے بعد قرۃ العین حیدر، انتظام حسین، ہاجرہ مسرور کے افسانوں نے بھی کافی مقبولیت حاصل کی۔

۱۹۴۷ء میں جب ملک تقسیم ہوا، اس کے بعد لکھنے والوں میں قاضی عبدالستار، غیاث احمد گدی، جو گندر پال، اقبال متنین، بلراج مین را، انور عظیم، اقبال مجید، سریندر پرکاش اور انور سجاد کے نام قابل ذکر ہیں۔

ڈاکٹر فیروز بیگ

### پریم چند

مشی پریم چند ۱۸۸۰ء میں بنارس کے قریب لمحی گاؤں میں پیدا ہوئے۔ والدین نے وھنپت رائے نام رکھا۔ پریم چند کے والد مشی عجائب لال ڈاک خانے میں کلرک تھے۔ ان کی والدہ کا نام آنندی دیوی تھا۔ جب پریم چند آٹھ سال کے تھے ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اردو فارسی کی ابتدائی تعلیم مکتب میں حاصل کی۔ ۱۸۹۳ء میں جب آپ کے والد کا تبادلہ گور کھپور ہو گیا تو وہاں مشن اسکول میں چھٹے درجے میں داخلہ لیا اور ۱۸۹۶ء میں کونس کالج بنارس سے نویں جماعت پاس کی۔ ۱۸۹۷ء میں چند ماہ بیمار رہ کر والد کا انتقال ہو گیا۔ ۱۸۹۸ء میں میٹرک کا امتحان سینڈ ڈویژن میں پاس کیا۔ ۱۸۹۹ء میں ایک پرائمری اسکول میں اٹھارہ روپے ماہوار پر اسٹینٹ ماسٹر مقرر ہوئے۔ اسی دوران میں اے۔ کیا پھر ہیڈ ماسٹر اور ڈپٹی اسپیکٹر آف اسکول ہوئے۔

پریم چند اردو میں جدید افسانے کے بانی اور بڑے افسانہ نگار ہیں۔ پریم چند کی ادبی زندگی کا آغاز ۱۹۰۱ء سے شروع ہوا۔ ان کا پہلا افسانہ ”دنیا کا سب سے انمول رتن“، ”رسالہ“، ”زمانہ“ کا پور میں ۱۹۰۲ء میں شائع ہوا۔ ان کے پانچ افسانوں کا مجموعہ ”سو ز طن“، ۱۹۰۸ء میں نواب رائے کے نام سے شائع ہوا۔ اس مجموعے کے افسانے حب الوطنی کے جذبہ سے بھرے ہونے کے سبب انگریزی حکومت نے اسے ضبط کر لیا۔ آپ بعد میں پریم چند کے قلمی نام سے لکھنے لگے۔

پریم چند نے افسانے اور ناول کی دنیا میں بہت بلند مقام حاصل کیا۔ ان کی تصانیف میں انسانی زندگی کی سچی تصویریں دکھائی دیتی ہیں۔ انہوں نے افسانے کو حقیقت سے قریب کیا۔ عوامی زندگی کی ترجمانی کی۔ محنت کش طبقہ کے جذبات و احساسات اور ان کے مسائل کو پیش کیا۔ پریم چند نے پہلی بار

ہندوستان کی دیہاتی زندگی کو موضوع بنایا۔ دیہات میں مہاجن، زمیندار اور پوہت کس طرح کسانوں کا خون چوں رہے تھے یعنی طبقاتی کشمکش، رسم و رواج کی پابندی، عورتوں کی مظلومی چھوٹا چھوت، مزدوروں کی دشواریاں یعنی پسمندہ طبیعت کے مسائل کو پریم چند نے پیش کر کے سماجی اصلاح کا بیڑا لٹھایا۔

پریم چند انسانی نفیيات کے باض تھے ان کے افسانوں میں نہ صرف واقعات حقیقی زندگی کے معلوم ہوتے ہیں بلکہ کردار بھی جیتے جائے نظر آتے ہیں اصلی زندگی میں جن سے ہم روز رو برو ہوتے ہیں۔

پریم چند کو زبان پر قدرت حاصل تھی۔ انہوں نے سادہ سلیس، شگفتہ اور رواں زبان استعمال کی۔ اسی لیے مکالمے بالکل فطری معلوم ہوتے ہیں۔ قاتل کی ماں، زیور کا ڈبہ، گلی ڈنڈا، عیدگاہ، نمک کا داروغہ، قول کا پاس، کفن ان کے نمائندہ افسانے ہیں۔ اور پریم پچیسی، پریم بیتی، خواب و خیال، خاک پروانہ، آخری تحفہ، زادراہ، اور واردات ان کے مشہور افسانوی مجموعے ہیں۔

انہوں نے ایک درجن سے زیادہ ناول لکھے ہیں ان کے ناولوں میں بازارِ حسن، چوگانِ ہستی، میدانِ عمل، گوشۂ عافیت، بیوہ، غبن، گئوان، بہت مشہور ہیں۔

نصاب میں شامل ”قول کا پاس“، افسانہ راجپوتوں کی سچائی، بہادری اور فرض شناسی کی عکاسی کرتا ہے۔ اس افسانہ کے ذریعہ پریم چند نے بچوں میں قول کے پاس کے جذبے کو ابھارنے کی کامیاب کوشش کی ہے۔

مشی پر یہم چند

## قول کا پاس

اکبر بادشاہ مغلوں کا بہت مشہور بادشاہ گزر رہے۔ اس نے لڑائیاں لڑ کر ہندوستان کا بہت سا حصہ فتح کر لیا تھا۔ ایک راجپوتانہ رہ گیا تھا، اکبر نے چاہا کہ اسے بھی فتح کر لے اور وہاں بھی سلطنت کرے۔ یہ ارادہ کر کے راجپوتانہ پر فوج کشی کی۔ راجپوت اپنا ملک بچانے کے لیے لڑتے تو بڑی بہادری سے، مگر آخر کار ان کے پاؤں اُکھڑ گئے، راجپوتوں کا سردار رانا پرتاپ سنگھ اپنے بال بچوں کو لے کر کسی جنگل میں جا چھپا۔

راجپوتوں کے ایک سردار کا نام رگھوپت تھا۔ یہ بڑا بہادر اور جری تھا۔ اس نے کچھ لوگ اپنی فوج میں داخل کر لیے تھے اور ان کو ساتھ لے کر لڑا کرتا تھا، اس نے بہادری میں اپنا ایسا نام پیدا کر لیا تھا کہ بڑے بڑے مغل اس کا نام سن کر گھبرا جاتے تھے، اکبر کے سپاہیوں نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح اس کو پکڑ لیں مگر وہ ایک جگہ کب رہتا تھا جو اسے پکڑ سکتے۔

رگھوپت سنگھ کی ایک بیوی تھی اور ایک اکلوتا بیٹا تھا۔ جب وہ اپنے ڈمنوں سے لڑنے کو گھر سے نکلا تھا اس کا بیٹا بہت بیمار تھا۔ لیکن اس نے نہ تو اپنے بیمار بچے کا خیال کیا، نہ بیوی کا۔ مغلوں سے لڑنے کو گھر سے نکل کھڑا ہوا، ہاں کبھی کبھی چوری چھپے سے کسی کو گھر بھیج دیتا تھا اور بیوی بچے کی خبر منگوالیا کرتا تھا۔ رگھوپت سنگھ کو پکڑنے کو اکبر بادشاہ نے بہت سی فوج بھیجی مگر وہ کسی کے ہاتھ نہ آیا۔ پھر بادشاہ نے اس کے گھر پر پھرہ بٹھا دیا۔ اکبر کا خیال تھا کہ کسی دن رگھوپت سنگھ اپنے بال بچے سے ملنے کو ضرور گھر آئے گا، بس اسی دن سپاہی اس کو پکڑ لیں گے۔ ادھر کسی نے رگھوپت سنگھ کو خبر کر دی کہ تیرا بیٹا گھڑی دو گھڑی کا مہمان ہے، چل کر اُسے دیکھ لے۔

یہ سن کر رگھوپت سنگھ، بہت گھبرایا، سورج ڈوب رہا تھا، جنگل میں سفر کرنے کا وقت تو نہیں تھا مگر رگھوپت نے سوچا کہ ”اگر میں نے ذرا بھی دیری کی تو شاید میں لڑکے کی صورت بھی نہ دیکھ سکوں، اسی وقت چلنا چاہیے۔“ رگھوپت سنگھ اسی وقت چلنے کو تیار ہو گیا۔ جب رگھوپت سنگھ پہنچا تو دروازے پر اکبر بادشاہ کے سپاہیوں میں سے ایک پہرہ دار نے کہا ”بادشاہ کا حکم ہے کہ تم جہاں ملوکٹر لیے جاؤ“، رگھوپت سنگھ نے کہا ”میرا لڑکا مر رہا ہے، اسے دیکھنے آیا ہوں، ذرا دیری کے لیے مجھے اندر چلا جانے دو، بھی دیکھ کر لوٹ آتا ہوں۔ اس وقت جو جی چاہے کر لینا۔ میں راجپوت ہوں، جھوٹ ہرگز نہ بولوں گا۔“

اس پہرہ والے سپاہی نے کہا ”دیکھ آؤ۔“ جب رگھوپت سنگھ گھر میں گیا تو دیکھا کہ لڑکا بے چین ہو رہا ہے اور بیوی فکر کے مارے بے حال ہو رہی ہے۔ میاں کو دیکھ کر بیوی کی ڈھارس بندھی۔ رگھوپت سنگھ نے بچے کو پیار کیا اور دوا کی تدبیر میں۔ پھر اپنی بیوی سے کہا ” دروازے پر سپاہی کھڑا ہے، میں کہہ آیا ہوں کہ میں قید ہونے کو بھی واپس آتا ہوں۔“ بیوی نے کہا ”ایسا نہ کرو، دوسرے دروازے سے نکل جاؤ“، رگھوپت نے کہا ” یہ مجھ سے ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میں قول دے چکا ہوں، اس کے خلاف نہیں کر سکتا۔“

یہ کہہ کرو وہ دروازے پر آیا اور سپاہی سے کہنے لگا ”لو میں آگیا ب مجھے کپڑ کر جہاں چاہو لے چلو۔“ سپاہی نے کہا ”تمھیں کپڑ نے کو میرا جی نہیں چاہتا، تم بھاگ جاؤ۔“ رگھوپت نے کہا ”بہت بہتر تم نے اس وقت میری مدد کی ہے، جب تم پر برا وقت آئے گا تو میں بھی تمھاری مدد کروں گا۔ یہ کہہ کر رگھوپت آگے بڑھا اور غائب ہو گیا۔

اس بات کو تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ مغلوں کا ایک افسر کچھ آدمیوں کو ساتھ لے کر آپہنچا۔ پھرے والے سے کہا ” ہم نے سنا ہے رگھوپت ادھر آیا ہے“، پھرے والے نے سچ سچ کہہ دیا کہ ” رگھوپت سنگھ اپنے بیمار بیٹے کو دیکھنے آیا تھا اور میں نے اسے جانے کی اجازت دے دی“، یہ سن کر افسر نے پہرہ دار کو قید

کر لیا۔ رگھوپت سنگھ کو بھی سپاہی کے قید ہونے کی خبر مل گئی وہ اسی وقت واپس آیا اور آکر مغل افسر کے پاس کھڑا ہو گیا اور کہا کہ میں رگھوپت ہوں۔ میں واپس آگئا ہوں۔ مجھے پکڑ لو اور اس بے گناہ قیدی کو چھوڑ دو۔” افسر نے رگھوپت کو پکڑ لیا اور قید خانے میں ڈال دیا لیکن سپاہی کو نہ چھوڑا، افسر نے دونوں کے قتل کرنے کا حکم دیا۔

دوسرے دن سپاہی رگھوپت اور پھرہ دار کو میدان میں لائے کہ ان کو قتل کیا جائے۔ دونوں کے ہاتھ پیر بند ہے ہوئے تھے۔ مغل افسر نے جلااد سے کہا کہ دونوں کی گرد نیں اڑا دو۔ جلااد نے تلوار اٹھائی ہی تھی کہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی۔ لوگوں نے دیکھا تو اکبر بادشاہ اپنے افسروں کے ساتھ چلا آ رہا ہے۔ سب نے جھک کر سلام کیا۔ اکبر گھوڑے پر سے اُتر پڑا اور کہنے لگا ”رگھوپت کی گرفتاری کا پورا حال مجھ کو معلوم ہو چکا ہے۔“ پھر پھرہ دار سے کہا ”ہر بھلے آدمی کا دل دوسروں کا دکھ دیکھ کر پکھل جاتا ہے، مجھے معلوم ہے کہ اس راجپوت کی تکلیف دیکھ کر تمہارا دل بھرا آیا تھا۔ اس لیے تم نے اس کو چھوڑ دیا تھا۔ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ اگر کچھ ہے بھی تو میں نے معاف کیا۔ مجھے ایسے ہی سپاہی چاہیے۔ جو اپنے بادشاہ سے زیادہ خدا سے ڈرتا ہے۔“ یہ سنتے ہی پھرہ دار خوشی سے پھولانہ سما یا۔

پھر اکبر نے رگھوپت کی طرف دیکھ کر کہا۔ ”مجھے پہلے یہ معلوم نہ تھا کہ بہادر راجپوت بات کے اتنے ڈھنی ہوتے ہیں۔ تمہاری بہادری اور ایفاۓ وعدہ سے میں بہت خوش ہوا، میں نے تم کو بھی چھوڑا۔“ رگھوپت سنگھٹنوں کے بل زمین پر جھک گیا اور کہا ”آپ جس رگھوپت کو اتنی مشکل سے بھی جیت نہ سکے۔ آج اپنی دریادلی دکھا کر آپ نے اسے جیت لیا۔ آپ بہادروں کی وقعت کرانا جانتے ہیں۔ اب میں کبھی آپ کا دشمن ہو کر تلوار نہ اٹھاؤں گا۔“

جو آدمی اپنے وعدے کے لئے ہوتے ہیں اور سچائی پر جتے رہتے ہیں اور دوسرے کے دکھ میں مدد کرتے ہیں خدا ہمیشہ ان کی مدد کرتا ہے۔

## مشکل الفاظ اور ان کے معانی

|              |         |
|--------------|---------|
| معانی        | لفظ     |
| جیت          | فتح     |
| حملہ، چڑھائی | فوج کشی |
| جنگجو، بہادر | جری     |
| وعدہ         | قول     |
| فراغ دلی     | دریادی  |
| عزت          | و قع ت  |

## مشقی سوالات

**مختصر ترین سوالات:**

- ۱۔ پرمیم چند کا اصلی نام کیا تھا؟
- ۲۔ راجپتوں کے سردار کا نام کیا تھا؟
- ۳۔ اکبر کس خاندان کا بادشاہ تھا؟

**مختصر سوالات:**

- ۴۔ اکبر رگھوپت کی کس بات سے متاثر ہو گیا۔
- ۵۔ پرمیم چند کے پہلے افسانوی مجموعے کا نام بتائیے۔
- ۶۔ اکبر نے رگھوپت کا دل کس طرح جیت لیا؟

**تفصیلی سوالات:**

- ۷۔ پرمیم چند کے حالاتِ زندگی اور ان کی افسانہ نگاری پر تبصرہ کیجیے۔
- ۸۔ قول کا پاس ”سبق کا خلاصہ اپنے الفاظ میں تحریر کیجیے۔

## سریندر پرکاش

سریندر پرکاش اور اے نام ۱۹۳۰ء میں شہر لائل پور فیصل آباد میں پیدا ہوئے۔ ۱۹۷۴ء میں والدین کے ساتھ دہلی پہنچے، تلاش معاش میں سرگردان رہے۔ معمولی درجہ کی ملازمتیں بھی کیں۔ فرضی ناموں سے کہانیاں اور ناول لکھے۔ ریڈیو میں وقتی طور پر اسکرپٹ رائٹر کی حیثیت سے بھی کام کیا۔ بی۔ اے۔ تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ ممبئی کی ایک فلم کمپنی سے وابستہ ہوئے۔ وہ زمانہ ترقی پسندی کے عروج کا زمانہ تھا لیکن انہوں نے اپنی الگ راہ نکالی۔ ان کے افسانوں میں تجربی اور علمی غصر نمایاں ہے۔ ان کے افسانے دوسرے آدمی کا ڈرائیور، روم، سمندر، میدان، پگڈنڈیاں، آتش دان، دیواریں اور ان پر گلی تصویریں، ان کے عالمتی کردار کی وجہ سے بہت مشہور ہیں۔

سریندر پرکاش کا پہلا افسانہ ”دیوتا“ لاہور کے ایک ہفتہ وار ”پارس“ میں شائع ہوا۔ ان کے افسانوں کا پہلا مجموعہ ”دوسرے آدمی کا ڈرائیور روم“ ۱۹۶۸ء میں دوسرا مجموعہ ”برف پر مکالمہ“ ۱۹۸۱ء میں تیسرا مجموعہ ”بازگوئی“ ۱۹۸۸ء میں اور چوتھا ”حاضر حال جاری“ ۲۰۰۲ء میں شائع ہوا۔ سریندر پرکاش کو مجموعہ ”بازگوئی“ پر ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ سے نوازنا گیا۔

سریندر پرکاش نے جدید دور کے انسانی مسائل کو اپنے افسانوں میں پیش کیا۔ علامتوں کے استعمال نے ان کے افسانوں میں معنویت پیدا کر دی۔ انھیں زبان و بیان، پرقدرت حاصل ہے۔ سادہ سلیس اور رواں زبان استعمال کرتے ہیں۔ ان کی تحریروں سے ان کے گھرے مشاہدے کا پتہ چلتا ہے، واقعات کا گھر اسمندر ہے جو اتار چڑھاؤ کے ساتھ ہماری نظروں کے سامنے آ جاتا ہے۔ ان کے افسانوں کے تانے بنے خواب اور حقیقت کے بیچ کی کیفیتوں سے تیار ہوتے ہیں۔ اکثر چیزیں اپنے روایتی تصور

سے ہٹ کر سا منے آتی ہیں اور حیرت و استجواب کہانی کی دلچسپی کو بنائے رکھتے ہیں۔

سریندر پرکاش کے افسانوں میں لفظوں کے پیچھے ایک جہاں معنی آباد نظر آتا ہے۔ کردار زندہ اور متحرک نظر آتے ہیں۔ ان کی عبارت آرائی گھرے غور و فکر کا نتیجہ معلوم ہوتی ہے۔ ان کا مشہور افسانہ ”بجوكا“، ان کے افسانوی مجموعے ”بازگوئی“ میں شامل ہے۔ یہ اس قدر مقبول ہوا کہ ”بجوكا“ کے عنوان سے اردو کے علاوہ بعد میں بعض دیگر ہندوستانی زبانوں میں کئی افسانے لکھے گئے۔ ”بجوكا“ افسانے میں ایک پیغام پوشیدہ ہے کہ جو افراد اور قومیں اپنی ملکیت اور پیداوار کی حفاظت خود نہیں کرتیں بلکہ یہ کام دوسروں کو سونپ دیتی ہیں تو نہ صرف جاندار بلکہ بے جان ذمہ داروں میں بھی اس ملکیت یا پیداوار میں سے اپنا حصہ لینے کی قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس سبق میں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ جس طرح محنت کا پھل ہو ری کو ملتا ہے تو بجوكا بھی اپنی محنت کا پھل پانے کا حقدار ہے۔ اس لیے اپنی ملکیت کی حفاظت خود کرنی چاہیے۔

## بجوکا

پریم چند کی کہانی کا ہوری اتنا بوڑھا ہو چکا تھا کہ اس کی پلکوں اور بھوؤں تک کے بال سفید ہو گئے تھے، کمر میں خم پڑ گیا تھا اور ہاتھوں کی نسیں سانو لے کھر درے گوشت میں سے اُبھر آئی تھیں۔

اس اشنا میں اُس کے ہاں دو بیٹے ہوئے تھے، جواب نہیں رہے۔ ایک گنگا میں نہار ہاتھا کہ ڈوب گیا اور دوسرا پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ پولیس کے ساتھ اس کا مقابلہ کیوں ہوا، اس میں کچھ ایسی بتانے کی بات نہیں جب بھی کوئی آدمی اپنے وجود سے واقف ہوتا ہے اور اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی بے چینی محسوس کرنے لگتا ہے تو اس کا پولیس کے ساتھ مقابلہ ہو جانا قدرتی ہو جاتا ہے لیس ایسا ہی کچھ اس کے ساتھ بھی ہوا تھا اور بوڑھے ہوری کے ہاتھ ہال کے ہتھے کو تھامے ہوئے ایک بار ڈھیلے پڑے، ذرا کا پنپے اور پھر ان کی گرفت اپنے آپ مضبوط ہو گئی اس نے بیلوں کو ہانک لگائی اور ہال کا پھل زمین کا سینہ چیرتا ہوا آگے بڑھ گیا۔

اُن دونوں بیٹوں کی بیویاں تھیں اور آگے ان کے پانچ بچے۔ تین گنگا میں ڈوبنے والے کے اور دو پولیس مقابلے میں مارے جانے والے کے۔ اب ان سب کی پرورش کا بارہوری پر آن پڑا تھا، اور اس کے بوڑھے جسم میں خون زور سے گردش کرنے لگا تھا۔

اس دن آسمان سورج نکلنے سے پہلے کچھ زیادہ ہی سرخ تھا اور ہوری کے آنگن کے کنویں کے گرد پانچوں بچے نگ دھڑنگ بیٹھے نہار ہے تھے۔ اس کی بڑی بہو کنویں سے پانی نکال کر ان پر باری باری اُندھیتی جا رہی تھی اور وہ اچھلتے ہوئے اپنا پنڈا ملتے پانی اچھال رہے تھے۔ چھوٹی بہو بڑی بڑی روٹیاں بنانے کر چنگیری میں ڈال رہی تھی اور ہوری اندر کپڑے بدل کر گپڑی باندھ رہا تھا۔ گپڑی باندھ کر

اس نے طاپے میں رکھے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا۔ سارے چہرے پر لکیریں پھیل گئی تھیں۔ اس نے قریب ہی لٹکی ہوئی ہنومان جی کی چھوٹی سی تصویر کے سامنے آنکھیں بند کر کے دونوں ہاتھ جوڑ کر سر جھکایا اور پھر دروازے میں سے گزر کر باہر آنکن میں آگیا۔

”سب تیار ہیں۔؟“ اس نے قدرے اوپھی آواز میں پوچھا۔

”ہاں باپو۔“ سب پچے ایک ساتھ بول اٹھے۔ بہوؤں نے اپنے سروں پر پلوڈ رست کیے اور ان کے ہاتھ تیزی سے چلنے لگے۔ ہوری نے دیکھا ابھی کوئی بھی تیار نہیں تھا۔ سب جھوٹ بول رہے تھے۔ اس نے سوچا یہ جھوٹ ہماری زندگی کے لیے کتنا ضروری ہے، اگر بھگوان نے ہمیں جھوٹ جیسی نعمت نہ دی ہوتی تو لوگ دھڑک دھڑک مرنے لگ جاتے۔ ان کے پاس جینے کا کوئی بہانہ نہ رہ جاتا۔ ہم پہلے جھوٹ بولتے ہیں اور پھر اسے سچ ثابت کرنے کی کوشش میں دیریک زندہ رہتے ہیں۔

ہوری کے پوتے، پوتیاں اور بہوئیں۔ ابھی ابھی بولے ہوئے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے میں پوری تندی سے جھٹ گئیں۔ جب تک ہوری نے ایک کونے میں بڑے کٹائی کے اوزار نکالے۔ اور اب وہ سچ سچ تیار ہو چکے تھے۔

ان کا کھیت اپنے اٹھا تھا۔ فصل پک گئی تھی اور آج کٹائی کا دن تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی تہوار ہو۔ سب بڑے چاؤ سے جلد از جلد کھیت پر پہنچنے کی کوشش میں تھے کہ انھوں نے دیکھا سورج کی سنہری کرنوں نے سارے گھر کو اپنے جادو میں جکڑ لیا ہے۔

ہوری نے انگوچھا کندھے پر رکھتے ہوئے سوچا۔ کتنا اچھا سے آپنچا ہے۔ نہ الہمہ کی دھونس، نہ بنینے کا کھلکا، نہ انگریز کی زور زبردستی اور نہ زمیندار کا حصہ۔ اس کی نظر وہ کے سامنے ہرے ہرے خوشے جھوم اٹھے۔

”چلو باپو،“ اس کے بڑے پوتے نے اس کی انگلی پکڑ لی، باقی بچے اس کی ٹانگوں کے ساتھ لپٹ

گئے۔ بڑی بہونے کو ٹھری کا دروازہ بند کیا اور چھوٹی بہونے روٹیوں کی پوٹلی سر پر رکھی۔  
یہ بجرنگی کا نام لے کر سب باہر کی چار دیواری والے دروازے میں نکل کر گلی میں آگئے اور پھر  
دائیں طرف مڑ کر اپنے کھیت کی طرف بڑھنے لگے۔

گاؤں کی گلیوں، گلیاں میں چہل پہل شروع ہو چکی تھی۔ لوگ کھیتوں کو آ جا رہے تھے، سب  
کے دلوں میں مسرت کے انار پھوٹتے محسوس ہو رہے تھے۔ سب کی آنکھیں پکی فصلیں دیکھ کر چمک رہی  
تھیں۔ ہوری کو لگا جیسے زندگی کل سے آج ذرا مختلف ہے اس نے پٹ کر اپنے پیچھے آتے ہوئے بچوں کی  
طرف دیکھا۔ وہ بالکل دیسے ہی لگ رہے تھے جیسے کسان کے بچے ہوتے ہیں۔ سانوں لے مریل سے۔ جو  
جیپ گاڑی کے پہیوں کی آواز اور موسم کی آہٹ سے ڈرجاتے ہیں۔ بہوں میں ویسی ہی تھیں جیسی کہ غریب  
کسان بیوہ عورتیں ہوتی ہیں۔ چہرے گھونکھوٹوں میں چھپے ہوئے اور لباس کی ایک ایک سلوٹ میں غربتی  
جوؤں کی طرح چھپی ہیں۔

وہ سر جھکا کر پھر آگے بڑھنے لگا۔ گاؤں کے آخری مکان سے گزر کر آگے کھلے کھیت تھے۔ قریب  
ہی رہت خاموش کھڑا تھا، نیم کے درخت کے نیچے ایک کتابے فلکری سے سویا ہوا تھا، دور طبلیے میں کچھ  
گائیں۔ جھینیں اور بیل چارہ کھا کر پھنکا رہے تھے۔ سامنے دور دور تک لہلہتے ہوئے سنہری کھیت  
تھے۔ ان سب کھیتوں کے بعد، ذرا دور، جب یہ سب کھیت ختم ہو جائیں گے اور پھر، چھوٹا سا نالہ پار کر  
کے الگ تھلک ہوری کا کھیت تھا۔ جس میں جھونا پک کر انگڑا یاں لے رہا تھا وہ سب پگڈنڈیوں پر چلتے  
ہوئے دور سے ایسے لگ رہے تھے جیسے رنگ برلنگے کیڑے گھاس پر رینگ رہے ہوں۔ وہ سب کھیت کی  
طرف جا رہے تھے جس کے آگے تھل تھا۔ دور دور پھیلا ہوا، جس میں کہیں ہر یا لی نظر نہ آتی تھی بس تھوڑی  
بے جان مٹی تھی جس میں پاؤں رکھتے ہی وہنس جاتا تھا اور مٹی یوں بھر بھری ہو گئی تھی جیسے ان کے دونوں  
بیٹوں کی ہڈیاں چتا میں جل کر پھول بن گئی تھیں اور پھر ہاتھ لگاتے ہی ریت کی طرح بکھر جاتی تھیں۔ وہ

تھل دھیرے دھیرے بڑھ رہا تھا۔ ہوری کو یاد آیا پچھلے پچاس برسوں میں وہ دو ہاتھ آگے بڑھ آیا تھا۔ ہوری چاہتا تھا۔ جب تک نپے جوان ہوں وہ تھل اس کے کھیت تک نہ پہنچ۔ اور تب تک وہ خود کسی تھل کا حصہ بن چکا ہو گا۔

پگڈنڈیوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ اور اس پر ہوری اور اس کے خاندان کے لوگوں کے حرکت  
کرتے ہوئے ننگے پاؤں .....

سورج آسمان کی مشرقی کھڑکی میں سے جھا نک کر دیکھ رہا تھا  
چلتے چلتے ان کے پاؤں مٹی سے اٹ گئے تھے۔ کئی ارد گرد کے کھیتوں میں لوگ کٹائی کرنے میں  
مصروف تھے۔ وہ آتے جاتے کورام رام کہتے اور پھر کسی انجانے جوش اور ولوں کے ساتھ ہنینیوں کو درانتی  
سے کاٹ کر اپک طرف رکھ دیتے۔

انھوں نے باری باری نالہ پار کیا۔ نالے میں پانی نام کو بھی نہ تھا بہنے کو۔ اندر کی ریت ملی مٹی بالکل خشک ہو چکی تھی اور اس پر عجیب و غریب نقش و نگار بنے تھے۔ وہ پانی کے پاؤں کے نشان تھے۔ اور سامنے لہلہتا ہوا کھیت نظر آ رہا تھا۔ سب کا دل بلیوں اچھلنے لگا۔ فصل کئے گی تو ان کا آنکن پھوس سے بھر جائے گا اور کوٹھڑی انماج سے، پھر کھٹیا پر بیٹھ کر بھات کھانے کا مزہ آئے گا۔ کیا ڈکاریں آئیں گی پیٹ بھر جانے کے بعد۔ ان سب نے ایک ہی بار سوچا۔

اچانک ہوری کے قدم رُک گئے۔ وہ سب بھی رُک گئے۔ ہوری کھیت کی طرف جیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ سب کبھی ہوری اور کبھی کھیت کو دیکھ رہے تھے کہ اچانک ہوری کے جسم میں جیسے بھلی کی سی پھرتی پیدا ہوئی، اس نے چند قدم آگے بڑھ کر بڑے جوش سے آواز لگائی۔

”اے کون میں ... میں ... کے ... کے ... ؟

اور پھر سب نے دیکھا ان کے کھیت میں کی ہوئی فصل میں کچھ بے چینی کے آثار تھے۔ اب وہ

سب ہوری کے پیچے تیز تیز قدم بڑھانے لگے۔ ہوری پھر چلا یا۔

”ابے کون ہے رے۔ بولتا کیوں نہیں۔ کون فصل کاٹ رہا ہے میری۔؟“

مگر کھیت میں سے کوئی جواب نہ ملا۔ اب وہ قریب آچکے تھے اور کھیت کے دوسرا کونے پر درانتی چلنے کی سڑاپ سڑاپ کی آواز بالکل صاف سنائی دے رہی تھی۔ سب قدر سے سہم گئے۔ پھر ہوری نے ہمت سے لکارا۔

”کون ہے۔ بولتا کیوں نہیں؟“ اور اپنے ہاتھ میں پکڑی درانتی سونت لی اچانک کھیت کے پر لے حصے میں سے ایک ڈھانچہ سا بھرا اور جیسے مسکرا کر انھیں دیکھنے لگا ہو۔

”میں ہوں ہوری کا کا۔ بجوكا!“ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی درانتی فضا میں ہلاتے ہوئے جواب دیا۔

سب کی مارے خوف کے گھٹی گھٹی سی چیخ نکل گئی۔ ان کے رنگ زرد پڑ گئے اور ہوری کے ہونٹوں پر گویا سفید پیڑی سی جنم گئی۔ کچھ دیر کے لیے وہ سب سکتے میں آگئے اور بالکل خاموش کھڑے رہے۔ وہ کچھ دیر کتنی تھی؟ ایک پل، ایک صدی یا پھر ایک یگ۔ اس کا ان میں سے کسی کو اندازہ نہ ہوا۔ جب تک کہ انھوں نے ہوری کی غصے سے کاپتی ہوئی آواز نہ سنی انھیں اپنی زندگی کا احساس نہ ہوا۔

”تم..... بجوكا..... تم۔ ارے تم کو تو میں نے کھیت کی نگرانی کے لیے بنایا تھا۔ بانس کی چانگوں سے اور تم کو اس انگریز شکاری کے کپڑے پہنانے تھے جس کے شکار میں میرا باپ ہانکا لگا تا تھا اور وہ جاتے ہوئے خوش ہو کر اپنے پھٹے ہوئے خاکی کپڑے میرے باپ کو دے گیا تھا۔ تیرا چھرا میرے گھر کی بے کار ہانڈی سے بناتھا اور اس پر اسی انگریز شکاری کا ٹوپار کھو دیا تھا۔ ارے تو بے جان پتلا، میری فصل کاٹ رہا ہے؟“

ہوری کہتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا اور بجوكا بدستور ان کی طرف دیکھتا ہوا مسکرا رہا تھا۔ جیسے اس پر

ہوری کی کسی بات کا کوئی اثر نہ ہوا ہو۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچے انھوں نے دیکھا۔ فصل ایک چوتھائی کے قریب کٹ چکی ہے۔ اور بجوا کا اس کے قریب درانتی ہاتھ میں لیے کھڑا مسکرا رہا ہے۔ وہ سب حیران ہوئے کہ اس کے پاس درانتی کہاں سے آگئی وہ کئی مہینوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ بے جان بجوا کا دونوں ہاتھوں سے خالی کھڑا رہتا تھا۔ مگر آج.... وہ آدمی لگ رہا۔ گوشت پوست کا ان جیسا آدمی یہ منتظر دیکھ کر ہوری تو جیسے پاگل ہوا ٹھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے ایک زور دار دھکا دیا۔ مگر بجوا کا تو اپنی جگہ سے بالکل نہ ہلا البتہ ہوری اپنے ہی زور کی مار کھا کر دور جا گرا۔ سب لوگ چیختے ہوئے ہوری کی طرف بڑھے۔ وہ اپنی کمر پر ہاتھ رکھے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سب نے اسے سہارا دیا اور اس نے خوفزدہ ہو کر بجوا کا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ”تو..... تو مجھ سے بھی طاقتور ہو چکا ہے بجوا! مجھ سے...؟ جس نے تمھیں اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اپنی فصل کی حفاظت کے واسطے۔“

بجوا حسبِ معمول مسکرا رہا تھا، پھر بولا۔ ”تم خواہ مخواہ خفا ہو رہے ہو ہوری کا کا، میں نے تو صرف اپنے حصے کی فصل کاٹی ہے۔ ایک چوتھائی۔“

”لیکن تم کو کیا حق ہے میرے بچوں کا حصہ لینے کا۔ تم کون ہوتے ہو۔؟“

”میرا حق ہے ہوری کا کا۔ کیوں کہ میں ہوں۔ اور میں نے اس کھیت کی حفاظت کی ہے۔“

”لیکن میں نے تمھیں بے جان سمجھ کر یہاں کھڑا کیا تھا اور بے جان چیز کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ یہ

تمہارے ہاتھ میں درانتی کہاں سے آگئی؟“

بجوا نے ایک زور دار قہقہہ لگایا۔ تم بڑے بھولے ہو ہوری کا کا۔ خود ہی مجھ سے با تیں کر رہے ہو۔ اور پھر مجھ کو بے جان سمجھتے ہو۔؟“

”لیکن تم کو یہ درانتی اور زندگی کس نے دی۔؟ میں نے تو نہیں دی تھی!“

”یہ مجھے آپ سے آپ مل گئی۔ جس دن تم نے مجھے بنانے کے لیے بانس کی چانکیں چیری تھیں،

انگریز شکاری کے پھٹے پرانے کپڑے لائے تھے۔ گھر کی بے کار ہانڈی پر میری آنکھیں، ناک، کان اور منہ بنایا تھا۔ اسی دن ان سب چیزوں میں زندگی کلبلا رہی تھی اور یہ سب مل کر میں بنا اور میں فصل پکنے تک یہاں کھڑا رہا اور ایک درانتی میرے سارے وجود میں سے آہستہ آہستہ نکلتی رہی۔ اور جب فصل پک گئی وہ درانتی میرے ہاتھ میں تھی لیکن میں نے تمہاری امانت میں خیانت نہیں کی۔ میں آج کے دن کا انتظار کرتا رہا۔ اور آج جب تم اپنی فصل کا ٹنے آئے ہو۔ میں نے اپنا حصہ کاٹ لیا۔ اس میں بگڑنے کی کیا بات ہے؟“ بجوا نے آہستہ سب کہا۔ تاکہ ان سب کو اس کی بات اچھی طرح سمجھ میں آجائے ””نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ سازش ہے۔ میں تمھیں زندہ نہیں مانتا، یہ سب چھلا واہے۔ میں پنجاہیت سے اس کا فیصلہ کراؤں گا۔ تم درانتی پھینک دو۔ میں تمھیں ایک تکابھی لے جانے نہیں دوں گا۔“ ہوری چینجا، اور بجوا نے مسکراتے ہوئے درانتی پھینک دی۔

گاؤں کی چوپال پر پنجاہیت لگی۔ پنج اور سرپنج سب موجود تھے۔ ہوری اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ پنج میں بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ مارے غم کے مر جھایا ہوا تھا۔ اس کی دونوں بہوئیں دوسری عورتوں کے ساتھ کھڑی تھیں اور بجوا کا انتظار تھا۔ آج پنجاہیت نے اپنا فیصلہ سنانا تھا۔ مقدمے کے دونوں فریق اپنا بیان دے چکے تھے۔

آخر دور سے بجوا خرام خرام آتا ہوا کھائی دیا۔ سب کی نظریں اس طرف اٹھ گئیں۔ وہ ویسے ہی مسکراتا ہوا آرہا تھا، جیسے ہی وہ چوپال میں داخل ہوا، سب غیر ارادی طور پر اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کے سر تعظیماً جھک گئے۔ ہوری یہ تماشہ دیکھ کر ترپ اٹھا اسے لگا جیسے بجوا نے سارے گاؤں کے لوگوں کا ضمیر خرید لیا ہے، پنجاہیت کا انصاف خرید لیا ہے۔ وہ اپنے آپ کو تیز پانی میں بے بس آدمی کی طرح ہاتھ پاؤں مارتا ہوا محسوس کرنے لگا۔

آخر سرپنج نے اپنا فیصلہ سنایا، ہوری کا سارا وجود کا پنے لگا۔ اس نے پنجاہیت کے فیصلے کو قبول

کرتے ہوئے فصل کا چوتھائی حصہ بجوا کو دینا منظور کر لیا اور پھر کھڑا ہو کر اپنے پتوں سے کہنے لگا:

”سنو۔ یہ شاید ہماری زندگی کی آخری فصل ہے۔ ابھی تھل کھیت سے کچھ دوری پر ہے۔ میں تمھیں نصیحت کرتا ہوں، اپنی فصل کی حفاظت کے لیے پھر کبھی بجوا نہ بنانا۔ اگلے برس جب ہل چلیں گے۔ نج بُویا جائے گا اور بارش کا امرت کھیت میں سے کونپلوں کو جنم دے گا۔ تو مجھے ایک بانس پر باندھ کر کھیت میں کھڑا کر دینا۔ بجوا کی جگہ پر میں تک تمہاری فصلوں کی حفاظت کروں گا۔ جب تک تھل آگے بڑھ کر کھیت کی مٹی کو نگل نہیں لے گا اور تمہارے کھیتوں کی مٹی بھر بھری نہیں ہو جائے گی۔ مجھے وہاں سے ہٹانا نہیں۔ وہیں رہنے دینا۔ تاکہ جب لوگ دیکھیں تو انہیں یاد آئے کہ بجوا کا نہیں بنانا۔ کہ بجوا کا بے جان نہیں ہوتا۔ آپ سے آپ اُسے زندگی مل جاتی ہے اور اُس کا وجود اُسے درانتی تھاد دیتا ہے اور اُس کا فصل کی ایک چوتھائی پر حق ہو جاتا ہے۔“

ہوری نے کہا اور پھر آہستہ آہستہ اپنے کھیت کی طرف بڑھا۔ اس کے پوتے اور پوتیاں اس کے پیچھے تھے اور پھر اس کی بہوئیں اور ان کے پیچھے گاؤں کے دوسرے لوگ سر جھکائے ہوئے چل رہے تھے۔

کھیت کے قریب پہنچ کر ہوری گرا اور ختم ہو گیا۔ اس کے پوتے، پوتیوں نے اسے ایک بانس سے باندھنا شروع کیا۔ اور باتی کے سب لوگ یہ تماشہ دیکھتے رہے۔ بجوا نے اپنے سر پر کھا شکاری ٹوپا اُتار کر سینے کے ساتھ لگالیا اور اپنا سر جھکا دیا۔

## مشکل الفاظ اور ان کے معانی

| معانی  | لفظ         |
|--|-------------|
| بانس یاد رخت کی شاخوں سے بنا ہوا ایک ڈھانچا جسے ٹوپی اور قمیض<br>یا کرتا پہننا کر کھیت میں آدمی کی طرح کھڑا کر دیتے ہیں۔ | بجوکا       |
| جھک جانا   | خم پڑنا     |
| دوران، تیج   | اشنا        |
| ہستی، مراد سماجی حیثیت   | وجود        |
| پالنے پو سنے کی ذمہ داری   | پروش کا بار |
| رگوں میں خون کا دوران  | خون کی گردش |
| بدن، جسم   | پنڈا        |
| روٹیاں رکھنے کی ڈلیا   | چنگیری      |
| پھرتی، مستعدی  | تن دہی      |
| ( صحیح لفظ: اہل مد) عدالت میں پیشکار کا محمر   | اہلمد       |
| بہادر  | بیر (ویر)   |
| ہنومان جی کا ایک لقب   | بیر بجنگی   |
| سونا کے ساتھ بے طور تابع مہمل استعمال ہوتا ہے۔   | جھونا       |
| مثال: خدا سونا جھونا پہننا نصیب کرے۔ یہاں مراد ہے: باليوں  |             |

|   |        |
|---|--------|
| میں انواع کے سونے جیسے دانے                   |        |
| ریگستان                                       | تھل    |
| پہلے کی طرح                                   | بدستور |
| دھوکا، سایہ جو دیکھتے ہیں دیکھتے غائب ہو جائے | چھلاوا |

## مشقی سوالات

### مختصر ترین سوالات:

- ۱۔ سریندر پرکاش کب اور کہاں پیدا ہوئے؟
- ۲۔ ہوری کس ناول کا کردار ہے؟
- ۳۔ فصل پک جانے پر ہوری، خوش کیوں تھا؟

### مختصر سوالات:

- ۴۔ سریندر پرکاش کے پہلے افسانے کا نام کیا ہے؟ اور وہ کس رسالے میں شائع ہوا؟
- ۵۔ ”بجوکا“ کسے کہتے ہیں؟
- ۶۔ ہوری نے اپنے گھروالوں کو کیا وصیت کی تھی؟

### تفصیلی سوالات:

- ۷۔ سریندر پرکاش کی سوانح حیات اور ان کے ادبی کارناموں پر روشنی ڈالیے
- ۸۔ سبق ”بجوکا“ کا خلاصہ تحریر کیجیے۔

ڈاکٹر معین الدین شاہین

## مکتوب نگاری: ایک تعارف

لغت میں خط، نوشته، نامہ، مراسلہ، رقہ اور چھپی کو مکتوب کے متادف بتائے گئے ہیں۔ جس طرح دیگر علوم و فنون کے کچھ اصول اور تقاضے ہوتے ہیں اسی طرح مکتوب نگاری کے بھی چند ضابطے ہوتے ہیں جن کی طرف توجہ دے کر کوئی بھی مکتوب نگار عمدہ اور با اثر خط لکھ سکتا ہے، کیونکہ خط لکھنا بھی ایک فن ہے۔ جس طرح زندگی کے آداب مقرر ہیں اسی طرح مکتوب نگاری کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں جن کا دھیان مکتوب نگار کو رکھنا چاہیے مثلاً خط میں غیر ضروری باتیں شامل نہ ہوں، زبان صاف، سلیس اور روای دوال ہو، خط کو گور کھو دھندا نہ بننے دیا جائے، انداز بیان میں خلوص اور دل کشی ہو، ایک ہی بات کو بار بار نہ دہرا لیا جائے، کسی ایک پہلو کو بلا سبب طول نہ دیا جائے، خط میں ایسی باتیں ہرگز نہ لکھی جائیں جو مکتوب الیہ کی پریشانی کا سبب بن جائیں۔

خط کو آدمی ملاقات کہا جاتا ہے، جو شخص کسی کو خط لکھتا ہے اسے کاتب یا مکتوب نگار اور جسے خط لکھا جاتا ہے اُسے مکتب الیہ یا مخاطب کہا جاتا ہے۔ زمانے کے نشیب و فراز کے ساتھ مکتوب نگاری کے طور طریق میں بھی تبدیلیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ مکتوب نگاری کے فرسودہ اور روایتی طریقے کے تحت مکتوب نگار لمبے چوڑے القاب و آداب استعمال کرتا تھا جس کے سبب آدھا خط تو غیر ضروری اور رسی باتوں ہی سے پر ہو جاتا تھا۔ ایسے مکتوبات میں کاتب تصنیع اور بناؤٹ سے بھرے جملے اور فقرے استعمال کرتا تھا۔ اس کے علاوہ مسجح نشر پر زیادہ زور دے کر اصل مقصد یا موضوع کو پس پشت ڈال دیا جاتا تھا۔ لیکن آگے چل کر اس طریقہ مکتوب نگاری کو ترک کر دیا گیا اور اب جو مکتوبات لکھے جانے لگے ان میں لمبے چوڑے القاب و آداب سے پرہیز اور مقتضی اور مسجح نثر سے گریز کیا جانے لگا۔ مختصر القاب، عام فہم زبان اور صرف ضروری

امور کو ملحوظ رکھا جانے لگا۔ اس طرز کے موجہ مرزا اسدالدین خاں غالب تھے۔

خط عام طور پر تین قسم کے ہوتے ہیں (۱) نجی یا ذاتی (۲) کاروباری (۳) سرکاری

جس طرح شعری و نثری اصناف کے اجزاء ترکیبی اور فنی لوازم ہوتے ہیں اسی طرح مكتوب

نگاری کے لیے مندرجہ ذیل اجزاء ترکیبی لازمی ہیں:

۱۔ مكتوب نگار کا پتہ

۲۔ تاریخ ۳۔ القاب و آداب ۴۔ مضمون خط یعنی اصل مقصد ۵۔ خاتمه

۶۔ مكتوب الیہ (مخاطب کا نام و پتہ)

مكتوب نگاری یوں تو شخصی اظہار کے زمرے میں آتی ہے لیکن مكتوب نگار بعض اوقات ایسی معلوماتی اور عالمانہ باتیں اپنے مخاطب یا مكتوب الیہ کو لکھ دیتا ہے جو اور کہیں نہیں ملتیں، تاہم اس طرح ایک شخصی اور ذاتی تحریر فن پارے کا درجہ حاصل کر لیتی ہے۔ بعض مقلّرین نے اعلیٰ اور عمده قسم کے خطوط کو تخلیقی ادب کے ذیل میں شمار کیا ہے۔

اردو میں منظوم اور منثور دونوں قسم کے مكتوبات کی مثالیں ملتی ہیں۔ منظوم خطوط میں اس بے تکلفی اور بے ساختگی کا فرقہ ہے جسے مكتوب نگاری کے لیے ضروری سمجھا جاتا ہے۔ تاریخ ادب اردو کے مطالعہ سے یہ علم ہوتا ہے کہ جس طرح شعرائے اردو کے تذکرے فارسی میں لکھے گئے اسی طرح شعراء و ادباء نے فارسی زبان میں خط لکھ کر اپنے علم و فضل و کمال کا سکھ جانا کی کوشش کی، لیکن یہ سلسلہ تادریق ائمہ نہیں رہ سکا۔

اردو میں مكتوب نگاری کی روایت مرزا غالب کے پیش رو شعراء نے شروع کر دی تھی جن میں غلام غوث بے خبر، غلام امام شہید اور قتیل جیسے حضرات اور ان کے جیسے بعض معاصرین کے اسمائے گرامی شامل ہیں لیکن ان میں سے کسی کے بھی خطوط کا مجموعہ شائع نہیں ہوا، صرف نموناً ان کے مكتوبات کی چند نادر

تحریریں ادھر ادھر مل جاتی ہیں۔ اس لیے مرزا اسد اللہ خاں غالب کے مکتوبات سے اردو میں باقاعدہ طور پر خطوط نویسی یا مکتب نگاری کا سلسلہ شروع ہوا۔ غالب نے مکتب نگاری کو جو آب و تاب بخشی وہ آج بھی قائم ہے۔ انہوں نے مراسلمہ کو مکالمہ بنایا کہ القاب و آداب کا فرسودہ طریقہ ترک کیا جسے مستحسن قدم سمجھا گیا۔ ان کے خطوط ادبی، تاریخی، سیاسی، معاشرتی، تہذیبی اور تمدنی اعتبار سے خصوصی اہمیت کے حامل ہیں۔ یہ خطوط ”عودہ هندی“، ”اردو ی معللی“، ”خطوط غالب“ کے زیر عنوان منظر عام پر آپکے ہیں۔ غالب کی نشر کو پسند کرتے ہوئے علی گڑھ تحریک سے وابستہ حضرات یعنی سر سید احمد خاں، خواجہ الطاف حسین حاٹی، مولوی ذکاء اللہ، ڈپٹی نذری احمد اور شبلی نعماں وغیرہ نے اردو میں مکتباتی ادب کو پروان چڑھایا۔

مولانا محمد حسین آزاد، اکبرالہ آبادی، چودھری محمد علی روڈلوی اور مولانا محمد علی جوہر نے جو خطوط اپنی ذاتی ضرورت کے تحت اپنے عزیز واقارب کو لکھے وہ اردو ادب میں امتیازی درجہ رکھتے ہیں۔ علامہ اقبال اور مولانا ابوالکلام آزاد ایسے مکتب نگار ہیں جن کے خطوط کے مجموعے شائع ہو کر مقبول عام ہوئے۔ اقبال کے خطوط کے مجموعے عالمانہ شان رکھتے ہیں۔ ابوالکلام آزاد نے قلعہ احمد نگر کے قید خانے میں رہتے ہوئے جو خطوط حبیب الرحمن خاں شروعی کو لکھے ان کا مجموعہ بعنوان ”غبار خاطر“ شائع ہوا۔

مہدی افادی نے یوں تو اپنے کئی معاصرین کو خطوط لکھے، لیکن جور و مانی خطوط انہوں نے اپنی اہلیہ کے نام تحریر کیے وہ اردو نثر کا بہترین نمونہ قرار دیے جاتے ہیں۔ مولوی عبدالحق پروفیسر محمود شیرانی، پروفیسر آل احمد سرور اور عبد الماجد دریا آبادی جیسے ناقدرین و محققین کے خطوط ادب کے سنجیدہ قارئین کے لیے معلومات کا خزانہ ہیں۔

مشتی پریم چند، پروفیسر رشید احمد صدقی، پطرس بخاری، میرا جی، سید سجاد ظہیر اور سعادت حسن منشو وغیرہ کے خطوط دعوتِ فکر و عمل دیتے ہیں۔ قراءۃ العین حیدر کے خطوط کے مجموعہ ”اوراق پریشاں“، کو پڑھنے

پر ناول اور افسانے کا لطف حاصل ہوتا ہے۔ مشہور ترقی پسند شاعر جاں ثار اختر نے اپنی دو بیویوں یعنی صفیہ اختر اور خدیجہ اختر کے نام جو خطوط لکھنے ان کا مجموعہ ”خاموش آواز“ کے عنوان سے مدھیہ پر دیش اردو کا دمی، بھوپال سے شائع ہوا۔ صفیہ اختر نے جو خطوط جاں ثار اختر کو لکھنے ان کا مجموعہ ”زیریب“ کے عنوان سے شائع ہوا۔

چونکہ خطوط یا مکتوبات کی ادبی اہمیت مسلم ہے، اس لے بعض ادبی جریدوں اور اخبارات نے اردو سے تعلق رکھنے والی شخصیات کے خطوط کو یکجا کر کے خصوصی شمارے ترتیب دیے۔ مشہور شاعر و ادیب سا گرنظامی نے اپنے اخبار ”ایشیا“، کامکاتیب نمبر ”نگارنامہ“ کے عنوان سے شائع کیا۔ جسے تاریخی اہمیت وحیثیت حاصل ہے۔ اسی طرح ”نقوش“ (لاہور) کے مدیر محمد طفیل نے ”خطوط نمبر اور“ مکاتیب نمبر“ شائع کر کے اہم ادبی فریضہ انجام دیا۔ موجودہ عہد میں موقع بہ موقع اردو کے اہل قلم حضرات کے مکاتیب کے مجموعے شائع ہوتے رہتے ہیں جن سے ادب کو سمجھنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔

## مرزا غالب

مرزا اسد اللہ خاں نام، اسد اور غالب تخلص۔ مرزا نو شہ لقب، اور نجم الدولہ، دیبر الملک، نظامِ جنگ خطاب تھا۔ غالب کی ولادت ۸ ربیعہ ۱۲۱۲ ہجری مطابق ۲۷ دسمبر ۱۸۶۷ء کو بمقام آگرہ ہوئی۔ غالب کا سلسلہ نسب ترکمانوں سے ملتا ہے۔ اس خاندان کے لوگ سبتوں ترک کھلاتے تھے۔

غالب کے والد کا نام عبد اللہ بیگ اور والدہ کا نام عزت النساء بیگم تھا۔ غالب کے والد کے انتقال کے بعد ان کی تعلیم و تربیت اور پرورش کی ذمے داری ان کے چچا ناصر اللہ بیگ نے اٹھائی۔ چند سالوں بعد غالب کے چچا کا بھی انتقال ہو گیا لہذا غالب با قاعدہ تعلیم حاصل نہیں کر سکے۔ یہ بات مشہور ہے کہ غالب نے ایک نومسلم پارسی عبد الصمد سے فارسی پڑھی تھی جب کہ ابتدائی تعلیم مولوی محمد معظم سے حاصل کی تھی۔ غالب کو چچا کی جا گیر کے معاوضے میں سات سور و پیہ سالانہ پینشون ملنے لگی۔ غالب آگرہ کو خیر باد کہہ کر دہلی چلے آئے۔ دہلی میں ان کی شادی مرزا اللہ بخش خاں معروف کی صاحزادی امراء بیگم سے ہوئی۔ غالب اب مستقل طور پر دہلی کے ہور ہے۔ بہادر شاہ ظفر سے قربت ہو جانے کے سبب انھیں چاس روپے ماہنا پینشون ملنے لگی۔ غالب سیاحت پسند طبیعت کے مالک تھے۔ اس لیے انھوں نے کلکتہ، لکھنؤ اور رامپور وغیرہ مقامات کا سفر کیا۔ آخری عمر میں غالب سخت بیمار رہنے لگے اور دن بدن ان کی صحت گرتی گئی۔ آخر کار ۱۵ ار فروری ۱۸۶۹ء کو دہلی میں آپ نے انتقال فرمایا۔ آپ کو درگاہ نظام الدین اولیاء کے قریب سپردخاک کیا گیا۔

غالب کو یوں تو اول عمری سے ہی علم و ادب میں دلچسپی تھی لیکن مولانا فضل حق خیر آبادی سے ملاقات ہونے کے بعد ان کے مزاج میں جوت بدیلیاں پیدا ہوئیں ان سے غالب کی شاعری کو پر لگ گئے۔

غالب نے فارسی اور اردو میں جو کلام یادگار چھوڑا اس کی بنیاد پر ان کا شمار عالمی ادب کے نمائندہ شاعروں میں ہوتا ہے۔ ان کی شعری تصانیف میں ”دیوان غالب“، ”کلیاتِ نظم فارسی“، ”مثنوی“، ”شانِ نبوت و ولادت“ اور ”چراغِ دیر“ وغیرہ کا شمار ہوتا ہے۔

چونکہ غالب نابغہ روزگار شخصیت کے مالک تھتا ہم انہوں نے نظم کے ساتھ نظر کو بھی اپناؤزیریہ اظہار بنایا۔ ان کی نشر کا سرمایہ خطوط، تقاریظ، دیباچوں اور رسالوں پر مشتمل ہے۔ لیکن بہ حیثیت نشنگار خطوط نویسی کے حوالے سے انھیں کامیابی حاصل ہوئی۔

غالب نے ۱۸۲۸ء کے آس پاس اردو میں خط لکھنا شروع کیا۔ خطوط نویسی کا سلسلہ ان کے انتقال تک جاری رہا۔ اردو سے قبل غالب فارسی میں خط و کتابت کرتے تھے۔ انہوں نے بیس ایکس برس تک اپنے دوستوں، عزیزوں، شاگردوں، محسنوں اور بزرگوں کو جو خطوط اردو میں لکھے وہ نثر کا عظیم سرمایہ ہیں۔ اُن کے خطوط کے مجموعے ”اردو یہ مععلی“، ”عودہ ہندی“ اور ”خطوط غالب“ ادبی حلقوں میں حسن قبول حاصل کر چکے ہیں۔

غالب کے خطوط اس عہد کے سیاسی، سماجی، معاشی، تہذیبی اور تاریخی حالات کے آئینہ دار ہیں۔ یہ خطوط غالب کے دل و دماغ اور خیالات و روحانیات کی مکمل تصویر پیش کرتے ہیں۔ انھیں زبان و بیان کا حسین و لکش مرقع کہا جاسکتا ہے۔ غالب کی شوخی، ظرافت، شرافت، جدت و ندرت، نکتہ سنجی، منظر نگاری، بذله سنجی اور بے تکلفی کی جھلک ان خطوط میں صاف طور پر نظر آتی ہے۔ ان خطوط میں غالب نے مراسلے کو مکالمہ بنادیا ہے۔

نصاب میں غالب کے دو خطوط شامل کیے گئے ہیں۔ ان میں پہلا خط میاں دادخاں سیاح کے نام لکھا گیا ہے۔ اس خط میں غالب نے اپنی ضعیفی اور خرابی صحت کا ذکر کرتے ہوئے اشعار کی اصلاح سے مغدرت چاہی ہے۔ گرمی کے سخت موسم اور ایک مصور کی لاپرواہی کا شکوہ کیا ہے۔ علاوه ازیں اپنے

عزیز شاگرد منشی ہر گوپاں تفتہ کا ذکر مشفقاتہ انداز میں کیا ہے۔

دوسراخط چودھری عبدالغفور سرور کے نام ہے جس میں غالباً نے یہ ظاہر کیا ہے کہ خط کا سرnamہ دیکھ کر انھیں فرحت و خوشی ملی۔ اور یہ افسوس بھی کیا کہ وہ کمزوری کے سبب خط لکھنے سے معدور ہو گئے ہیں۔ سرور کے چچا اور مولوی سید برکات حسین کا ذکر بھی خط میں آیا ہے۔

یہ دونوں خطوط مرزا غالباً نے اپنے اندازِ خاص میں تحریر کیے ہیں جن کا ایک ایک لفظ انگساری، خلوص اور محبت کی گواہی دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ دونوں خطوط محض رسمی نہ ہو کر اپنے محسنوں اور کرم فرماؤں کو حالِ دل سنانے کا ذریعہ معلوم ہوتے ہیں۔

(۱)

## بِنَامِ مِيَاءِ دَادِ خَانِ سَيَّاح

مشتی صاحب، سعادت و اقبال نشان، سيف الحق مشتی میاں دادخاں سیاح کو غالپ ناتوان نیم  
جاں کی دعا پہنچے۔ بھائی میرا حال اسی سے جانو کہ اب میں خط نہیں لکھ سکتا۔ آگے لیٹے لیٹے لکھتا تھا۔ اب  
رعشہ و ضعفِ بصارت کے سبب سے وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ جب حال یہ ہے تو کہو صاحب، میں اشعار کو  
اصلاح کیوں کر دوں؟ اور پھر اس موسم میں کہ گرمی سے سر کا بھیجا پکھلا جاتا ہے۔

دھوپ کو دیکھنے کی تاب نہیں۔ رات کو صحن میں سوتا ہوں۔ صبح کو دو آدمی ہاتھوں میں لے کر دالان  
میں لے آتے ہیں۔ ایک کو ٹھری ہے اندھیری اس میں ڈال دیتے ہیں۔ تمام دن اس گوشہ تاریک میں  
پڑا رہتا ہوں۔ شام کو پھر دو آدمی بدستور لے جا کر پلنگ پر صحن میں ڈال دیتے ہیں۔ تمہاری غزلیں  
میرا براہیم علی خاں بہادر کی غزلیں، میر عالم خاں بہادر کی غزلیں، حکیم میر احمد حسین صاحب کی غزلیں اور  
کیا کہوں کس کس کی غزلیں۔ یہ سب ایک جگہ دھری ہیں۔ اگر کوئی دن زندگی اور ہے اور یہ گرمی خیر سے  
گزر گئی تو سب غزلوں کو دیکھوں گا۔

تصویر کا حال یہ ہے کہ ایک مصور صاحب میرے دوست میرے چہرے کی تصویر اتار کر لے  
گئے۔ اس کو تین مہینے ہوئے آج تک بدن کا نقشہ کھینچنے کو نہیں آئے۔ میں نے گوارا کیا آئینہ پر نقش اتروانا  
بھی ایک دوست اس کام کو کرتے ہیں۔ عید کے دن وہ آئے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ بھائی میری  
شبیہ کھینچ دو۔ وعدہ کیا تھا کہ کل نہیں تو پرسوں اسباب کھینچنے کا لے کر آؤں گا۔ شوال، ذی قعده، ذی الحجه، حرم

یہ پانچواں مہینہ ہے۔ آج تک نہیں آئے۔

آغا غلام حسین خاں صاحب کا قطعہ پہنچا۔ اس میں کچھ تو شعر اصلاح طلب بھی تھے۔ اب اصلاح دے کون؟ میں تو اپنی مصیبت میں گرفتار۔ بارے ایک میراشا گرد رشید مشی ہر گوپاں لفتہ بے سواری ریل میرے دیکھنے کو آیا تھا۔ اس کو موقعہ محل بتادیا، جو کہتا گیا۔ اسی طرح وہ بناتا گیا۔ وہ قطعہ کا غذ بعد اصلاح کے ”امکن المطالع“ میں بھیج دیا۔ ہفتہ آیندہ میں تم بھی دیکھ لو گے۔

مرگِ ناگاہ کا طالب غالب

۱۸۶۷ء

(۲)

## بِنَامِ چُودِھری عبد الغفور سرور

بندہ پرور،

بہت دن کے بعد پرسوں آپ کا خط آیا۔ سر نامہ پر دستخط اور کے اور نام آپ کا پایا۔ دستخط دیکھ کر مفہوم ہوا، خط کے پڑھنے سے معلوم ہوا کہ تمہارے دشمن بعارضہ تپ ولرزہ رنجور ہیں۔ اللہ اللہ ضعف کی شدّت کہ خط لکھنے سے معدور ہیں! خدا وہ دن دکھائے کہ تمہارا خط تمہارا سخن طی آئے۔ سر نامہ دیکھ کر دل کو فرحت ہو، خط پڑھ کر دونی مسرت ہو۔ جب تک ایسا خط نہ آئے گا دل سودا زدہ آرام نہ پائے گا۔ قاصد ڈاک کی راہ دیکھتا رہوں گا۔ جناب ایزدی میں سرگرم دعا رہوں گا۔ آپ کے عم عالی مقدار اور بزرگ آموزگار کو میر اسلام مع صنوف اشتیاق والوف احترام

جناب چودھری صاحب آؤ ہم تم حضرت عالم کے پاس چلیں اور اپنی آنکھیں ان کے کف پائے مبارک سے ملیں۔ میں سلام عرض کروں گا، تم معرف ہونا کہ غالب یہی ہے۔ اہل دہلی میں آپ کے دیدار کا طالب یہی ہے۔ میں نے عزم قدم بوسی کیا۔ پیر و مرشد نے مجھے گلے لگایا۔ فرماتے ہیں کہ ”غالب تو اچھا ہے؟“ میں عرض کرتا ہوں کہ ”الحمد للہ، حضرت کا مزاج مقدس کیسا ہے؟“ ارشاد ہوا کہ ”مولوی سید برکات حسین تیری بہت تعریف کرتے رہتے ہیں۔“ جناب یہاں کی خوبیاں ہیں میں ایسا نہیں ہوں جیسا وہ کہتے ہیں۔ کاش وہ میری رنجوری کا حال کہتے۔ ضعف قوی و اضلال کہتے تاکہ میں ان کے کلام کی تصدیق کرتا۔ اکنی غنواری اور در دمن دنوazi کا دم بھرتا۔

در کشا کش ضغغم گسلدروال از تن  
این کہ من نے میرم ہم زنا تو اینهاست

حضرت نے میری گرفتاری کا نیارنگ نکالا ”بستانِ خیال“ کے دیکھنے کا دانہ ڈالا۔ مجھ میں اتنی طاقت پرواز کہاں کہ بلا سے اگر پھنس جاؤں، دام پر گر کے دانہ زمین پر سے اٹھاؤں؟ حضرت سچ تو یوں ہے کہ تمہارے روزگار نے مجھ کو گھیر لیا ہے، سانس نہیں لے سکتا، اتنا تنگ کر دیا ہے۔ ہربات سو طرح سے خیال میں آئی، پر دل نے کسی طرح تسلی نہ پائی۔ اب دو باتیں سوچتا ہوں ایک تو یہ کہ جب تک جیتا ہوں، یوں ہی روایا کروں گا۔ دوسری یہ کہ آخر ایک نہ ایک دن مروں گا۔ یہ صغیری و کبری دل نشین ہے، نتیجہ اس کا تسلیکین ہے ہیہات:

مختصر مرنے پہ ہو، جس کی امید  
نا امیدی اس کی، دیکھا چاہیے  
اے حضرت شاہ عالم صاحب میر اسلام لبھیے۔ کاغذ باقی نہیں رہا۔ اپنے سب بھائیوں کو مع  
میروزیر علی صاحب میر اسلام کہہ دیجیے گا۔

## مشکل الفاظ اور ان کے معانی

| معانی   | الفاظ      |
|---|------------|
| وہ نام جو کسی خاص خوبی یا تعریف کے سبب دیا جاتا ہے۔ | لقب        |
| وہ اعزازی نام جو سرکار یا حکومت کی جانب سے عطا ہو۔  | خطاب       |
| خاندان یا نسل کا تعلق                               | سلسلہ نسب  |
| پیش لفظ، تمہید، کتاب کا مقدمہ                       | دیباچہ     |
| البم، تصویر   | مرقع       |
| عقل مند، ہوشیار، خوش بیان                           | نکتہ سنگی  |
| خوش نصیبی، نیک بختی                                 | سعادت      |
| خوش نصیبی، صاحب نصیب                                | اقبال نشان |
| کم زور، مضھل  | نا توں     |
| کلکپی، تھر تھرا ہٹ                                  | رعشه       |
| آنکھوں کی ناطاقتی یا کم زوری، کم دکھائی دینا        | ضعف بصارت  |
| قاعدے کے مطابق، جوں کا توں، حسب معمول               | بدستور     |
| اندھیرا یا تاریک کونہ                               | گوشہ تاریک |
| نقاش، تصویر بنانے والا                              | مصور       |
| شکل، صورت، تصویر                                    | شبیہ       |

قطعہ  
نکٹرا، حصہ، نظم کی وہ قسم جس میں کوئی ایک چیز یا خیال  
بیان کیا جائے۔

|             |  |
|-------------|--|
| اصلاح طلب   | جس میں سدھار یا درستی کی ضرورت اور گنجائش ہو |
| مرگ ناگاہ   | اچانک یا یکا یک آنے والی موت                 |
| طالب        | مانگنے یا چاہنے والا، امیدوار                |
| بندہ پرور   | غلام کو پالنے والا، بندہ نواز                |
| سرنامہ      | خط کی پیشانی، خط لکھنے والے کا پتہ اور نشان  |
| مفہوم       | سمحا گیا، جو سمجھ میں آئے                    |
| عارضہ       | مرض، بیماری، دکھ، غم                         |
| تپ لرزہ     | بخار کے سبب ہونے والی تھرثراہٹ یا کپکپاہٹ    |
| رنجور       | دکھ، درد، بیماری                             |
| قادد        | پیغام لانے والا، نامہ بر، چھپی رسائی         |
| ضعف         | کمزوری، ناتوانی                              |
| شدت         | سختی، تکلیف، زیادتی، کثرت                    |
| معذور       | محجور، ناچار، اپابجع                         |
| فرحت        | خوشی، شادمانی، سرور                          |
| دونی مسرت   | دوہری خوشی، شادمانی، انبساط                  |
| دل سودا زدہ | دیوانگی، پاگل پن میں مبتلا دل                |
| جناب ایزدی  | بارگاہِ الٰہی، اللہ کے حضور                  |

|                     |  |
|---------------------|--|
| سُرگرمِ دعا         | پُر جوش طریقے سے دعا کرنا یاد بینا                                 |
| عُم                 | چچا، والد کا بھائی   |
| عاليٰ مقدار         | جس کا شمار اعليٰ اور بلند مرتبہ لوگوں میں ہو                       |
| بزرگ آموزگار        | کسی فن میں مہارت یا دسترس رکھنے والا استاد                         |
| اشتیاق              | شوق، آرزو، تمنا  |
| الوفِ احترام        | ہزار تو قیر و عزت کے ساتھ  |
| کفِ پائے مبارک      | پاؤں کے تلوے   |
| معرف                | تعريف کیا گیا، نشان کیا گیا  |
| عزمِ قدم بوسی       | قدم چومنے کی نیت یا ارادہ، کسی بزرگ کی خدمت میں حاضر ہونے کی خواہش |
| ضعفِ قوئی           | دماغی کمزوری   |
| اضحکال              | افسردگی، کاہلی، سستی   |
| تصدیق               | صداقت، سچ کی تائید، ثبوت   |
| دانہ ڈالنا (محاورہ) | کسی کو پھنسانے کی کوشش کرنا  |
| صغریٰ               | چھوٹی لڑکی، سب سے چھوٹی چیز  |
| کبریٰ               | بہت بڑی، بہت بزرگ، اکبر کا موئٹ                                    |
| دل نشین             | دل میں بیٹھنے والا، دل پر اثر کرنے والا                            |
| تسکین               | آرام، تسلی، اطمینان  |
| ہیہات               | افسوس، ہائے ہائے   |

## مشقی سوالات

**مختصر ترین سوالات:**

- ۱۔ غالبے کے پاس کس کا قطعہ پہنچا تھا؟
- ۲۔ غالبے تمام دن کہاں پڑے رہتے تھے؟
- ۳۔ لفظ ”گبری“ کا مذکور کیجیے۔

**مختصر سوالات:**

- ۴۔ لفظ ”احترام“ کے متراوف الفاظ لکھیے۔
- ۵۔ ”دانہ ڈالنا“ محاورے کا مطلب لکھتے ہوئے اُسے اپنے جملے میں استعمال کیجیے۔
- ۶۔ غالبے نے کن کن شعر اکی غزلیں ایک جگہ دھری تھیں؟

**تفصیلی سوالات:**

- ۷۔ غالبے کی سوانح حیات لکھتے ہوئے ان کی مکتب نگاری کی خوبیاں بیان کیجیے۔
- ۸۔ غالبے کے خط بنام میاں دادخاں سیاح، کا خلاصہ لکھیے۔

ڈاکٹر شاہد الحق چشتی

## مضمون نگاری و انشا پردازی: ایک تعارف

اردو میں صنفِ مضمون نگاری و انشا پردازی بھی جدید اصنافِ ادب مثلاً ناول، ڈراما، افسانہ، مختصر افسانہ وغیرہ کی طرح ہی مغربی ادب سے آئی اور ایک صنفِ ادب کی حیثیت سے رائج ہوئی۔ اردو کے کچھ ادیبوں کے نزدیک مضمون نگاری اور انشا پردازی علاحدہ علاحدہ صنف ہیں۔ جب کہ بعض ادیبوں کے مطابق دونوں ایک ہی زمرے میں آتے ہیں۔

مضمون نگاری اور انشائی نگاری یا انشا پردازی کو سمجھنے کے لیے دونوں کی تعریف سمجھنا ضروری ہے۔

کسی عنوان پر اپنے خیالات کو ایک ترتیب کے ساتھ جمع کر دینے کو مضمون کہتے ہیں۔ مضمون کو انگریزی میں Essay کہا جاتا ہے۔

لفظ Essay کے لیے اردو میں سب سے پہلے لفظ مضمون کا استعمال سر سید احمد خاں نے کیا۔

صنفِ مضمون کی جامع تعریف 'انسانیکو پیدی یہ آف بری ٹینیکا' میں وضاحت و صراحة کے ساتھ کی گئی ہے۔ جس کا ترجمہ مشہور نقاد نظیر صدیقی نے اس طرح کیا ہے۔

"ادب کی ایک صنف کی حیثیت سے ایسے اوسط لمبائی کا ایک ایسا

مضمون ہے جو عموماً نشر میں ہوتا ہے اور جس میں سہل اور سرسری

انداز میں کسی موضوع سے اور سچ پوچھیے تو صرف اُس موضوع سے

بحث کی جاتی ہے جو لکھنے والے کو مناثر کرتا ہے۔"

مشہور انگریزی نقاد جانسن نے انشائی (Essay) کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے۔

”انشائیہ ذہن کی ایک ترنگ ہے۔“

یعنی انسان کے ذہن میں کسی خاص موضوع پر جو خیال آتے ہیں، انھیں ترتیب کے ساتھ تحریر کر دینے کو انشائیہ کہتے ہیں۔ ڈاکٹر محمد حسین انشائیہ کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں:-  
 ”انشائیہ نثر کی غزل ہے جو واردات قلب سے زیادہ مختصر خیال کی ترجمانی کرتی ہے۔“

انشائیہ کے متعلق مشہور ادیب ڈاکٹر وزیر آغا فرماتے ہیں:-

”انشائیہ کا خالق اُس شخص کی طرح ہے جو فترت کی چھٹی کے بعد اپنے گھر پہنچتا ہے، چست اور تنگ کپڑے اتار کر ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہن لیتا ہے اور ایک آرام دہ موئڈھے پر ٹیم دراز ہو کر حق کی نے ہاتھ میں لیے انتہائی بشاشت اور مسرت سے اپنے احباب سے مخونگفتگو ہو جاتا ہے۔“

انشائیہ کے متعلق مذکورہ خیالات کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ انشائیہ نگاری یا انشا پردازی وہ تحریر ہے جس میں خیالات کو مربوط انداز میں تحریر کرنا لازمی نہیں۔ یہ ایک ذہنی اچھ ہے۔ انسان کے ذہن میں جو خیالات بے ترتیب پیدا ہوتے ہیں انھیں وہ ایک ترتیب سے اپنے مذاق اور مزاج کی چاشنی میں ڈبو کر تحریر کرتا ہے۔ یعنی انشائیہ میں انشائیہ نگار کی خوش طبعی اور شلگفتہ بیانی کے ساتھ ہی بے تکلفی اور سادگی کی جھلک بھی ملتی ہے۔ انشائیہ میں اختصار ہوتا ہے اور موضوع کی کوئی قید نہیں ہوتی اس میں بے ربط خیال کے ساتھ ہی تحریر کی آزادی بھی ہوتی ہے۔ لہذا تخلیق نگار کی تخلیقی صلاحیتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ انشائیہ میں مسرت و انبساط کی کارفرمائی اور داخلی خیالات کی شمولیت کی وجہ سے اس کے مطالعے سے دنیا کی فکر و فکر سے نجات ملتی ہے۔

اردو میں مضمون نگاری اور انشا پردازی کی روایت بہت پرانی نہیں ہے۔ سب سے پہلے سرسید نے مضمون نگاری اور مولانا محمد حسین آزاد نے انشا پردازی کو فروغ دیا۔ سرسید جو اپنی قوم و ملک کے بہت بڑے ہمدرد اور راہنماء تھے انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر قوم و ملک کی امتری، بدحالی اور جہالت و پس مانگی دور کرنے کی غرض سے مختلف موضوعات پر مضامین لکھے۔ جن میں مذہبی، اخلاقی، سیاسی، تاریخی، فکری، معاشرتی اور علمی و ادبی موضوعات پر زیادہ توجہ دی گئی۔ رسالہ ”تہذیب الاخلاق“ میں اس قسم کے مضامین شامل کیے گئے۔ اسی طرح مولانا حاتی نے مقالاتِ حاتی میں اور مولانا شبلی نے مقالاتِ شبلی میں علمی، ادبی، تحقیقی اور مذہبی موضوعات پر علاحدہ سے مضامین لکھے۔ اسی طرح انشائی نگاری کی مثالیں ہمیں مولانا محمد حسین آزاد کی تصنیف ”نیرنگ خیال“ اور اس کے بعد رسالہ ”مخزن“ میں ملتی ہیں۔ جس کے ایڈیٹر سر عبدالقدار تھے۔

اردو میں مضمون نگاری اور انشا پردازی کی لمبی روایت میں سرسید اور مولانا محمد حسین آزاد کے علاوہ مرزا فرحت اللہ بیگ، خواجہ حسن ناظمی، عبدالحیم شرر، مولانا وحید الدین سلیم، مولوی عبدالحق، مولانا عبدالماجد دریا آبادی، قاضی عبد الغفار، مولانا محمد علی جوہر، مولانا ظفر علی، مولانا ابوالکلام آزاد، محمود شیرانی، قاضی عبدالودود، رشید احمد صدیقی، پروفیسر آل احمد سرور، مجنوں گور کھپوری، محی الدین قادری زور، پروفیسر احتشام حسین، کلیم الدین احمد، پروفیسر خورشید الاسلام، احمد جمال پاشا، کنہیا لال کپور، نظیر صدیقی اور ڈاکٹر وزیر آغا کے نام اہمیت کے حامل ہیں۔

## مولانا ابوالکلام آزاد

بیسویں صدی میں اردو کے ماہی نازادیب، مفکر اور عظیم مجاہد آزادی مولانا ابوالکلام آزاد ارنومبر ۱۸۸۸ء کو مکملہ معنیٰ میں پیدا ہوئے۔ آزاد کا پورا نام مجی الدین احمد تھا۔ قلمی نام (تخلص) آزاد اور تاریخی نام فیروز بخت تھا۔ لیکن ابوالکلام آزاد کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ کے والد کا نام خیر الدین تھا، جو بہت بڑے عالم اور کئی کتابوں کے مصنف تھے۔ وہ بنگال کے رہنے والے تھے۔ ۱۸۵۷ء کے انقلاب (غدر) کے بعد مولانا خیر الدین بنگال سے ہجرت کر کے مکہ معنیٰ میں چلے گئے۔ وہاں اُن کی شادی مدینہ منورہ کے ایک جیجہ عالم دین شیخ محمد ظہر کی صاحبزادی سے ہوئی۔ جب مولانا آزاد تقریباً دو برس کے تھے تو ان کے والد ۱۸۹۰ء میں کلکتہ لوٹ آئے اور یہیں مستقل قیام کیا۔ آزاد کی ابتدائی تعلیم کلکتہ میں ہی ہوئی۔ آزاد نے عربی، فارسی، اردو، انگریزی اور بنگالی زبان کے ساتھ ہی ہندی زبان میں بھی مہارت حاصل کی۔ علاوہ ازیں انھیں علم فقہ میں بھی دسترس حاصل تھی۔ علم الحساب، فلسفہ، سائنس اور تاریخ عالم کا علم بھی انہوں نے اپنے وقت کے جید علماء سے حاصل کیا۔ تیرہ برس کی عمر میں آزاد کی شادی زلیخہ بیگم سے ہوئی۔ آزاد نے بچپن میں ہی صحافت کے میدان میں قدم رکھ لیا تھا۔ ۱۹۰۰ء میں محض ۱۲ رابر برس کی عمر میں انہوں نے ہفتہ وار رسالہ 'المصباح' جاری کیا۔ جب وہ ۱۳ رابر برس کے ہوئے تو انہوں نے مشہور رسالہ 'مخزن' میں مضامین لکھنا شروع کیے۔ اور اپنے ہم عمر طلباء کو پڑھانے بھی لگے۔ وہ اپنے دور کے طلباء سے بہت آگے تھے۔ ۱۹۰۳ء میں انہوں نے کلکتہ سے رسالہ 'لسان الصدق' جاری کیا۔ جو بعد میں بہت مشہور ہوا۔ تقریباً ۱۶ رابر برس کی عمر میں انہوں نے ایک منظوم رسالہ 'نیرنگ عالم' شائع کیا۔

اردو ادب میں مولانا آزاد کا عظیم کارنامہ ہفتہ وار اخبار 'الہلال' تھا جو انہوں نے ۱۹۱۲ء میں جاری کیا۔ اس اخبار میں انہوں نے انگریزی حکومت کی پالیسیوں کے خلاف اور ہندو مسلم اتحاد پر مضامین لکھے۔ اور نوجوان مسلمانوں میں آزادی کے جذبات بیدار کیے۔ لہذا برطانوی حکومت نے ۱۹۱۳ء میں اس اخبار پر پابندی لگادی۔ مولانا نے اپنے اس مشن کو جاری رکھنے کے لیے اخبار 'البلاغ' جاری کیا۔ اس اخبار کا مقصد بھی مسلم نوجوانوں میں قومیت کا جذبہ بیدار کرنا اور ہندو مسلم اتحاد کو مضبوطی دینا تھا۔

پہلی جنگ عظیم (عالمی جنگ ۱۸-۱۹۱۴ء) کے دوران ہی خلافت تحریک شروع ہوئی۔ جس کا مقصد عالمی سلطھ پر انگریزوں کی مخالفت کرنا تھا جس کی راہنمائی تُرکی کی عظیم عثمانی سلطنت، کر رہی تھی۔ (جو اس پہلی عالمی جنگ میں بھی انگریزوں کے خلاف اتحادیوں کے ساتھ شامل تھی۔) دنیا کے تمام مسلمان انھیں اپنا خلیفہ تسلیم کرتے تھے۔ مولانا نے مناسب موقع دیکھ کر خلافت تحریک، کی حمایت کی اور ہندوستانی مسلمانوں کو انگریزی حکومت کے خلاف اُکسا کران میں سیاسی بیداری پیدا کی اور معاشرتی اصلاح کی جانب راغب کیا۔ اس سے ہندوستان میں مولانا کی مقبولیت بے حد بڑھ گئی۔ لہذا انگریزی حکومت نے 'البلاغ'، کو غیر قانونی قرار دے کر مولانا کو گرفتار کر لیا اور راچی جیل میں ڈال دیا۔ جہاں وہ یکم جنوری ۱۹۴۰ء تک قید رہے۔

مولانا چونکہ بچپن سے ہی سیاست اور صحفت میں دلچسپی رکھتے تھے لہذا ان دونوں ہندوستان کی تحریک آزادی میں مہاتما گاندھی کی تحریک عدم تشدد سے بہت متاثر ہوئے اور ان کے ساتھ تحریک آزادی میں شامل ہو گئے۔ وہ دو مرتبہ اٹلین نیشنل کانگریس کے صدر منتخب ہوئے۔ دوسرے دور کے عہد صدارت (۱۹۴۰-۴۵ء) میں ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف 'بھارت چھوڑ تحریک' (Quit India Movement - 1942)

آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم بھی بنائے گئے۔ انہوں نے وزیر تعلیم رہتے ہوئے ہندوستان کی تعلیمی پالیسی مرتب کی۔ ان کے عہدِ وزارت میں ہی ہندوستان میں آئی آئی ٹی (IIT)، یونیورسٹی گرانتس کمیشن (UGC) جیسے اعلیٰ تعلیمی ادارے قائم ہوئے۔ مولانا کی عظیم سیاسی، سماجی، مذہبی، معاشرتی اور تعلیمی اصلاحات اور خدمات کی بنیاد پر حکومت ہند نے ۱۹۹۲ء میں انھیں ہندوستان کے سب سے بڑے شہری اعزازِ بھارت رتن سے نوازا۔ ۲۲ فروری ۱۹۵۸ء کو ۲۹ برس کی عمر میں قوم ملک کا یہ عظیم را ہبراس جہانِ فانی سے رخصت ہوا۔ ان کی یاد میں ان کے یومِ ولادت ۱۱ نومبر کو ہر سال ملک بھر میں ”قومی تعلیمی دن“ (National Education Day) کے طور پر منایا جاتا ہے۔

مولانا آزاد نہ صرف ایک اعلیٰ قدر سیاست داں تھے بلکہ وہ ایک عظیم مصلحِ قوم، ماہر تعلیم، شاعر، مفکر، عمدہ خطیب، اعلیٰ درجے کے صحافی اور اردو کے عظیم نثر نگار بھی تھے۔ ان کی ادبی و فلکری عظمت ان کے اخبارات ’الہلال‘ اور ’البلاغ‘ سے ثابت ہوتی ہے علاوہ ازیں ان کے خطوط کا مجموعہ ’غبار خاطر‘ (جو انہوں نے ۱۹۲۵ء سے ۱۹۳۲ء کے درمیان قلعہ احمد گنگر جیل سے اپنے دوست مولانا حبیب الرحمن خاں شروعی کو لکھے تھے، لیکن اپنے پاس ہی رکھے) بھی اردو ادب میں ان کی عظمت کا امین ہے۔ انھیں زبان پر عبور حاصل تھا۔ وہ اپنے خیالات کو آسان اور با محاورہ زبان میں پُرا شرطیت سے ظاہر کرتے تھے۔ ان کا اندازِ خطیبانہ ہوتا تھا۔ ان کی تحریر و تقریر میں بلندی فکر، دردمندی، عظمت نفس، علیمت، متنانت و سنجیدگی اور حُسن و نگینی کے احساسات کے ساتھ ہی طنز و ظرافت کی چاشنی بھی پائی جاتی ہے۔ جو پڑھنے اور سننے والے کے دل و دماغ پر اثر کرتے ہوئے اُس کی روح کو بیدار کرتی ہے۔ اور اُسے حرکت و عمل پر مجبور کرتی ہے۔ سطحی اشتعال اگنیزی اور لفظی بازی گری کے بجائے آزاد اپنی تحریر و تقریر سے قوم کے فکر و شعور کو منتاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

آزاد کی ایک اور ادبی تخلیق ان کی خود نوشت سوانح ”تذکرہ“ ہے۔

شامل نصاب مضمون ”حقیقی عظمت“ ان کی اسی خودنوشت ”تذکرہ“ سے اخذ کیا گیا ہے۔ جس میں انھوں نے اپنے اسلاف کے کردار و اعمال کا ذکر کرتے ہوئے فخر محسوس کیا ہے۔ اس مضمون میں آزاد نے اسلام اور مسلمانوں کی شاندار پاریزند روایات اور کارناموں پر روشنی بھی ڈالی ہے۔ اور بتایا ہے کہ انسان کے خود کردہ (ذاتی اعمال) سے ہی اس کو عزت اور قدر کی نگاہوں سے دیکھا جاسکتا ہے۔

## حقيقي عظمت

انسان کے لیے معیار شرف جو ہر ذاتی اور خود حاصل کردہ علم و عمل ہے نہ کہ اسلاف کی روایات پارینہ اور نسب فروشی کا غرور باطل۔ ہم کو ایسا ہونا چاہیے کہ ہماری نسبت سے ہمارے خاندان کو لوگ پہچانیں نہ یہ کہ اپنی عزت کے لیے خاندان کے شرف رفتہ کے محتاج ہوں۔ ارباب ہمت نے ہمیشہ اپنی راہ خود نکالی ہے اور عظمت و رفتہ کی تعریف صرف اسی سامان سے کی ہے جو خود ان کا بنایا ہوا تھا۔ نیپولین کا ایک قول مجھے نہیں بھولتا۔ فتح پروسیا کے بعد جب فریڈریک عظم کی قبر پر گیا تو دیکھا کہ فریڈرک کی تلوار قبر پر لٹک رہی ہے۔ نیپولین نے تلوار اٹھا کر ایک ساتھی کے حوالے کی اور کہا کہ پیرس کے عجائب خانہ کی نذر کر دوں گا، یہ سن کر جزل نے کہا ”اگر مجھ کو ایسی باعظمت اور تاریخی تلوار ملتی تو کبھی کسی دوسرے کو نہ دیتا۔“ نیپولین نے کہا ”کیا میرے پاس تلوار نہیں؟“

پس سچی عظمت کی راہ نہیں ہے کہ فریڈرک کی عظمت یافتہ تلوار لوگوں کو دکھلائیں۔ سچی عظمت وہ ہے جو خود ہماری تلوار کو ہماری نسبت سے ملی ہو اور اگر ایسا ہو گیا ہے تو یہ بس کرتا ہے۔ ہم کو اپنی نیام میں صرف اپنی ہی جو ہر دار تلوار کھنی چاہیے۔ دوسروں کی تلوار کی نمائش سے اگر دیکھنے والوں کا تعجب و احترام حاصل بھی کر لیا گیا تو اس کے اصلی مالک ہم نہیں ہیں، تلوار کا مالک ہے!

خاندان کے فخر کا ہوت بھی دنیا کے عہدِ جاہلیہ کی ایک یادگار ہے، اور اسلام نے انسان کے بہت سے بنائے ہوئے بُتوں کے ساتھ اس کو بھی توڑ دیا تھا۔ ہم آج بھی دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ ”عمل“ کا فرشتہ کتنے ہی بُتوں کو چھوٹا کرتا ہے اور کتنے ہی چھوٹوں کو بڑا بناتا ہے۔

بلال جبشتی اور صہیب رومی کی نسبت اس سے زیادہ ہم کیا جانتے ہیں کہ مسلمان تھے۔ اور مسلمان فارسی سے جب اس کے خاندان کا حال پوچھا گیا تو اس نے کہا ”سلمان بن اسلام“ اور جب فاروقِ عظیم کے جنازہ پر نماز کی صفائی کھڑی ہوئیں تو ہزاروں قریشی اور ہاشمی مقتدی تھے اور صہیب رومی امام۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کی نظرتی ترقی اور قدرتی حقوق کے قیام کے لیے نسب و خاندان کے امتیازِ باطل سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ یہی چیز ہے جو انسان کو اس کی ذاتی قوتوں کے استعمال اور ان کے ثمرات سے محروم رکھنا چاہتی ہے اور اس خلافِ فطرت راہ کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ ایک شخص کو باوجود عدم استحقاقِ ذاتی مستحقِ شرف سمجھا جائے اور دوسرا کو باوجود استحقاقِ ذاتی محروم کر دیا جائے۔ اسلام نے ان اکثرِ مُکْمُمِ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاءِكُمْ اور لَيْسَ لِلِّا نُسَانِ إِلَّا مَأْسَعَى کے قانونِ عام کا اعلان کر کے اسی مہلک روگ کو مٹانا چاہا۔ اور قرآن نے بتایا کہ دنیا کی تمام قدیم صداقتیں بھی اسی قانون کی طرف دعوت دیتی رہی ہیں۔ صحفِ ابراہیم و موسیٰ میں بھی یہی تھا۔ لیکن افسوس کہ غزوہِ نسل و وطن کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے پھر جوڑ لیے گئے اور نئے نئے بھیسوں میں پھر اس کی پستش شروع ہو گئی۔ اب بہت کم سریلیں گے جونشہِ باطل سے سرگراں نہ ہوں۔ الاما شاء اللہ پس الحمد للہ کہ اس کی طلب ہے اور نہ اس پر اعتماد اور نہ نااہلوں کے اس فریبِ عزت اور سرابِ شرف کی ضرورت۔ طلب جس گوہرِ مقصود کی ہے وہ توفیقِ عمل ہے اور اگر کچھ اعتماد ہے تو اپنی عجز و شکستگی اور اس کی نظرِ کرم کی عاجز نوازیوں پر۔

البته اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں میں سے جن کے ذریعہ وہ اس دنیا میں اپنے بندوں کو سعادت بخشتا ہے ایک بڑی نعمت آباء صالحین کے لیے یہ ہے کہ اولاد صالح عطا فرمائے اور اولاد کے لیے یہ ہے کہ والدین صالح ہوں۔ یہ ظاہر ہے کہ کسی خاندان میں عرصے تک علم و صلاح کا باقی و جاری رہنا بغیر اس کے ممکن نہیں کہ ان دونوں نعمتوں سے فیض یاب ہو۔ آباء کو اولاد صالح اور اولاد کو آباء صالح نصیب ہوں۔ پس بلاشبہ اس کو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم یقین کرتا ہوں کہ مجھ کو ایک ایسے خاندان میں پیدا کیا جس میں

صدیوں سے سلسلہ علم و ارشاد قائم و جاری ہے، اور جس کے اسلاف کرام کے اعمال صالح کا پاک ورثہ یکے بعد دیگرے اخلاف تک منتقل ہوتا آیا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جس کے اخلاف کو حق گوئی و حق پرستی اور طریقِ استقامت و عشقِ حق میں سرفروشی و جاں سپاری اور مغرورانِ تاج و تخت و بندگانِ مال و جاہ کے مقابلے میں بے نیازی و سرگرانی ہمیشہ اپنے اسلاف کے ورثہ میں ملی ہے۔ اسی کو اپنا موروٹی خزانہ اور اسی کو اپنا خاندانی تاج و تخت سمجھتا ہوں۔

اگر یہی غورِ نسب و خاندان ہے تو اس کے اعتراف میں مجھے کچھ باک نہیں۔ بلاشبہ اسلاف کے ورثہ علم اور حق پرستی کو دنیا کی ہر نعمت سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں، اور نہیں چاہتا کہ کبھی اس نشدہ سے میرا دماغ خالی ہو۔

بڑی سے بڑی آرزو جس کو اپنے دل میں رکھ سکتا ہوں یہی ہے کہ زندگی کی آخری گھڑیوں تک اپنے اسلاف کرام کے طریقِ حق پر مستقیم رہنے کی توفیق پاؤں اور اپنی ساری زندگی اسی راہ کی کوچہ گردی میں بسر کر دوں جس کا نشان سفروہ اپنی یاد رگار میں چھوڑ گئے ہیں۔ خدمتِ علم و حق کا ایک سرمایہ سعادت ہے جو مجھ تھی دست تک پہنچتا ہے۔ میری محرومی ہے اگر اس کو بچانہ سکا اور فضلِ الہی کی بخشش ہے اگر اس کی عزت اور نامِ نیک کو آنے والوں کے لیے محفوظ چھوڑ گیا۔

## مشکل الفاظ اور ان کے معانی

| الفاظ                | معانی  |
|----------------------|--|
| معیارِ شرف           | بزرگی کا پیانہ   |
| جوہرِ ذاتی           | اصلی یا حقیقی ہنر  |
| آسلاف                | بزرگ، پہلے وقوں کے لوگ   |
| روایاتِ پارینہ       | پرانی روایتیں  |
| باطل                 | ناحق۔ غلط بے اصل۔ جھوٹا  |
| استحقاقِ ذاتی        | اصل قابلیت، اصل حق   |
| صحفِ ابراهیم و موسیٰ | وہ چھوٹی کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور<br>حضرت موسیٰ پر نازل فرمائیں |
| سرگران               | ناراض، نشے کا خمار   |
| صالح                 | پرہیزگار، نیک  |
| آخلاف                | خلف کی جمع، اولاد، آنے والی نسل  |
| موروثی               | پشمیں، باپ دادا کا   |
| اعتراف               | اقرار کرنا، مان لینا   |
| تھی دست              | مفلس، غریب، خالی ہاتھ  |

## مشقی سوالات

### مختصر سوالات:

- ۱۔ مضمون 'حقیقی عظمت' کے مصنف کا نام بتائیے۔
- ۲۔ مولانا ابوالکلام آزاد کب اور کہاں پیدا ہوئے؟
- ۳۔ فریدرک عظم کی قبر پر نیپو لین کو کیا چیز ملی؟

### مختصر سوالات:

- ۴۔ فریدرک عظم کی تواریخ متعلق نیپو لین اور جزل کے درمیان کیا گفتگو ہوئی؟
- ۵۔ مولانا آزاد کے مطابق سچی عظمت کیا ہے؟
- ۶۔ حضرت بلاں جبشی اور حضرت صہیب رومی کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟

### تفصیلی سوالات:

- ۷۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے حالات زندگی تحریر کیجیے اور ان کی نشرنگاری کی خوبیوں پر روشنی ڈالیے۔
- ۸۔ مولانا آزاد کے مضمون 'حقیقی عظمت' کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔

## مولانا وحید الدین سلیم

مولانا وحید الدین سلیم ۱۸۶۷ء میں قصبہ پانی پت ضلع کرناں میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد حاجی سید فرید الدین پانی پت کے مشہور سادات گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور مشہور بزرگ حضرت بوعلی شاہ قلندر کے آستانے کے متولی تھے۔ ابتدائی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی۔ حفظ قرآن گھر پر ہی استانی شمس النساء آپانے کرایا۔ والد حاجی فرید الدین کے انتقال کے بعد سلیم کی تعلیم و تربیت ان کے والد کے کرم فرما اور بزرگ مولانا سید غوث علی شاہ کی زیر گنراںی ہوئی۔ مولانا کو بچپن سے ہی فارسی کا شوق تھا۔ نہایت ذہین تھے۔ محض ۱۲ اربس کی عمر میں مولانا نے مولانا سید غوث علی شاہ کی مدح میں فارسی میں ایک قصیدہ لکھا جو ایک سو ایک اشعار پر مشتمل تھا اور اسے مولانا اور دیگر عوام کے سامنے پڑھا۔ جسے سن کر عوام اور خود مولانا محو حیرت ہو گئے۔

پانی پت میں ڈل درجہ تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد مولانا لا ہور تشریف لے گئے۔ جہاں آپ نے عربی ادب کی تعلیم مولانا فیض الحسن سہارنپوری سے حاصل کی، تفسیر بھی انھیں سے پڑھی۔ فقه، حدیث، منطق اور فلسفہ کی تعلیم مولانا عبدالاحد ٹونگی سے حاصل کی۔ تلاشِ معاش کے لیے ریاست بہاولپور (پاکستان) گئے جہاں مکمل تعلیم، ریاست بہاولپور میں ملازمت کی۔ کچھ عرصہ بعد را مپور کے ہائی اسکول میں ہمیڈ مولوی کے عہدے پر مأمور ہوئے۔ لیکن مرض تشنخ (انپھن کی بیماری) کی وجہ سے تقریباً چھ سال تک مسلسل بستر پر ہی رہے۔ صحت یابی کے بعد مولانا نے جاندھر کے ایک مشہور حکیم سے طبٰ یونانی کافن حاصل کیا اور پانی پت میں مطب (دواخانہ) شروع کیا۔

سرسید نے مولانا کی قابلیت اور جوہر کو پہچانا اور انھیں اپنے پاس بلالیا۔ مولانا ایک عرصہ تک سرسید کے لٹریری سکریٹری رہے۔ مولانا سرسید کے "علی گڑھ گزٹ" اور "تہذیب الاخلاق" رسالوں کے لیے بھی مواد فراہم کرتے تھے۔ سرسید کے انتقال کے بعد مولانا نے رسالہ "معارف" نکالا اور پھر کئی برس تک "علی گڑھ گزٹ" کے ایڈیٹر بھی رہے۔ اس کے بعد لکھنؤ سے نکلنے والے "مسلم گزٹ" کے بھی ایڈیٹر بنے۔

سلیم عمر کے آخری دور میں محکمہ دار الترجمہ سے وابستہ ہو گئے اور عثمانیہ یونیورسٹی کے لیے میاں ہونے والی کتب کے ترجم کا کام سنبھالا۔ عثمانیہ یونیورسٹی کھلنے پر مولانا شعبہ اردو میں اسٹینٹ پروفیسر مقرر ہوئے۔ محض چار سال میں ہی اپنی لیاقت اور صلاحیت کی وجہ سے انھیں پروفیسر بنادیا گیا۔ اور آخری عمر تک اسی عہدے پر فائز رہے۔ ۱۹۲۸ء میں حیدر آباد میں آپ کا انتقال ہوا۔

مولانا اردو، عربی اور فارسی کے جیڈ عالم اور فارسی و اردو کے اچھے شاعر بھی تھے۔ وہ مغربی علوم سے بھی بخوبی واقف تھے۔ مولانا حاجی کی ان پر خاص زگاہ تھی۔ مولانا نے بچپن سے ہی شاعری شروع کر دی تھی اور ابتداء میں روایتی انداز میں غزلیں کہتے تھے۔ لیکن لاہور میں رہتے ہوئے ان پر حاجی کا اثر پڑا اور انھوں نے قومی نظمیں لکھیں۔

سلیم نے نظم نگاری کے ساتھ ہی درس و تدریس اور نشر پر زیادہ توجہ دی۔ ان کی نظر نہایت سادہ سلیس اور معنی خیز خیالات پرمنی ہوتی تھی۔ وہ عربی اور فارسی کے دقیق الفاظ سے اجتناب کرتے تھے۔ ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے اور ہمیشہ غیر مذہب کے بزرگوں اور ان کی تاریخ و ادب کی عظمت و احترام کرتے تھے۔ سرسید کی صحبت کی وجہ سے بھی ان کی نظم نگاری پر اثر پڑا۔ اپنے خیالات نہایت واضح اور آسان زبان میں ظاہر کرتے تھے۔ اپنی تحریر و تقریر میں ہندی کے میٹھے اور سریلے الفاظ نہایت بے تکلفی سے استعمال کرتے تھے۔ ان کی نگاہ و سیج اور علم ٹھوس تھا۔ ان کے یادگار مضمایں میں "تمسی داس کی

شاعری، اور ”عربوں کی شاعری“ بہت مشہور ہیں۔ ان کی مشہور کتاب ”وضع اصطلاحات“ ان کے اعلیٰ تحقیقی مرتبہ و علمی کمال کا ثبوت ہے۔ زیرِ نظر مضمون خطاب بہ طلباء میں سلیمان نے طلباء سے خطاب کرتے ہوئے انھیں دنیا اور اس کی حقیقت اور یہاں درپیش دشوار یوں اور ان کا سامنا کر کے منزلِ مقصد پر پہنچنے کے لیے کوشش و عمل کرنے کی ترغیب دی ہے۔

وحید الدین سلیم

## خطاب بہ طلب

عزیز نوجوانو!

کتابوں کی دنیا ایک خیالی دنیا ہے۔ ہمارے ملک کے نوجوانوں کو اس دنیا سے نکل کر اصلی دنیا میں قدم رکھنا چاہیے۔ جب وہ اصلی دنیا میں جو خیالی دنیا نہیں ہے بلکہ ایک زندہ دنیا ہے قدم رکھیں گے تو ان کو معلوم ہو گا کہ ان کے چاروں طرف خطرات ہیں، مشکلات ہیں۔ وہ ان خطرات و مشکلات کی صفوں کو چیر کر آگے بڑھیں تو ان کے لیے اس زندہ دنیا میں کوئی جگہ نکل سکتی ہے۔ اگر ان کو زندہ رہنا ہے اگر ان کو کار آمد اور مفید شہری بنانا ہے تو وہ پھر کمر باندھ لیں کہ اپنے گرد و پیش کے خطرات و مشکلات کے پہاڑوں کو کاٹ ڈالیں گے اور ان کے درمیان چلنے کو ایک کشادہ رستہ بنائیں گے۔ ورنہ پھر ان کو انھیں کتابوں کے قبرستان میں جنم کو وہ پڑھتے رہے ہیں دن ہو جانا چاہیے اور ترقی اور کامیابی کا بھی نام نہ لینا چاہیے۔ کالجوں کے تعلیم یافتہ نوجوانوں کو اس روشن خیال ایڈیٹر کی تقریر پر غور کرنا چاہیے۔ کتابوں کو پڑھ کر گزشتہ نامور انسانوں کی نسبت ہم خیال کرتے ہیں کہ ان کو خدا نے غیر معمولی قوتیں عطا کی تھیں یا ان کے زمانے کے لوگ ایسے شائنے اور شریف تھے جن سے اپنی کامیابی اور ترقی کے رستے میں کسی خلل کا اندیشه ان کو پیدا نہ ہوا۔ حاشا و کلا! جس طرح ہمارا زمانہ خطرات و مشکلات سے لبریز ہے، جس طرح مخالف طاقتیں ہمیں اب ہر طرف دباو ڈالتی نظر آتی تھیں، جس طرح قدم پر زحمتوں اور کاؤنوں کا سامنا ہمیں اب کرنا پڑتا ہے، جس طرح تعصّب و حسد کے دیو ہمارے سامنے سینہ تانے اب کھڑے ہیں، یہی حال پہلے بھی تھا مگر جن لوگوں نے ترقی اور کامیابی حاصل کی اور شہرت اور ناموری کی بلندی پر پہنچ انہوں نے لاجب ارادے اور اٹلی ہمت سے کام لیا۔ وہ مصیبتوں کی صفوں کو چیر کر آگے بڑھے۔ ان

کے عزمِ راست کے سامنے پھاڑ پانی ہو کر بہہ گئے۔ مشکلات کی نگین چٹانیں پاش پاش ہو گئیں۔ ان کو بارہا ناکامیاں ہوئیں مگر ما یوسی ان کے تیور پر شکن نہ ڈال سکی۔ انہوں نے بہت دفعہ شکست کھائی مگر وہ ہر دفعہ پسپا ہو کر آگے بڑھے اور آخر کار اس منزل پر پہنچ گئے جہاں ان کو پہنچنا مطلوب تھا۔ دنیا میں جس طرح خود غرض، حاصلہ متعصب اور عیار آج موجود ہیں، پہلے بھی تھے۔ ایسے ہی لوگوں کے درمیان وہ نامور ان بھی گھرے ہوئے تھے مگر جس دھن میں وہ محو تھا اس سے کوئی چیز ان کو نہ ہٹا سکی۔ جس نشہ میں وہ مست تھے اس کو کوئی ترشی نہ اتا رہی۔

ہمارے کالجوں کے تعلیم یافتہ نوجوانوں کو تعلیم ختم کرنے کے بعد اصلی اور زندہ دنیا میں داخل ہونا ہے۔ اگر وہ اس کے لیے تیاری نہ کریں تو پھر ان کا ناکام ہونا اور شکست پانا ضروری ہے۔ اس دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے جن اصولوں کی ضرورت ہے وہ کالجوں کے احاطے میں بتائے نہیں جاتے۔ موجودہ طرزِ تعلیم سے وہ اخلاقی تربیت نہیں ہو سکتی جو ان کو اصلی اور زندہ دنیا میں کامیاب کرے۔ یہ تربیت ہوشیاری کے ساتھ خود اصلی اور زندہ دنیا ہی میں داخل ہونے سے مل سکتی ہے۔ دنایاں فرنگ نے ایسی انجمنیں قائم کی ہیں جن کے ارکان تعلیم یافتہ نوجوانوں کو فیض لے کر گھر بیٹھے ایسے اصولوں کی تعلیم دیتے اور اصولوں کی مشق کرتے ہیں جن کے سبب وہ کامیاب ہوں۔ مگر وہ تعلیم بے کار ہے۔ اگر سبق لینے والے طلبہ سو سائی ہیں ان اصولوں کی مشق عملی نہ کریں، یہ اصول کوئی انوکھے اور زارے اصول نہیں۔ دنیا میں جن لوگوں نے کامیابی اور ترقی حاصل کی ہے ان کو پیش آنے والے خطرات اور مشکلات نے یہی اصول بتائے تھے۔ اگر وہ زحمتوں اور مصیبتوں میں پڑ کر ان اصولوں کی عملی مشق نہ کرتے تو منزل مقصود تک کبھی پہنچ نہیں سکتے تھے۔ غور کرنے والوں نے کامیاب اور ترقی یافتہ انسانوں کی زندگیاں پیش نظر کر کر چند اصول مرتب کر لیے ہیں اور ان کو وہ تمام دنیا میں عام کرنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہر نوجوان جو زندہ دنیا میں قدم رکھتا ہے اور کوئی مطیع نظر اس کے سامنے ہے ان اصولوں کی مشق و مزاولت

کرے اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو۔ میرے نزدیک ہر سوچنے والا دماغ ان اصولوں تک ضرور پہنچ گا اور ہر غور کرنے والا دل ان کی صداقت کو محسوس کرے گا۔ یہ ہر انسان کے دل کے اندر پوشیدہ ہیں۔ ضرورت ہے کہ تم بھکر فراموش نہ کیے جائیں، ضرورت ہے کہ ان پر یقین کیا جائے۔ ضرورت ہے کہ ان پر عمل کیا جائے۔

جو پیغام میں تعلیم یافتہ نوجوانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اس میں انھیں فطری اور ابدی اصولوں کی روح ہے جو ایشیا کے ہر مفکر کے قلب میں اسی طرح موجود ہیں جس طرح یورپ کا ایک ہوش مند اور مفکر انسان اس کو محسوس کرتا ہے۔

سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہر نوجوان کو اپنے دل میں کوئی عمدہ خواہش پیدا کرنی چاہیے۔ خواہش کا مأخذ کوئی ایسا فائدہ ہے جو ہونا چاہیے مگر ہے نہیں۔ یعنی فائدہ غیر موجود کے احساس کا نام خواہش ہے، مسرت و انبساط کی تلاش کا نام خواہش ہے۔ یہ ایک محرك ہے جو ہمیں فعل یا ترک فعل پر مجبور کرتا ہے۔ یہ محرك ہماری تمام قوتوں کو اکساتا ہے اور ہم میں کام کرنے کے جذبات کو ابھارتا ہے۔ جو جذبات اس عمدہ خواہش کی تکمیل میں موجود ہوں کو مر نے دینا نہیں چاہیے، اپنے تمام دل و دماغ کو اس میں منہمک کر دینا چاہیے۔ اپنی خواہش کو اس قدر بار بار سوچنا اور دل میں لانا چاہیے کہ کوئی چیز اس کے سوا کاشاثتہ دل میں نہ رہے۔ ایک بڑے نامور انسان کا قول ہے کہ جیسا سوچو گے ویسا کرو گے اور جیسا کرو گے ویسا بنو گے اور جیسا بنو گے ویسے نتیجے حاصل کرو گے۔ ایک عالی خیال انسان کی نصیحت ہے کہ ”اپنی خواہشوں اور ان کے جذبات کو پڑھ مردہ نہ ہونے دو ان کا احترام کرو، ان کو پیش گویاں سمجھو جو پوری ہونے کے لیے تیار ہیں۔“

خواہش ایک زبردست محرك ہے جو ارادے میں تموج پیدا کرتا ہے۔ پُر جوش خواہش اور مضموم ارادہ وہ اوصاف ہیں جو ناممکن کو ممکن کر دکھاتے ہیں۔ جوش کیا ہے؟ ایک مععدی بخار ہے جو اپنی گرم اور

بے قرار ہوں کا جال اپنے گرد و پیش پھیلا دیتا ہے اور خود بیچ میں بیٹھ جاتا ہے اس لیے کہ تم ناکو منسخر کرے اور مراد کو شکار کرے۔ جب الہامِ ربّانی ہماری ذاتی دلچسپیوں اور ہمارے فطری رجحانوں کو اپنے سایہ عاطفت میں لیتا ہے، اسی حالت کا نام جوش ہے۔ یہ قوت ہر کس و ناکس کے اندر و دیعت کی گئی ہے مگر بہت کم ہیں جو اس کے اظہار کی خواہش کرتے ہیں۔ جوش ایک قسم کی بھاپ ہے جو ہماری دماغی مشین کو چلاتی اور ہمیں کامیابی اور کامرانی کی منزل تک پہنچاتی ہے۔ مجنونانہ جوش شخصیت کی جان اور کامیابی کی روح روائی ہے۔ پر جوش خواہش کے ساتھ مضموم ارادے کی ضرورت ہے۔ ارادہ کا رخانہ دنیا میں ایک عظیم الشان قوت ہے۔ انسان ایک برقی ٹریم ہے، دماغ برقی چھڑی ہے۔ ارادہ برقی تاروں کا ایک سلسلہ ہے جو اس کے اوپر پھیلا پڑا ہے۔ انسان کا کام صرف اتنا ہے کہ برقی چھڑی سے ارادے کے تاروں کو چھو لے، حرکت خود بخود پیدا ہو جائے گی۔ پر زور خواہش اور اٹل ارادے جس انسان کے اندر موجود ہیں وہ عالی ہمت اور بلند حوصلہ انسان ہے۔ زمانہ کے نشیب و فرازا یسے عالی ہمت اور بلند حوصلہ انسان کے آگے آخر کار سر تسلیم ختم کر دیں گے۔ جوان کے سامنے اپنی گردن نہیں جھکاتا بلکہ مردانہ وار مقابلہ کرتا ہے اور تُر کی بُر کی جواب دیتا ہے۔

عزمیز نوجوانوں! یاد رکھو کہ ایسا انسان دنیا کے ناگوار واقعات سے نہیں گھبرا تا وہ ہر قسم کی تکلیفوں اور پریشانیوں کو بے پرواںی کی نظر سے دیکھتا ہے۔ وہ یقین کرتا ہے کہ جو امور بظاہر ناگوار اور ناقابل برداشت معلوم ہوتے ہیں وہ حقیقت میں دیگر خوش آیند امور کا پیش خیمه ہوتے ہیں۔

ایک بڑے تجربہ کا حکیم کا قول ہے کہ ”مصیبتوں مصیبتوں نہیں ہیں۔ وہ ایک امتحان ہیں جس کا نتیجہ کامیابی بھی ہے اور ناکامی بھی مگر کامیاب صرف وہی لوگ ہوتے ہیں جو ان سے مغلوب نہیں ہوتے۔“ ایک اور دلنشمند مصنف لکھتا ہے کہ ”زور شور کی بارش ایک نعمت ہے جس پر کائنات کی زندگی کا مدار ہے۔ اگرچہ ایک صاحبزادے کی قیمتی اور پر تکلف پوشک اس کے چھینٹوں سے بھیگ جائے، کیا اس

سے بارش کے فوائد میں کمی واقع ہوگی۔ ہرگز نہیں۔ اسی طرح مصائب و آلام خدا کی نعمتیں ہیں مگر شرط یہ ہے کہ ان کے ظاہری جوش و خروش سے ہم ناک بھوں نہ چڑھائیں۔“

علمی اخلاق کے ماہرین نے ہدایت کی ہے کہ مصیبت کے وقت اپنے نفس کو قابو میں رکھنا چاہیے اور اپنے مطہر نظر پر یقین ہے اس میں کسی طرح کا تزلزل نہیں آنا چاہیے۔ یقین رکھنا چاہیے کہ مصیبت کا بادل حپٹ جانے کے بعد کامیابی کی روشنی ضرور جلوہ گر ہوگی۔ کسی مصیبت یا کسی تکلیف کا شکوہ نہیں کرنا چاہیے کہ شکایت اور شکست دونوں لفظوں کے ایک معنی ہیں۔ یعنی اگر شکایت کرتے ہو تو یقین کر لو کہ تم اپنے پیش نظر میدان سے ہٹ گئے اور تم نے اپنی شکست مان لی۔ شکایت سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ تم جو اپنے مقصد پر یقین رکھتے تھے اب اس یقین میں خلل آ گیا۔ حالانکہ یقین ہی وہ چیز ہے جس میں کامیابی کا راز مضر ہے۔ کار پرداز این قضا و قدر نے قلوبِ انسانی میں ایک زندہ چنگاری مخفی رکھی ہے جو خواہش کی تحریک سے مشتعل ہوتی ہے۔ اگر اس کی طرف سے غفلت کی جائے تو وہ چنگاری کجلاتی اور بالآخر بجھ جاتی ہے۔ اس چنگاری کے زندہ رکھنے کے لیے صرف ایک چیز ہے اور وہ یقین و اعتقاد ہے۔ ارادہ اس کا ایندھن ہے جب یہ غذا اس کو ملتی ہے تو اس کی ترقی کی راہ میں کوئی چیز حائل نہیں رہتی۔ مزاحمت کی لوہا لاث دیواریں اور رکاوٹ کی سنگلاخ چٹانیں واعتقاد کے مقابلے میں پرکاہ سے زیادہ وقعت نہیں رکھتیں۔ ہمت و استقلال اسی حالت کا نام ہے۔

اگر منزل مقصود پر پہنچنے کی آرزو ہے تو اس سے پہلے ہر نوجوان کو سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا میں کوئی شے مفت نہیں ملتی۔ باقاعدہ اور جاں کا محنت کے بغیر کامیابی ایک خواب ہے جس کی تعبیر ناکامی اور نامرادی کے سوا کچھ نہیں۔ پس ضروری ہے کہ ہر نوجوان اپنے اوقات کو کام میں مشغول رکھے، بے کاری میں زندگی بسرنہ کرے۔ اس کو یقین کرنا چاہیے کہ کام زندگی ہے اور بے کاری موت ہے۔ سکون اور افسردگی حرام ہے۔ نچلا بیٹھنا خطرناک ہے۔ ہر نوجوان کو اپنے پیش نظر مقصد کے لیے ہمیشہ ہمت اور کوشش میں مشغول

رہنا چاہیے۔ یہ کوشش مجنوں کی سی ہو۔ گذشتہ زمانے میں بھی جو نامور انسان اپنے مقصد کے لیے ایک خاص دھن میں مشغول رہے ہیں ان کو دنیا نے مجنوں کہا ہے اور مجنوں سمجھا ہے مگر ایک انشا پرداز لکھتا ہے کہ ”ایسے ہی مجنوں کی ضرورت دنیا کو ہے۔“ تمدن کی عظیم الشان عمارت کی بنیاد انجیس مجنوں نے اٹھائی تھی۔ اگر یہ مجنوں نہ ہوتے تو دنیا ترقی کی منزل میں ایک قدم آگے نہ بڑھتی ایسے ایک مجنوں کی دھن پر ہزاروں ہوشیار اور عقلمندوں کی عقل و حکمت قربان کر دینی چاہیے۔ قافلے کے قافلے گہری اور میٹھی نیند میں پڑے ہوتے ہیں۔ مگر یہ مجنوں اس وقت بھی تگ و دو میں سرگرم نظر آتے ہیں ان کو آواز جرس کی ضرورت نہیں ہے۔ دل کی آواز ہی ان کو ہر وقت جگاتی اور آگے بڑھاتی رہتی ہے۔ وہ رستے کے خطرات سے نہیں گھبراتے بلکہ خطرات کو خود طلب کرتے ہیں تاکہ ان میں پڑ کر نفس کی تربیت ہو، وہ مشکلات سے خوفزدہ نہیں ہوتے بلکہ مشکلات کو خود دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور ان کو زندگی اور گرجوشی کا سبق دیں۔ ناکامیوں کا وسوسہ ان کے دلوں میں نہیں آتا۔ اگرنا کامیابی ان کو پیش آتی ہیں تو وہ ان سے لڑتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ وہ اپنی دھن میں موت کی بھی پروانہیں کرتے۔ ذوق طلب میں وہ برابر آگے بڑھتے ہیں اور اپنے سفر سے نہیں اکتاتے۔ جوں جوں چشمہ زندگی کے قریب پہنچتے ہیں ان کی پیاس تیز ہوتی جاتی ہے۔ وغم اور مایوسی سے کبھی دوچار نہیں ہوتے۔ ان کی نظر امید کے ستارے پر رہتی ہے جو ہمیشہ ان کی آنکھوں کے سامنے افت پر چمکتا دمکتا نظر آتا ہے۔

عزیز نوجوان! یاد رکھو کہ ہماری خوشی اور ناخوشی بلکہ خود ہماری ہستی خیال کے تابع ہے۔ ہم کیا ہیں؟ سر سے پاؤں تک خیال کے پتلے ہیں۔ کائنات میں خیال سب سے بڑی قوت ہے اور جس چیز کا نام عمل ہے وہ اس کا پیرو ہے جو سایہ کی طرح اس کے جلو میں چلنا اپنے لیے باعث فخر جانتا ہے۔ ہر خیال اپنے موافق خیال کو اپنی طرف کھینچتا ہے ہمت افسزا خیالات میں کامیابی کا راز مضر ہے اور ہمت شکن خیالات نامرادی اور ناکامی کی ذمہ دار ہیں۔

گارفیلڈ کا قول ہے ”اس مغالط میں نہ رہو کہ قسمت تمہاری تلاش کر رہی ہے۔ حق یہ کہ تم خود قسمت کی تلاش میں ہو۔ اگر تم وہ تمام شرطیں پوری کرو جو خوش قسمتی کے لیے ضروری ہیں، پھر قسمت کی دیوی ضرور تم پر مہربان ہو گی۔“

یاد رکھو کہ کامیابی اور اضطراری نہیں ہے بلکہ قانون کی پابندی کا لازمی نتیجہ ہے۔ لوگ جس کو محض بخت و اتفاق کہتے ہیں، قوانین فطرت کی فہرست میں اس کا کہیں نام نہیں۔ تم جو کچھ ہو کسی نہ کسی قانون کی پابندی کا لازمی نتیجہ ہو۔ لازم ہے کہ خود اپنی ذات پر بھروسہ کرو۔ غیر تمہیں نہ بنا سکتے ہیں نہ بگاڑ سکتے ہیں۔ تمہاری کامیابی اور ناکامی کی کنجیاں خود تمہاری جیب میں ہیں۔ اگر تم مسرت و انبساط کی تلاش میں ہو، اگر تم فارغ البالی اور خوش اقبالی کا سراغ لگا رہے ہو تو یہ سب کچھ تمہارے دل کے اندر موجود ہے، دل کے دروازے پر دستک دوفوراً تمہاری دستک کا جواب ملے گا۔ الہامی صدابھی یہی ہے کہ ہر آن انسان کی کامیابی اس کی ذات پر ہے۔ ہر انسان حیسی کوشش کرے اس کا ویسا ہی نتیجہ حاصل کرتا ہے۔

اے شریف نوجوانو! جب تم اپنی دھن میں مشغول ہو گم اور خوف کو اپنے پاس نہ آنے دو۔ کسی کو آزار پہنچانے کا خیال دل میں ہرگز نہ لاؤ۔ محبت سے ہر شخص کو یاد کرو عداوت اور حسد کے خوفناک جذبات کو اپنے سے دور رکھو، نیکی سے ہر شخص کے ساتھ پیش آسکتے ہو، بدی سے کسی کے ساتھ نہیں۔ تمہارے نغمہ زندگی کے الفاظ حسب ذیل ہونے چاہئیں۔

”میں اس عالمگیر شعور کا ایک جز ہوں جو روح عالم ہے اس لیے میں زندگی ہوں۔ میں صحت و تندرستی ہوں۔ میں اتحاد و اتفاق ہوں، میں موسیقی ہوں، میں مسرت و انبساط ہوں، میں کامیابی اور خوش نصیبی ہوں، میرا قلب بلند خیالات کا خزانہ ہے اس لیے اغیار کے پست خیالات مجھے کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ میرے دل میں کسی کی طرف سے کدورت نہیں۔ اس لیے میں نہ تو کسی کو آزار پہنچانا چاہتا ہوں اور

نہ کسی سے خاکف ہوں۔ میں ہر شخص کو محبت سے یاد کرتا ہوں۔ میری خواہش اور مرا یقین دونوں زبردست ہیں اس لیے میں کامیاب ہوں۔ میں اپنی خواہش اپنے ارادے اور اپنے خیالات کا نتیجہ ہوں میرے اعمال و افعال، میری خواہش، میرا ارادہ اور میرے خیالات مستقبل کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ترقی کی کوئی حد و انداز نہیں ہے۔ اگر ہے تو یہ میرا قصور ہے۔“

-----

## مشکل الفاظ اور ان کے معانی

| الفاظ       | معانی                              |
|-------------|------------------------------------|
| حاشا و کلا  | خدانہ کرے، خدا کی پناہ             |
| تعصّب       | بے جا حمایت، طرفداری               |
| لاجب        | اُٹل، مضبوط                        |
| عزم راسخ    | پکاً ارادہ                         |
| تُرشی       | کھٹاس، کھٹائی                      |
| دانایاں فرگ | یورپین دانشمند، مغربی مغلکریں      |
| مُزاولت     | روز مرہ مشق، کسی کام کو ہمیشہ کرنا |
| محرِّک      | حرکت دینے والا، اکسانے والا        |
| تَمُونِج    | لہریں اٹھنا                        |
| ودیعت       | سپردگی، داخل کی گئی                |
| نشیب و فراز | اُتار چڑھاؤ                        |

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| جرس       | گھنٹا، گھڑیاں          |
| برقی ٹریم | بجلی سے چلنے والی گاڑی |
| کدورت     | رنجش، دل کا غبار       |
| آزار      | تکلیف، ایزا            |

## مشقی سوالات

### مختصر ترین سوالات:

- ۱۔ مضمون 'خطاب بہ طلباء' کے مصنف کا نام بتائیے۔
- ۲۔ مولانا وحید الدین سلیم کب اور کہاں پیدا ہوئے؟
- ۳۔ اس مضمون میں وحید الدین سلیم نے کس کو مخاطب کیا ہے؟

### مختصر سوالات:

- ۴۔ علمی اخلاق کے ماہرین نے مصیبت کا سامنا کرنے کے لیے طلباء کو کیا ہدایات کی ہیں؟
- ۵۔ وحید الدین سلیم نے خواہش کی کیا تعریف بتائی ہے؟
- ۶۔ مصیبتوں کے متعلق تجربہ کار حکیم کا کیا قول ہے؟

### تفصیلی سوالات:

- ۷۔ مولانا وحید الدین سلیم کے حالاتِ زندگی مختصر تحریر کیجیے اور ان کی نشرنگاری پر رoshni بھی ڈالیے۔
- ۸۔ سلیم کے مضمون، خطاب بہ طلباء کا خلاصہ اپنے الفاظ میں تحریر کیجیے۔

## طز و مزاہ: ایک تعارف

طزرو مزاح کو عموماً ایک صنفِ ادب سمجھنے کی روایت چلی آ رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ طزرو مزاح ادبی صنف نہ ہو کر اسلوب، طرز یا تکنیک کا نام ہے جس کی دیگر شعری و نثری اصناف کی طرح کوئی ہیئت یا ڈھانچا مقرر نہیں ہے۔ طزراور مزاح کو اکثر ایک مرکب لفظ کے طور پر استعمال کرنے کی روایت بھی پرانی ہے۔ جب کہ یہ دونوں لفظ الگ الگ ہیں اور جن کے معنی، مقصد اور طرز بیان میں بھی معمولی سافق ہوتا ہے۔

ظفر کے لغوی معنی ”طعنہ“ کے ہیں۔ لیکن اصطلاحِ ادب میں ظفر کے لیے لامع طعن، تمسخر، بجوا ور تنقیص جیسے الفاظ کا استعمال ہوتا ہے۔ انگریزی میں اسے ’SATIRE‘ اور ہندی میں ’**0**‘ کہا جاتا ہے۔ ظفر کا بنیادی مقصد کسی کی دل آزاری، بنسی اڑانا یا تکلیف پہنچانا ہے کہ اصلاح کرنا ہوتا ہے۔

‘HUMOUR’ مزاح کے لغوی معنی ”خوش طبی“ بتائے گئے ہیں۔ انگریزی میں اس کے لیے ’Lakq‘، لفظ استعمال ہوتا ہے۔ طنز کی طرح مزاح کی بھی مختلف اقسام ہوتی ہیں۔

طنز و مزاح اگرچہ معنی و مفہوم کے لحاظ سے الگ الگ ہیں لیکن مقصدی اور افادی طور پر دونوں لازم و ملزوم ہونے کے سبب چولی دامن کی حیثیت رکھتے ہیں۔ طنز اور مزاح مشترک طور پر ہرzel، ہجو، تفسیک، نوک جھونک، پھیپھی، ضلع جگت، لعن طعن، پیروڈی اور فنکاری وغیرہ کے حوالے سے مل کر اپنا اپنا کام کرتے ہیں۔ واضح ہو کہ لطیفہ سازی، چکلے بازی، چھپھور پن، چھپڑچھاڑ، ٹھٹھوںی، جنسی چیٹارے اور پھکر پن کا شمار طنز و مزاح میں نہیں ہوتا ہے۔ کیون کہ ان میں عریانیت، رکا کرت اور ابتذال کے پہلو شامل ہوتے ہیں۔

اردو میں طنز و مزاح کی روایت بہت قدیم ہے۔ اس کی ابتداء شاعری میں ہوئی۔ طنز و مزاح کا دورِ اوّلین ہجونگاری کی صورت وجود میں آیا۔ مشہور ہجونگار میر جعفر زٹلی کو طنز و مزاح کا پہلا شاعر قرار دیا جاتا ہے۔ زٹلی کو بعض موئخین اور ناقدین نے باغی، خود سرا اور دوسروں کی دل آزاری کرنے والا شاعر قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زٹلی کے یہاں طنز کا پہلو خاکہ اڑانے اور تیکھی ضرب لگانے کا عمل معلوم ہوتا ہے۔

ہجونگاری میں محمد رفیع سودا کا نام بھی اہم ہے۔ سودا کے عہد کے لوگ شہر کے کوتوال کے بجائے سودا کے قلم سے ڈرتے تھے۔ سودا جب کسی پر گزرتے تھے تو ہجوم کہہ کر اسی کی بخشیدہ ادھیڑ دیتے تھے۔ اس سلسلے میں ان کی مشہور تخلیق، "تفصیلِ روزگار" کا حوالہ پیش کیا جاسکتا ہے۔

لکھنؤ میں انشاء، مصحح اور جرأت نے طنز و مزاح کے لیے ہجونگاری اور ریختی گوئی کو ذریعہ اظہار بنایا۔ ان شاعروں میں معاصرانہ چشمکیں ہوا کرتی تھیں جو اکثر معرکہ آرائی کی صورت اختیار کر لیتی تھیں۔ ان شاعر کے علاوہ سعادت یار خاں رنگین، جان صاحب اور ناز نین جیسے شاعروں نے بھی ریختی گوئی کو فروغ دے کر طنز و مزاح نگاری کو مالا مال کیا۔

نقیرا کبر آبادی کی منظومات اور ہجوبیات بھی طنز و مزاح نگاری کا اہم حصہ ہیں۔ انہوں نے انسانی کمزوریوں اور خرابیوں کو طنز کا نشانہ بنایا ہے۔

مرزا غالب اور ان کے معاصرین کا دور صحت مندانہ طنز و مزاح کے لیے مثالی نمونے پیش کرتا ہے۔ غالب کی شاعری اور خطوط میں طنز و مزاح کی چاشنی اپنا منفرد ذاتِ اقتداء دیتی ہے۔ غالب کی گدگدانے والی شوخی و ظرافت اور بذله سنجی کے پیش نظر حاتمی نے انھیں "حیوان طریف" کہا ہے۔

اردو کے طنزیہ و مزاجیہ ادب کو ۱۸۷۱ء میں "اوڈھ پیچ" نامی اخبار کے جاری ہونے سے تقویت ملی۔ اس اخبار کے مدیر سجاد حسین نے اردو کے شاعر اور نشر نگاروں سے اس اخبار کے لیے لکھنے کا مطالبہ کیا

تو پنڈت تر بھون ناتھ بھر، احمد علی شوّق، عبدالغفور شہباز، پنڈت رتن ناتھ سرشار، اور اکبرالہ آبادی جیسے اہل قلم کی طنزیہ و مزاحیہ تحریریں نئی آب و تاب کے ساتھ منظر عام پر آئیں۔ بھر کی تحریف اور پیروڑی تو شوّق کی قہقهہ زار تخلیقات تاریخی اہمیت و حیثیت کی حامل ہیں۔ شہباز نے اپنے وسیع مطالعے کی بنیاد پر مذہب، سیاست اور معاشرے کے بگڑے ہوئے حالات پر بھر پور طنز کیا۔

”لسان العصر“، اکبرالہ آبادی اردو طنز و مزاح کی تاریخ میں سب سے الگ اور انفرادی پہچان اور مقام رکھتے ہیں۔ انہوں نے ہندوستان کے مغرب زدہ لوگوں کو اپنے طنز کا نشانہ بنایا۔ سر سید کے تعلیمی پروگرام پر انکی حملہ آور نظمیں تاریخی اہمیت رکھتی ہیں۔ اس قسم کی نظموں میں ”واعظ اور سید“، ”برق کلیسا“، ”در بارہ دہلی“، ”ایک شکایت“ اور ”لندن میں جا کے کر لیا اک بہت سیمیں سے عقد“، طنز و مزاح کی عمدہ مثالیں ہیں۔ اکبر نے اپنے کلام میں انگریزی الفاظ کا کثرت سے استعمال کیا ہے۔

ظریف لکھنؤی، علامہ شیلی نعمانی، علامہ اقبال اور ظفر علی خاں کی طنزیہ تخلیقات اردو ادب کا ٹوٹ حصہ ہیں۔ جوش ملیح آبادی، راجہ مہدی علی خاں، ضمیر جعفری، مجید لاہوری، سید محمد جعفری، مخدوم جالندھری وغیرہ نے اردو ادب کو طنز و مزاحیہ تحریروں سے گہر بارکیا۔

شاعری سے قطعہ نظر اردو نشر میں بھی طنز و مزاح کی مستحکم روایت تاریخ ادب اردو کے روشن باب کی حیثیت رکھتی ہے۔ ابتداء میں اردو نشر میں جو طنزیہ و مزاحیہ ادب تخلیق ہوا اس میں محض ٹھٹھوٹی اور فقرہ بازی ہوا کرتی تھی۔ اردو میں طنز و مزاح کے ابتدائی نقوش داستانوں میں ملتے ہیں۔ ان داستانوں میں ”فسانہ عجائب“ (رجب علی یگ سرور)، ”طوطا کہانی“، (حیدر بخش حیدری)، ”رانی کیتکی کی کہانی“، (انشا) ”نورتن“، (مہجور)، ”داستان امیر حمزہ“ اور ”بوستان خیال“ وغیرہ کا شمار ہوتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ مرا زاغالب نے اپنے خطوط کے ذریعے اردو کے نثری ادب کو طنز و مزاح کے سلسلے میں معیار و وقار عطا کیا۔ ڈپٹی نذری احمد کے ناولوں میں طنز و مزاح کی جھلکیاں جگہ جگہ ملتی ہیں۔ رتن ناتھ سرشار نے

”فسانہ آزاد“ کے ذریعہ اطافت، حاضر جوابی، پھلتی اور بذلہ سنجی کو فروغ دیا۔ سجاد حسین نے کالم نگاری کے ذریعے طنز و مزاح کی ترقی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ان کے معاصرین میں مچھو بیگ ستم ظریف، احمد علی کسمنڈی اور عمر آزاد، دلاور نگار اور چراغ علی حسرت وغیرہ کی تحریریں ظرافت نگاری میں خاص مقام رکھتی ہیں۔

اردو ادب میں ایک ایسا عبوری دور بھی آیا جب نثر نگاروں نے طنز و مزاح کے ذخیرے میں اضافہ کیا۔ اس عہد کے اہل قلم میں مرزا فرحت اللہ بیگ نے ظرافت نگاری کو معراج کمال عطا کی۔ ان کی تحریر کردہ ”ندیم احمد کی کہانی: کچھ ان کی، کچھ میری زبانی“ اور ”مضامین فرحت“ اس سلسلے کی مضبوط کرٹیاں ہیں۔ مرزا عظیم بیگ چغتاں نے معاشرے کی اصلاح کے لیے ”چمکی“، ”شریر بیوی“، ”کولتاز“ اور ”خانم“، جیسی تحریریں پیش کیں۔ ملا رموزی جنخیں ”گلابی اردو“ کا موجود کہا جاتا ہے، نے طنز و ظرافت کو فطری انداز بخش کر ادب لطیف کو نیا موڑ دیا۔ لپرس بخاری کے مزاجیہ مضامین اپنے عہد کی بے راہ روی پر گھرا طنز کرتے ہیں، اس ذیل میں ”مضامین بپرس“، اپنی مثال آپ ہیں۔

پروفیسر رشید احمد صدیقی نے ”مضامین رشید“، ”آشقتہ بیانی میری“ اور ”طنزیات و مضحکات“ وغیرہ میں مزاح نگاری کے بہترین نمونے پیش کیے ہیں۔ شوکت تھانوی کا افسانہ ”سودیشی ریل“، ان کی شہرت کا وسیلہ بنا۔ ”موچ شننم“، ”بختیسم“، ”طفوان تبسم“، ”کارلوں“، ”جوڑ توڑ“ اور ”سرال“ کے تو سط سے انھوں نے میدان طنز و مزاح میں اپنی حاضری درج کرائی۔ کنھیا لال کپور کا تیز دھار والا طنز سماج اور حالات کے بگڑے ہوئے روپ کی چیر پھاڑ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ان مصنفوں کے علاوہ کرشن چندر، فرحت کا کوروی، غلام عبّاس، قدرت اللہ شہاب، عصمت چغتاں، سعادت حسن منٹو، انتظار حسین، ابن انشا، کرنل محمد خاں، احمد جمال پاشا، مشتاق احمد یوسفی، یوسف ناظم، شفیقہ فرحت، نظیر صدیقی، غلام جیلانی اور مجتبی حسین وغیرہ طنز و مزاح نگاروں نے اردو طنز و مزاح نگاری کی تاریخ کو مضبوطی اور استحکام عطا کیا۔

## پطرس بخاری

پطرس بخاری کا اصل نام سید احمد شاہ بخاری تھا، لیکن وہ پطرس بخاری کے قلمی نام سے ادبی دنیا میں مشہور ہوئے۔ پطرس کی ولادت 1898ء کو مقام پیشاور ہوئی۔ ان کے والد سید اسد اللہ شاہ بخاری نے پطرس کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ صرف کی۔ چنانچہ پطرس نے ابتدائی تعلیم پیشاور میں حاصل کی اور اعلیٰ تعلیم کے لیے گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لیا۔ اس کالج سے آپ نے انگریزی ادب میں ایم۔ اے۔ کا امتحان پاس کیا۔

کالج کی تعلیم سے فارغ ہو کر پطرس مزید تعلیم حاصل کرنے انگلستان گئے۔ وہاں انہوں نے کیمبرج یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور کئی برس تک قیام کیا۔ بقول نور الحسن نقوی پطرس بخاری ”یہاں بھی اپنی ذہانت اور ذوق مطالعہ کے سبب ہم جماعتوں میں سر بلند رہے۔“ انگلستان سے واپسی پر پطرس گورنمنٹ کالج لاہور میں انگریزی ادب کے پروفیسر اور کچھ دنوں پر نسپل مقرر ہوئے۔

1937ء میں پطرس آل انڈیا ریڈیو کے ڈائریکٹر جزل مقرر ہوئے۔ 1955ء میں اقوام متحده (یو۔ این۔ او۔) کے شعبۂ اطلاعات میں جزل سیکریٹری منتخب ہو کر اپنی خدمات انجام دینے لگے۔ پطرس کی انگریزی ادب میں مہارت کے پیش نظر کولمبیا یونیورسٹی نے انہیں انگریزی کے پروفیسر کا عہدہ پیش کیا لیکن صد افسوس کہ 5 دسمبر 1958ء کو حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا اور یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوا۔

پطرس بنیادی طور پر انگریزی کے ادیب تھے لیکن اپنے دوستوں کے اصرار پر انہوں نے اردو میں مزاحیہ افسانے لکھنا شروع کیے۔ پطرس کواردو میں بہ حیثیت مزاح نگار شہرت ملی۔ ان کی مزاح نگاری

پرمغربی مزاح نگاری، خصوصاً انگریزی ادب کی مزاح نگاری کا گہر اثر دیکھنے کو ملتا ہے۔ بعض نقادوں کا کہنا ہے کہ پطرس کے زیادہ تر مضامین انگریزی مضامین کا ترجمہ اور چرب ہیں۔

پطرس نے اگرچہ بہت کم لکھا لیکن جو لکھا عمده لکھا۔ ان کے مضامین کا ایک مختصر مجموعہ مضامین پطرس کے زیر عنوان شائع ہو کر مشہور ہو چکا ہے۔ ان کے مضامین میں لاہور کا جغرافیہ، مرحوم کی یاد میں، ایک وصیت کی تعمیل، مرید پور کا پیر، اور ہاٹل میں پڑھنا، وغیرہ قابل ذکر ہیں۔

مضامین پطرس کے علاوہ، تعلیم خصوصاً اولیٰ طفلي میں، نوع انسان کی کہانی، دیہات میں بوانے اسکا وٹ کا کام، اور مصر کی رقصہ بھی ان کی تصانیف میں شامل ہیں۔

مضمون سویرے جو کل آنکھ میری کھلی، میں پطرس نے ایسے نوجوانوں پر بھر پور طنز کیا ہے جو صرف خیالی منصوبے بناتے ہیں۔ ان کی خواہش اور تمنا تو بہت کچھ کرنے کی ہوتی ہے لیکن وہ اپنی سستی اور کاملی کی وجہ سے اپنے منصوبوں کو عملی جامنہیں پہنانا پاتے۔

مصنف نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ زندگی صرف خواہشوں اور تمناؤں سے عبارت نہیں۔ کامیابی اور اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے حرکت و عمل بے حد ضروری ہے۔ یہ مضمون سادگی و سلاست، طنز و نظرافت، شفقتگی و شاشتگی، شوخی روائی اور بے ساختگی کے سبب پطرس کے کامیاب اور نمائندہ مضامین میں شمار ہوتا ہے۔

پھر سے بخاری

## سویرے جو کل آنکھ میری کھلی

گیدڑ کی موت آتی ہے تو شہر کی طرف بھاگتا ہے، ہماری جو شامت آئی تو ایک دن اپنے پڑو سی  
لالہ کر پاشنکر جی برہم چاری سے برسیلِ تذکرہ کہہ بیٹھے کہ لالہ جی امتحان کے دن قریب آئے جاتے  
ہیں، آپ سحر خیز ہیں، ذرا، میں بھی صبح جگا دیجیے گا۔

وہ حضرت بھی معلوم ہوتا ہے بھوکے بیٹھے تھے، دوسرا دن اٹھتے ہی انہوں نے ہمارے  
دروازے پر کے بازی شروع کر دی۔ کچھ دیر ہم سمجھے کہ خواب ہے، ابھی سے کیا فکر کرنا، جب جائیں گے  
لاحوال پڑھ لیں گے، لیکن گولہ باری لمحہ بے لمحہ تیز ہوتی گئی اور صاحب، جب کمرے کی چوبی دیواریں  
لرز نے لگیں، صراحی پر رکھا ہوا گلاس جل ترنس کی طرح بننے لگا اور دیوار پر لٹکا ہوا کینڈر پنڈولم کی طرح  
ہلنے لگا تو بیداری کا قائل ہونا ہی پڑا۔ مگر اب بھی دروازہ ہے کہ لگا تار کھٹکھٹایا جا رہا ہے۔ میں کیا، میرے  
آبا و اجداد کی روحلیں اور میری قسمت خوابیدہ بھی جاگ اٹھی ہو گی۔ بہتیری آوازیں دیتا ہوں..... اچھا....  
اچھا..... تھینک یو..... جاگ گیا ہوں..... بہت..... اچھا..... نوازش..... آں جناب ہیں  
کہ سنتے ہی نہیں۔ خدا یا کس آفت کا سامنا ہے! یہ سوئے ہوئے کو جگار ہے ہیں یا مردے کو جلا رہے  
ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ بھی تو واجی طور پر ہلکی سی آواز میں ”قُم“، کہہ دیا کرتے ہوں گے۔ زندہ ہو گیا تو  
ہو گیا نہیں تو چھوڑ دیا۔ مردے کے پیچھے لٹھ لے کر تھوڑی، ہی پڑ جاتے تھے؟ تو پس تھوڑی داغتے تھے؟ یہ ہم  
سے کیسے ہو سکتا تھا کہ اٹھ کر دروازے کی چٹکنی کھول دیتے؟ پیشتر اس کے کہ بستر سے باہر نکلیں، دل کو جس  
قدر سمجھانا بجھانا پڑتا ہے، اس کا اندازہ بس اہل ذوق ہی لگاسکتے ہیں۔ آخر کار جب لمپ جلا یا اور ان کو باہر  
سے روشنی نظر آئی تو طوفان تھما۔ اب جو ہم نے کھڑکی اور روشن دان میں سے چاروں طرف دیکھا

اور بزرگوں سے صحیح کا ذبکی جتنی نشانیاں سنی تھیں، ان میں سے ایک بھی نظر نہ آئی، تو فکر سا ہو گیا کہ آج سورج گرہن نہ ہو! سمجھ میں نہ آیا تو پڑوسی کو آواز دی: لالہ جی! ..... لالہ جی! جواب آیا ”ہوں“ میں نے کہا: ”آج کیا بات ہے کہ اندھیرا اندھیرا سا ہے۔“ کہنے لگے: ”تو اور کیا تین، ہی بجے سے سورج نکل آئے۔“

تین بجے کا نام سن کر ہوش اڑ گئے، چونکہ کپڑا پوچھا: ”کیا کہا تم نے؟ تین بجے ہیں؟“ کہنے لگے: ”تین..... تو..... نہیں..... کچھ..... سات... ساڑھے سات منٹ اوپر تین ہیں۔“

میں نے کہا: ”ارے کمخت، خدا کی فوج دار بد تمیز کہیں کے! میں نے تجھ سے یہ کہا تھا کہ صحیح جگاد دینا، یا یہ کہا تھا کہ سرے سے سونے ہی نہ دینا؟ تین بجے جا گنا بھی کوئی شرافت ہے؟ ہمیں تو نے کوئی ریلوے گارڈ سمجھ رکھا ہے؟ تین بجے ہم اٹھ سکا کرتے تو آج دادا جان کے منظور نظر نہ ہوتے؟ تین بجے اٹھ کر ہم زندہ رہ سکتے ہیں؟ امیرزادے ہیں کہ کوئی مذاق ہے؟ لا حول ولا قوة۔“

دل تو چاہتا تھا کہ عدم تشدد کو خیر باد کہہ دوں، مگر پھر خیال آیا کہ بنی نوع انسان کی اصلاح کا ٹھیکانہ کا تو کوئی ہم نے لئے نہیں رکھا ہے، ہمیں اپنے کام سے غرض۔ لمپ بجھایا اور بڑھاتے ہوئے پھر سو گئے اور پھر حسپ معمول نہایت اطمینان کے ساتھ بھلے آدمیوں کی طرح دس بجے اٹھے، بارہ بجے تک منھ ہاتھ دھوایا اور چار بجے چائے پی کر ٹھنڈی سڑک کی سیر کو نکل گئے۔

شام کو واپس ہو شل میں وارد ہوئے، شام کا رومان انگلیز وقت، ہوا بھی نہایت لطیف تھی، طبیعت بھی ذرا مچلی ہوئی تھی، ہم ذرا ترنگ میں گاتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے کہ اتنے میں ایک پڑوسی کی آواز آئی: ”مسٹر!“

ہم اس وقت ذرا چکلی بجانے لگے تھے، بس انگلیاں وہیں پر رک گئیں اور کان آواز کی طرف لگ گئے۔ ارشاد ہوا ”آپ گارہے ہیں؟“ زور ”آپ“ پر۔

میں نے کہا: ”اجی میں کس لاکھ ہوں، لیکن خیر فرمائیے؟“

بولے ”ذراء..... وہ ..... میں ڈسٹریب ہوتا ہوں .....“

بس صاحب موسیقیت کی روح ہم میں فوراً مرگئی، دل نے کہا، ”اونا بکار انسان! دیکھ پڑھنے والے یوں پڑھتے ہیں۔“

صاحب! خدا کے حضور میں گڑ گڑا کر دعا مانگی کہ ”خدا یا ہم بھی اب باقاعدہ مطالعہ شروع کرنے والے ہیں، ہماری مدد کرو اور ہمیں ہمت دے۔“

آنسو پوچھے اور دل کو مضبوط کر کے میز کے سامنے آبیٹھے، دانت پیس لیے، عکھائی کھول دی، آستینیں چڑھالیں، لیکن کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ کریں کیا؟ سامنے سرخ، سبز، زرد سبھی قسم کی کتابوں کا انبار پڑا تھا، اب ان میں سے کون سی پڑھیں؟ فیصلہ یہ ہوا کہ پہلے کتابوں کو ترتیب سے میز پر لگا دیں کہ باقاعدہ مطالعے کی پہلی منزل یہی ہے۔

بڑی تقطیع کی کتابوں کو علاحدہ رکھ دیا، چھوٹی تقطیع کی کتابوں کو سائز کے مطابق الگ کھڑا کر دیا، ایک نوٹ پیپر پر کتاب کے صفحوں کی تعداد کو دونوں کی تعداد پر منقسم کیا، ساڑھے پانچ سو جواب آیا۔ لیکن اضطراب کی کیا مجال جو چہرے پر ظاہر ہونے پائے۔ دل میں کچھ تھوڑا سا پچھتائے کہ صحیح تین بجے کیوں نہ اٹھ بیٹھے، لیکن کم خوابی کے طبی پہلو پر غور کیا تو فوراً اپنے آپ پر ملامت کی۔ آخر کار اس نتیجے پر پہنچ کر تین بجے تو لغوبات ہے، البتہ پانچ چھ سات بجے کے قریب اٹھنا نہایت معقول ہو گا۔ صحت بھی قائم رہے گی اور امتحان کی تیاری بھی باقاعدہ ہو گی، ہم خرما و ہم ثواب۔

یہ تو ہم جانتے ہیں کہ سوریے اٹھنا ہے تو جلدی ہی سونا چاہیے۔ کھانا باہر ہی کھا آئے تھے بسترے میں داخل ہو گئے۔

چلتے چلتے خیال آیا کہ لالہ جی سے جگانے کے لیے کہہ ہی نہ دیں۔ یوں تو ہماری قوتِ ارادی کافی

زبردست ہے، جب چاہیں اٹھ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی کیا حرج ہے، ڈرتے ڈرتے آواز دی: ”اللہ جی!“  
انہوں نے پھر کھینچ مارا: ”لیں!“

ہم اور بھی سہم گئے کہ اللہ جی کچھ ناراض معلوم ہوتے ہیں۔ تلاکے درخواست کی کہ ”اللہ جی! صبح  
آپ کو بڑی تکلیف ہوئی، میں آپ کا بہت ممنون ہوں، کل ذرا مجھے چھبے، یعنی جس وقت چھنگیں.....  
جواب ندارد۔

میں نے پھر کہا: ”جب چھنچ چکیں..... سننا آپ نے؟“  
چھپ۔  
”اللہ جی!“

کڑکتی ہوئی آواز نے جواب دیا: ”سن لیا چھبے جگا دوں گا۔“  
ہم نے کہا: ”ب، ب، اچھا، یہ بات ہے۔“  
”تو بہ، خدا کسی کو محتاج نہ کرے!

اللہ جی آدمی بہت شریف ہیں، اپنے وعدے کے مطابق دوسرے دن صبح چھ بجے انہوں نے  
دروازے پر گھونسوں کی بارش شروع کر دی۔ ان کا جگانا تو محض ایک سہارا تھا، ہم خود ہی انتظار میں تھے کہ  
یہ خواب ختم ہو لے تو ابھی جا گتے ہیں۔ وہ نہ جگاتے تو میں خود ہی ایک دو منٹ کے بعد آنکھیں کھول  
دیتا۔ بہر صورت جیسا کہ میرا فرض تھا، میں نے ان کا شکر یہ ادا کیا اور انہوں نے اس صورت میں قبول  
کیا کہ گولہ باری بند کر دی۔

اس کے بعد واقعات ذرا بحث طلب سے ہیں اور ان کے متعلق روایات میں ذرا اختلاف ہے۔  
بہر حال اس کا تو مجھے یقین ہے اور میں قسم بھی کھا سکتا ہوں کہ آنکھیں میں نے کھول دی تھیں، پھر یہ بھی یاد  
ہے کہ ایک نیک اور سچ مسلمان کی طرح کلمہ شہادت بھی پڑھا اور پھر یہ بھی یاد ہے کہ اٹھنے سے پہلے

دیباچے کے طور پر ایک آدھ کروٹ بھی لی اور پھر کا نہیں پتا۔ شاید لحاف اور پر سے اتار دیا، یا شاید سر کو اس میں لپیٹ لیا، شاید کھانسا، کہ خدا جانے خراٹا لیا۔ یقینی امر ہے کہ دس بجے ہم بالکل جاگ رہے تھے۔ لیکن لالہ جی کے جگانے کے بعد اور دس بجے سے پیشتر خدا جانے ہم پڑھ رہے تھے یا شاید سور ہے ہوں۔ بہر صورت یہ نفیات کا مسئلہ ہے، جس میں نہ آپ ماہر نہ ہم۔ کیا پتا لالہ جی نے جگایا ہی دس بجے ہو؟ اس دن چھ دیر میں بجے ہوں۔ خدا کے کاموں میں ہم آپ کیا داخل دے سکتے ہیں! لیکن ہمارے دل میں دن بھر یہ شبہ رہا کہ قصور کچھ اپنا ہی معلوم ہوتا ہے۔ جناب! شرافت ملاحظہ ہو، محض اس شبہ کی بنا پر صبح سے شام تک ضمیر کی ملامت سنتا رہا اور اپنے آپ کو مستار رہا، مگر لالہ جی سے نہ کہا تین کیں، ان کا شکر یہ ادا کیا اور اس خیال سے کہ ان کی دل شکنی نہ ہو، حد درجہ کی طہانیت ظاہر کی کہ آپ کی نوازش سے میں نے صبح کا سہانا اور روح افزاؤقت بہت اچھی طرح صرف کیا ورنہ آج بھی اور دنوں کی طرف دس بجے اٹھتا۔ لالہ جی! صبح کے وقت دماغ کیا صاف ہوتا ہے، جو پڑھو خدا کی قسم فوراً یاد ہو جاتا ہے۔ بھی خدا نے صبح بھی کیا عجب چیز پیدا کی ہے، یعنی اگر صبح کے بجائے شام ہو جایا کرتی تو دن کیا بری طرح کٹا کرتا!

لالہ جی نے ہماری اس جادو بیانی کی دادیوں دی کہ آپ پوچھنے لگے: ”تو میں آپ کو چھ بجے جگا دیا کروں نا؟“

میں نے کہا: ”ہاں ہاں، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ بے شک۔“

شام کے وقت آنے والی صبح کے مطلعے کے لیے دو کتابیں چھانٹ کر میز پر علیحدہ رکھ دیں، کرسی کو چار پائی کے نزدیک سر کالیا، اور کوٹ اور گلو بند کو کرسی کی پشت پر آویزاں کر دیا، کنٹوپ اور دستا نے پاس ہی رکھ لیئے دیا سلانی کو تکیے کے نیچے ٹوٹا، تین دفعہ آیتہ الکرسی پڑھی اور دل میں نہایت ہی نیک ارادہ کر کے سو گئے۔

صبح لالہ جی کی پہلی دستک کے ساتھ ہی آنکھ کھل گئی، نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ لحاف کی ایک

کھڑکی میں سے ان کو ”گلڈ مارنگ“ کہا اور نہایت بیدارانہ لبھے میں کھانا۔ لالہ جی مطمئن ہو کر واپس چلے گئے۔

ہم نے اپنی ہست اور اولوالعزمی کو بہت سراہا کہ آج ہم فوراً ہی جاگ اٹھنے دل سے کہا کہ ”دل بھیا! صح اٹھنا تو محض ذرا سی بات ہے، ہم یوں ہی اس سے ڈرا کرتے تھے۔“ دل نے کہا: ”اوپنیں تو کیا تمہارے یوں ہی اوسان خطا ہو جایا کرتے ہیں۔“ ہم نے کہا: ”صح کہتے ہو یا! یعنی اگر ہم سستی اور کسالت کو خود اپنے قریب نہ آنے دیں تو ان کی مجال کیا ہے کہ ہماری باقاعدگی میں خلل انداز ہوں۔ اس وقت لاہور میں ہزاروں ایسے کاہل لوگ ہوں گے جو دنیا اور ما فیہا سے بے خبر نہیں کے مزے اڑاتے ہوں گے اور ایک ہم ہیں کہ ادائے فرض کی خاطر نہایت شفاقتہ طبعی اور غنچہ وہنی سے جاگ رہے ہیں۔ بھی کیا برخوردار اور سعادت آثار واقع ہوئے ہیں۔“

ناک کو سردی سی محسوس ہونے لگی تو اسے ذرا یوں ہی سالحاف کی اوٹ میں کر لیا اور پھر سوچنے لگے..... ”خوب تو ہم آج کیا وقت پر جا گے ہیں، بس ذرا اس کی عادت ہو جائے تو باقاعدہ قرآن مجید کی تلاوت اور فجر کی نماز بھی شروع کر دیں گے۔ آخر مذہب سب سے مقدم ہے، ہم بھی کیا روز بروز الحاد کی طرف مائل ہوتے جاتے ہیں۔ نہ خدا کا ڈر نہ رسول کا خوف۔ سمجھتے ہیں کہ بس اپنی محنت سے امتحان پاس کر لیں گے۔ اگر بے چارا یہی کہتے کہتے مر گیا، مگر ہمارے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ (لحاف کانوں پر سرک آیا.....) تو گویا آج ہم اور لوگوں سے پہلے جا گے ہیں..... بہت پہلے..... کیا بات ہے؟ خداوندان کا لج بھی کس قدر سست ہیں! ہر ایک مستعد انسان کو چھ بجے تک قطعی جاگ اٹھنا چاہتے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ کانج سات بجے کیوں نہ شروع ہوا کرے..... (لحاف سر پر) ..... بات یہ ہے کہ تہذیبِ جدید ہماری تمام اعلیٰ قدروں کی نتھ کرنی کر رہی ہے، عیش پسندی روز برز بڑھتی جاتی ہے..... (آنکھیں بند) ..... تو ابھی چھ بجے ہیں، گویا تین گھنٹے متواتر مطالعہ کیا جا سکتا ہے، سوال صرف یہ ہے کہ پہلے

کون سی کتاب پڑھیں، شیکسپیر یا ورڈ زور تھے؟ ”میں جانوں شیکسپیر بہتر ہو گا، اس کی عظیم الشان تصانیف میں خدا کی عظمت کے آثار دکھائی دیتے ہیں اور صحیح کے وقت اللہ میاں کی یاد سے بہتر کیا چیز ہو سکتی ہے!“ پھر خیال آیا کہ دن کو جذبات کے محشرستان سے شروع کرنا ٹھیک فلسفہ نہیں۔ ورڈ زور تھے پڑھیں۔ اس کے اوراق میں فطرت کو سکون و اطمینان میسر ہو گا اور دل و دماغ نیچر کی خاموش دل آؤ بیزوں سے بلکہ ہلکے لطف اندوں ہوں گے..... لیکن شیکسپیر ..... نہیں ورڈ زور تھے ہی ٹھیک رہے گا..... مگر شیکسپیر ہیملٹ ..... لیکن ورڈ زور تھے ..... لیدی میکبٹھ ..... دیوانگی ..... سبزہ زار ..... باد بھاری ..... صید ہوں ..... کشمیر ..... میں آفت کا پرکالہ ہوں .....“

یہ معما اب فلسفہ ہی سے تعلق رکھتا ہے کہ پھر جو ہم نے لحاف سے باہر نکلا اور ورڈ زور تھے پڑھنے کا ارادہ کیا تو وہی دس نج رہے تھے، اس میں نہ معلوم کیا بھید ہے۔  
کانج ہال میں لالہ جی ملے کہنے لگے: ”مسٹر! صحیح میں نے آپ کو آواز دی تھی آپ نے کوئی جواب نہ دیا؟“

میں نے زور کا قہقہہ لگا کر کہا: ”اوہ لالہ جی! یاد نہیں میں نے آپ کو گلدار نگ کہا تھا؟ میں تو پہلے ہی سے جاگ رہا تھا۔“

بولے: ”وہ تو ٹھیک ہے، لیکن بعد میں..... اس کے بعد..... کوئی سات بجے کے قریب میں نے آپ سے تاریخ پوچھی تھی، آپ بولے ہی نہیں۔“

ہم نے نہایت تعجب کی نظر وہ سے ان کو دیکھا، گویا وہ پاگل ہو گئے ہیں اور پھر متین چہرہ بنا کر ماتھے پر تیوری چڑھائی اور غور و فکر میں مصروف ہو گئے۔ ایک آدھ منٹ تک ہم اس تعقی میں رہے۔ پھر یک ایک مجوہ بانہ انداز سے مسکرا کر کہا: ”ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔“ میں اس وقت..... اے.... نماز پڑھ رہا تھا۔ ”لالہ جی مرعوب سے ہو کر چل دیے اور ہم اپنے زہدواں تقہ کی مسکینی میں سرینپے ڈالے کمرے کی

طرف چلے آئے۔

اب یہ ہمارا روز مرہ کا معمول ہو گیا۔ جا گنا نمبر ایک چھے بجے۔ جا گنا نمبر دو دس بجے۔ اس دوران میں لا لہ جی آواز دیں تو نماز۔

جب دل مرحوم ایک جہاں آرزو تھا تو جانے کی تمنا کیا کرتے تھے کہ ہمارا فرق ناز محمد باش کم خواب ہوا اور سورج کی پہلی کرنیں ہمارے سیاہ پُر پیچ بالوں پر پڑ رہی ہوں۔ کمرے میں پھول کی بوئے سحری روح افزاں کر رہی ہو۔ نازک اور حسین ہاتھا انگلیوں سے بربط کے تاروں کو ہلکے ہلکے چھپڑ رہے ہوں۔ اور عشق میں ڈوبی ہوئی سریلی اور نازک آواز مسکراتی گارہی ہو۔ ”تم جا گموہن پیارے۔“ خواب کی سنبھری دھندا آہستہ آہستہ موسیقی کی لہروں میں تخلیل ہو جائے اور بیداری ایک خوشنگوار طسم کی طرح تاریکی کے باریک نقاب کو خاموشی سے پارہ پارہ کر دے۔ چہرہ کسی کی نگاہ اشتیاق کی گرمی محسوس کر رہا ہو۔ آنکھیں مسحور ہو کر کھلیں اور چار ہو جائیں۔ دل آؤز تبسم کو اور بھی درخشنده کر دے اور ”سانوری صورت تو ری من کو بھائی“ کے ساتھ ہی شرم و حجاب میں ڈوب جائے۔

نصیب یہ ہے کہ پہلے مسٹر مسٹر کی آواز اور دروازے کی دنادن سامنے نوازی کرتی ہے اور پھر چار گھنٹے بعد کانج کا گھٹریال دماغ کے ریشے میں دس بجانا شروع کر دیتا ہے اور اس چار گھنٹے کے عرصہ میں دیکھوں کے الٹ جانے، دروازوں کے بند ہونے، کتابوں کے جھاڑنے، کرسیوں کے گھسٹنے، کلیاں اور غرغرے کرنے، کھنکھارنے اور کھانسے کی آوازیں تو گویاں البدیہہ ٹھہریاں ہیں۔ اندازہ کر لیجیے کہ ان سازوں میں سرتال کی کس قدر گنجائش ہے۔

موت مجھ کو دکھائی دیتی ہے      جب طبیعت کو دیکھتا ہوں میں

## مشکل الفاظ اور ان کے معانی

| الفاظ                   | معانی  |
|-------------------------|--|
| شعبة اطلاعات            | اطلاعات کا مکملہ، انفارمیشن کا ڈپارٹمنٹ                            |
| سر بلند                 | اعلیٰ مرتبہ، سرفراز، ممتاز   |
| اصرار                   | ضد تاکید   |
| منصوبے بنانا یا باندھنا | محاورہ، ارادہ کرنا، ٹھاننا، کسی بات کو دل میں پختہ کرنا            |
| شامت آنا                | برے دن آنا، مصیبت آنا  |
| بُرسپیل                 | بے طور   |
| تذکرہ                   | ذکر، چرچ، یادگاری، بیان  |
| لفظوں کا بھوکا ہونا     | کہتے ہی فوراً کام کرنا   |
| بیداری                  | کے سے مارنا، گھونسamarنا، دگ جڑنا                                  |
| قابل                    | ہوشیاری، جاگتے ہوئے  |
| آباء و اجداد            | غلطی تسلیم کرنا، کسی کو ماہر فن مانا                               |
| قسمت خوابیدہ            | باپ دادا، مورث   |
| نوازش                   | سوئی ہوئی تقدیر  |
| آنجناب                  | کرم، مہربانی، لطف، عنایت   |
| آنجناب                  | جناب والا، اعلیٰ قدر، مخاطب کو بجائے آپ کے تغییماً آنجناب کہتے ہیں |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| آفت کا سامنا کرنا (محاورہ) | مصیبت آنا، قہر نازل ہونا، صدمہ پہنچنا            |
| اہل ذوق                    | ذوق و شوق رکھنے والے لوگ                         |
| ہوش گم ہونا (محاورہ)       | ہوش اڑنا   |
| منظورِ نظر                 | عزیز، پیارا، محبوب، وہ شخص جس پر کسی کی عنايت ہو |
| عدم تشدّد                  | بے تو جہی، بے پرواہی، اہنسا                      |
| نوع انسان                  | بشر، انسان کی اولاد                              |
| اصلاح                      | صحت، درستی، نظر ثانی، تصحیح                      |
| حسبِ معمول                 | دستور کے مطابق، جعمل روزانہ ہو                   |
| جوشِ شباب                  | جوانی کا جوش                                     |
| ارمانِ الگیز               | حرمت مند، آرزوؤں اور حسرتوں سے پر                |
| نہایت لطیف                 | بے انہتا پاک صاف                                 |
| موسیقیت                    | جس میں لے اور سنگیت شامل ہو                      |
| آستین چڑھانا (محاورہ)      | کام کے لیے مستعد ہونا، لڑنے کو تیار ہونا         |
| نابکار                     | نکما، نالائق، بے کار                             |
| مطالعہ                     | غور، توجہ اور دھیان سے پڑھنا                     |
| سرخ                        | لال  |
| سبز                        | ہرا  |
| زرد                        | پیلا   |
| تقطیع                      | کتاب کاسائز                                      |

|  |                         |
|--|-------------------------|
| بے قراری، بے چینی، بے تابی   | اضطراب                  |
| کم سونا، نیندناہ آنے کا مرض  | کخوابی                  |
| حکمت اور علاج کی رو سے   | طبی پہلو                |
| ڈانٹ ڈپٹ، جھٹر کی، دھٹکار  | لامامت                  |
| مناسب، واجب، بجا، درست   | معقول                   |
| ہم خرماء، ہم ثواب (کہاوت اور مشل) وہ کام جس میں لذت بھی ہوا اور جو کارخیز بھی ہو، وہ کام جس میں دو ہر فائدہ ہو |                         |
| ارادے کی پچنگی، ارادے کا پا ہونا گزارش   | قوتِ ارادی              |
| جحت، دلیل، سوال و جواب   | بحث طلب                 |
| سکھم جانا (محاورہ)   | ڈرجانا، دم بخود ہو جانا |
| گولہ باری کرنا (محاورہ)  | توپ کے گولے پھینکنا     |
| نفسِ انسانی سے متعلق بات   | نفسیات                  |
| معاملے کی پیچیدگی، سوال، دینی بات  | مسئلہ                   |
| شک، گمان، وہم  | شبہہ                    |
| دل، قلب  | ضمیر                    |
| طمینان، تسلی   | طمائنیت                 |
| جس کی بات، تقریر یا کلام میں تاثیر ہو  | جادو بیانی              |
| ہنده پیشانی کے ساتھ  | خندہ پیشانی             |
| بے فکر، آسودہ، اطمینان پانے والا   | مطمئن                   |

|                    |  |
|--------------------|--|
| اولوالعزمی         | پکارادہ، حوصلہ مندی، بلند ہمتی           |
| اوسان خطا ہونا     | حوالہ جانہ رہنا، حواس جاتے رہنا          |
| کسالت              | ستی، کاہلی، کام چوری                     |
| خلل انداز          | خلل ڈالنے والا، بیجامد اخلت کرنے والا    |
| مزے اڑانا (محاورہ) | لطف حاصل کرنا، عیش اڑانا                 |
| دنیا و مافیہا      | دنیا اور جو کچھ اس میں ہے                |
| شگفتہ طبعی         | خوش مزاج، نہس مکھ                        |
| برخوردار           | اقبال مند، صاحب نصیب، بیٹا، فرزند        |
| سعادت امار         | نیک بخت، فرماں بردار، خدمت گزار          |
| مقدم               | اعلیٰ، اونچا، معزز، برتر                 |
| روز بروز           | آئے دن، ہر دن اپے در پے                  |
| الحاد              | سیدھے راستے سے کترا جانا، حق سے پھر جانا |
| مستعد              | آمادہ، تیار، موجود، کمر بستہ             |
| قطعی               | واقعی، یقینی، کامل                       |
| عظمیم الشان        | بڑی شان و شوکت والا، بہت بڑا             |
| تصانیف             | تصنیف کی جمع، لکھی ہوئی کتابیں           |
| لطف انداز          | جس میں لذت یا مزہ ہو                     |
| معمہ               | مخفی، پوشیدہ، مهم، پہلی                  |
| ما بعد الطیعت      | الہیات، فوق الفطرت                       |

|  |               |
|--|---------------|
| زور سے ہنسنا، ٹھٹھا مار کر ہنسنا           | تھقہہ لگانا   |
| خوب سوچ سمجھ کر توجہ اور دھیان کے ساتھ     | غور و فکر     |
| مشغول، کام میں لگا ہوا                     | مصرف          |
| غور کرنا، گھر ای، باریک بینی               | تعمق          |
| اچانک، ناگہاں، دفعۃ                        | بیکا یک       |
| رعاب میں آیا ہوا، ڈرا ہوا                  | مرعوب         |
| پرہیز گاری یا پارسائی، خدا کا خوف          | زہدو اتقا     |
| رواج، دستور، قاعدہ، وہ بات جو روزمرہ کی ہو | معمول         |
| خواہش مندی، چاہت اور تمباکی دنیا           | جہاں آرزو     |
| صح صادق نمودار ہونے کا وقت                 | بوئے سحری     |
| کھل جانا، ہضم ہو جانا                      | تحلیل         |
| خوش ذائقہ، دل پسند                         | خوش گوار      |
| جادو، سحر                                  | طسم           |
| شوq، آرزو یا تمباک بھری نگاہ               | نگاہ اشتیاق   |
| دل کو بھانے والی مسکراہٹ                   | دل آؤزیں تبسم |
| چمکتا ہوا، تاباں، نورانی                   | درخشنده       |
| اچھی آواز میں سنانا، خوش گلو               | سامعہ نوازی   |

## مشقی سوالات

**مختصرین ترین سوالات:**

- ۱۔ سبق ”سویرے جو کل آنکھ میری کھلی“ کے مصنف کے پڑوئی کیا نام تھا؟
- ۲۔ مصنف نے اپنے پڑوئی لالہ جی سے بر سبیلِ تذکرہ کیا کہا؟
- ۳۔ پطرس کے مضامین کا مجموعہ کس عنوان سے شائع ہوا؟

**مختصر سوالات:**

- ۴۔ پطرس کی تاریخ ولادت اور وفات تحریر کیجیے۔
- ۵۔ پطرس کے دو مشہور مضامین کے عنوانات لکھئے۔
- ۶۔ سبق ”سویرے جو کل آنکھ میری کھلی“ میں مصنف نے کن کن انگریزی شاعروں اور ادیبوں کا ذکر کیا ہے؟

**تفصیلی سوالات:**

- ۷۔ سبق ”سویرے جو کل آنکھ میری کھلی“ میں استعمال ہونے والے مخاروں کا مطلب لکھتے ہوئے انہیں اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔
- ۸۔ پطرس بخاری کی سوانح عمری لکھتے ہوئے ان کی ادبی خدمات پر رoshni ڈالیے؟

## قواعد : علم بدع وبيان

کسی بھی زبان کو صحیح طریقے سے پڑھنے لکھنے اور سمجھنے کے لئے جو اصول بنائے گئے ہیں اسے قواعد کہتے ہیں۔ ان اصولوں کے ذریعہ صحیح زبان کا بولنا اور لکھنا آ جاتا ہے۔

قواعد کے حصے: عام طور پر قواعد کو تین حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

(۱) حروف: اس حصہ میں حروف سے بحث ہوتی ہے۔

(۲) صرف: اس کے ذریعہ لفظ کی حقیقت اور اس کی مختلف شکلیں معلوم ہوتی ہیں اس کے جانے سے الفاظ کا صحیح بولنا آ جاتا ہے۔

(۳) نحو: اس سے الفاظ کی حقیقت اور جملوں میں ان کی ترتیب اور موقع محل کے لحاظ سے ان کے مفہوم کی معلومات ہوتی ہے اس کے ذریعہ الفاظ کا صحیح استعمال اور جملوں میں ان کی درست بندش کا سلیقہ آ جاتا ہے۔ اسی طرح کلام کی خوبیوں کے علم کو علم بدع اور علم بیان کہتے ہیں۔ جس کی مثالیں مندرجہ ذیل ہیں:-

(۱) تشبیہ: اس صنعت کو کہتے ہیں جہاں ایک یا کئی چیزوں کو دوسرا یا دوسرا چیزوں سے کسی بات یا خوبی کی وجہ سے مثال دے کر مقابلہ کیا جائے۔ جیسے چاند سا چہرہ۔ یہاں چہرہ کا مقابلہ چاند سے کیا گیا ہے۔ اس کے پانچ اجزاء ہوتے ہیں۔

(i) مشبہ: وہ شخص یا چیز جس کو تشبیہ دی جائے

(ii) مشبہ بہ: وہ شخص یا چیز جس سے تشبیہ دی جائے۔

(iii) حرف تشبیہ: وہ حرف یا حروف جو تشبیہ ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیے گئے ہوں۔ جیسے: سا،

جیسا، مانند، نظیر، مثال وغیرہ۔

(iv) وجہ شبہ: وہ صفت جس میں تشبیہ دی گئی ہو۔ جیسے حامد شیر کے مثل ہے۔ اس میں حامد مشبہ ہے،

شیر مشبہ بہے، مثل حرف تشبیہ ہے، اور بہادری وجہ شبہ ہے۔

میر تقی میر کے اس شعر میں دیکھئے لئے خوبصورت تشبیہ ہے۔

ناز کی اُس کے لب کی کیا کہئے

پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے

اس شعر میں محبوب کے لب کو گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دی ہے۔ یعنی ”لب“، ”شبہ“ اور ”گلاب کی

پنکھڑی“، ”شبہ“ بہے۔ تشبیہ کے لئے لازم ہے کہ اس میں مشبہ اور مشبہ پہ ہوں۔

(۲) تلمیح: جہاں کسی آیت قرآنی یا حدیث یا مسئلہ یا تصور کا یاقصے کی طرف اشارہ ہو، جس کے

بغیر بات پوری طرح سمجھ میں نہ آئے۔ اس کو تلمیح کہتے ہیں۔ مثلاً۔

واقعات طور سے ملتا ہے ہم کو یہ پتہ

اس کا جلوہ عام بھی ہے اس کا جلوہ خاص بھی

یہاں کوہ طور کا حوالہ ہے۔ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کی تحلیل دیکھی تھی۔

(۳) استعارہ: اس مجاز کو کہتے ہیں جس کے استعمال کرتے وقت حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا

تعلق ہو۔ مثلاً: بہادر کے لیے شیر کا لفظ استعمال کریں تو یہ استعارہ ہو گا۔

استعارہ میں ارکانِ تشبیہ کے نام:-

(i) مشبہ کی ذات کو مستعار منہ کہتے ہیں۔

(ii) جو لفظ اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے وہ مستعار کہلاتا ہے۔

(iii) مشبہ کو مستعار لہ، کہتے ہیں۔

(iv) وجہ شبہ جامع کھلاتی ہے، جیسے شیر کا لفظ مرد بہادر کے لیے استعمال کریں۔ تو مرد بہادر کی ذات مستعار لہ، لفظ بہادر مستعار، شیر مستعار منہ اور بہادری وجہ جامع ہوگی۔  
اقبال کی نظم ”جنو“ میں استعارہ کا استعمال دیکھیے۔

چھوٹے سے چاند میں ہے ظلمت بھی روشنی بھی  
نکلا کبھی گھن سے آیا کبھی گھن میں  
یہاں جنون کو بطور استعارہ چاند کہا ہے۔

استعارہ کی قسمیں بلحاظ مشبہ اور مشبہ بہ کے حذف و ذکر کے دو ہیں

(i) استعارہ بالتصریح: وہ معمولی استعارہ ہے جس میں (مشبہ بہ) مستعار منہ کا ذکر کیا گیا ہو اور (مشبہ) مستعار لہ، کا ذکر نہ ہو۔ جیسے

مصرع: ربط رہنے لگا اس شمع کو پروانوں سے

اس مثال میں صرف شمع اور پروانوں کا ذکر ہے مشبہ مستعار لہ، عاشق و معشوق کا کوئی ذکر نہیں۔

(ii) استعارہ بالکنایہ: وہ استعارہ ہے جس میں (مشبہ بہ) مستعار منہ کا ذکر نہ ہو۔ لیکن ایسی شکل میں یہ ضروری ہے کہ مشبہ بہ کے مناسبات و لوازمات ضرور بیان کیے جائیں مثلاً

مصرع: نہیں ممکن کہ ملک فکر لکھے شعر سب اپھے

یہاں فکر کو نہیں سے تشبیہ دی ہے (اور مشبہ بہ) مستعار منہ کا یعنی جوشی کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔ لیکن

ملک جوشی کے لیے ضروری ہے اور مناسب ہے مذکور ہے۔

(4) ایہام (توريہ): کلام میں ایسے الفاظ کا لانا جس کے دو معنی ہوں۔ ایک قریب کے، دوسرے

دور کے۔ مگر کسی خاص وجہ سے دور کے معنی مراد لینے کو ایہاں پایا تو ریکھتے ہیں۔ مثلاً۔

بستے ہیں ترے سائے میں سب شیخ و بہمن

آباد تجھی سے تو ہے گھر دیر و حرم کا

یہاں سایہ کے دو معنی ہیں (۱) قریب کے یعنی یہی سایہ جو دھوپ کی ضد ہے۔ (۲) دور کے معنی ہیں

حمایت یا پناہ اور یہاں یہی دور کے معنی (حمایت یا پناہ) مراد ہیں۔

(5) **حسنِ تعلیل:** وہ صنعت ہے جس میں کسی بات کا اصلی سبب تو کچھ اور ہو مگر شاعرانہ طور پر کچھ اور

سبب بیان کیا گیا ہو۔ مثلاً۔

ہو رہا ہے ہائے میرا ماتم تشنہ لبی

رو رہا ہے خود بخود شیشے سے مل کر جام بھی

چونکہ شراب بول سے گلاس میں ڈالی جاتی ہے مگر یہاں شاعرانہ طور پر شیشے سے جام میں شراب

لوٹنے کا ماتم سے شبیہ دی ہے اور رونے سے مراد لی ہے۔

(6) **مراوعۃ الانظیر:** کلام میں ایسے دو الفاظ کا لانا جو تضاد یا ضد کے علاوہ کوئی اور بھی مناسبت رکھتے

ہوں۔ جیسے دریا، موج، طوفان۔ مثلاً۔

بادہ کیا، خم کیا، سبو کیا، جام کیا، پیانہ کیا

کر گیا نظریں ملا کر کوئی مستانہ مجھے

یہاں بادہ، خم، سبو، جام، اور پیانہ ان سب میں ایک نسبت تو یہی ہے کہ تمام شراب کے کام میں

آتے ہیں اور دوسرے معنی کی وجہ سے ان میں تضاد بھی پایا جاتا ہے۔ مگر ان سب کے یکجا تی استعمال کی وجہ

سے معنی میں فرق نہیں آتا۔

نظم حصہ

ڈاکٹر شاہد الحق چشتی

## غزل: ایک تعارف

غزل اردو شاعری کی سب سے مشہور اور ہر دل عزیز صنفِ سخن ہے۔ اردو کے تقریباً ہر شاعر نے اس صنفِ سخن میں اپنی قابلیت کے جو ہر دکھائے ہیں۔ اردو شاعری کے سرمایہ میں پیشتر حصہ غزل کا ہے۔ غزل عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کی پیدائش عربی قصیدہ سے ہوئی۔ قدیم عرب قصیدہ گوئی کرتے ہوئے قصیدہ کا آغاز تشیب سے کرتے تھے جس میں غزل کی پہنیت میں شعر قلم بند کیے جاتے تھے۔ اردو میں یہ صنف فارسی کے اثر سے آئی اور فارسی نے اسے عربی سے مستعار لیا۔

غزل کے لغوی معنی 'عورتوں سے باتیں کرنا' یا 'عورتوں کے حسن جمال کی تعریف کرنا' ہے۔ لیکن اردو غزل کبھی بھی اپنے اس محدود معنی میں قید نہیں رہی۔ اردو شاعرانے اس صنف میں عورتوں کے حسن و جمال اور ان سے حسن و عشق کی باتوں کے ساتھ ہی دیگر موضوعات و خیالات پر بھی اپنے قلم کی جولانیاں بکھیری ہیں۔ شاعرے اردو نے غزل میں مختلف کیفیات و جذبات مثلاً سیاسی، سماجی، معاشرتی مسائل کے ساتھ ہی مذہب، اخلاق، فلسفہ و تصوف، پند و نصائح کے نکات اور قدرتی مناظر و میدان جنگ کے واقعات تک بیان کیے ہیں۔ مجموعی طور پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس صنف میں شاعرانے ہر موضوع اور ہر میدان پر اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔

ساخت یا پہنیت کے اعتبار سے غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں۔ جس کے دونوں مصروعوں میں ردیف اور قافیہ پایا جاتا ہے۔ (غزل کے لیے قافیہ لازمی ہے۔) کئی شاعرانے کچھ غزلیں بغیر ردیف کے بھی کہی ہیں۔ ایسی غزلیات غیر مردّ ف کہلاتی ہیں۔ مطلع کے بعد بھی اگر شاعر دیگر شعر/ اشعار کے دونوں مصروعوں میں ردیف و قافیہ کا استعمال کرتا ہے تو ایسے شعر/ اشعار حسن مطلع کہلاتے ہیں۔ غزل کے بقیہ

اشعار جن کے محض دوسرے مصروعوں میں ردیف و قافیہ ہو وہ بیت، یا فرد کہلاتے ہیں۔

غزل کا ہر شعر ایک مکمل اکائی ہوتا ہے۔ یعنی ہر شعر میں ایک مکمل بات یا خیال ہوتا ہے۔ معنوی اعتبار سے اس کا دوسرے شعر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ لیکن کبھی کبھی شاعر کوئی مضمون یا خیال ایک شعر میں مکمل بیان نہیں کر سکتا ہے تو وہ اپنی بات مکمل کرنے کے لیے دوسرے شعر کا سہارا لیتا ہے۔ لہذا ایسے اشعار قطعہ بند، شعر کہلاتے ہیں۔ غزل کا آخری شعر مقطع کہلاتا ہے۔ جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ معنوی اعتبار سے غزل کے سب سے اچھے شعر کو بیت الغزل، کہتے ہیں۔ لیکن اس کا انتخاب غزل کہنے یا سننے والے پر منحصر ہوتا ہے۔ غزل میں اشعار کی کوئی قید نہیں۔ ایک مکمل غزل میں کم سے کم پانچ اشعار ہوتے ہیں۔ اس سے کم پروہ غزل نامکمل کہلاتی ہے۔ عموماً غزل میں پانچ، سات، نو، گیارہ، تیرہ، پندرہ، سترہ، اٹیس اور اکیس اشعار تک ہوتے ہیں۔ اس سے زیادہ اشعار پرمی بھی شعر انے کئی غزلیں کہی ہیں۔ غزل کی سب سے بڑی خوبی اس کا ایجاد و اختصار ہے۔ یعنی کم الفاظ میں شاعر بہت کچھ بیان کر دیتا ہے۔ اور یہی امر غزل کو مقبولیت کا سب سے بڑا سبب ہے۔

اردو میں غزل گوئی کی ابتداء حضرت امیر خسرو سے ہوتی ہے۔ دکنی ہندوستان میں بھی قطب شاہ، محمد قلی قطب شاہ، عبداللہ قطب شاہ، ملا وجہی، غواسی، نصرتی وغیرہ نے غزلیں کہی تھیں۔ لیکن یہ دور مثنوی کا دور تھا۔ پھر بھی اس دور میں صنفِ غزل کے آثار نمایاں طور پر نظر آتے ہیں۔ اس دور کے غزل کے سب سے بڑے شاعر محمد قلی قطب شاہ تسلیم کیے جاتے ہیں۔ ان کے بعد اردو غزل کو باقاعدہ ایک مستند اور عوام میں قابل قبول صنف کی حیثیت عطا کروانے میں ولی دکنی کا کردار اہم ہے۔ ولی نے شمالی ہند (دہلی) آکر اردو غزل کو نیا لہجہ اور آہنگ عطا کیا۔

اٹھار ہوئی صدی کے آغاز میں اردو غزل کا عروج شروع ہوا۔ اس دور میں اردو کے تین بامکمال شاعر پیدا ہوئے۔ مرزاج محمد رفیع سودا (۱۷۸۱-۱۷۱۳ء)، میر تقی میر (۱۸۰۲-۱۷۲۲ء) اور خواجہ میر درد

(۱۹۷۸ء۔۱۹۷۱ء) نے اردو غزل کو معراج عطا کی۔ اسی دور میں خان آرزو، شاہ حاتم اور مرتضیٰ مظہر جانِ جاناں جیسے شعرا بھی دنیاے ادب میں نمودار ہوئے۔ انھوں نے اردو غزل کو ایہام گوئی اور لفظی صناعیوں سے پاک کیا۔ میر، سودا اور درد نے اردو غزل میں حسن و عشق کی واردات کے ساتھ ہی اخلاق و تصوف کے مضامین بھی شامل کیے۔

سودا نے غزل میں تخلیل کی بلندی، قصیدہ جیسا طبق مطراق اور زور بیان پیدا کیا تو درد نے اس صنف میں صوفیانہ خیالات نظم کیے۔ وہیں میر ترقی میر نے اس صنف میں سوز و گداز، آہ و فغاں، درد و کسک کے جذبات ادا کر کے اس صنف کو آفاقیت بخشی اور ساتھ ہی سادگی، شیرینی، اثر آفرینی اور داخلی کیفیات کی ادائیگی سے غزل کو ہر دلیعیز یہ بنا دیا۔ اردو غزل کے لیے یہ دور سنبھری دور ثابت ہوا۔ میر نے اس صنف کو وہ عروج بخشنا کہ بقول پروفیسر ڈاکٹر فضل امام ”اردو غزل کا دوسرا نام میر ترقی میر ہے۔“ چنانچہ یہ کہنا کہ اردو غزل اپنی مقبولیت اور آفاقیت کے لیے ہمیشہ میر ترقی میر کی مر ہوں منت رہے گی۔ بالکل صحیح و درست ہو گا۔

اٹھار ہوئی صدی کے نصف آخر میں شمالی ہند میں مصححی، جرأت، انشا اور رنگلین جیسے شعرانے اس صنف کی تابنا کی برقرار رکھی۔ اس دور میں ان شعرا نے اردو غزل میں تصنیع، آوردا اور معاملہ بندی جیسے خیالات کو اظہار کا ذریعہ بنایا۔ حالانکہ یہ غزل کے معیار و تقدس کے اعتبار سے مُضر ثابت ہوئے۔ لیکن پھر بھی اردو غزل میں نئے خیالات و افکار نے اپنی جگہ بنائی۔ لکھنؤ کے عیش پور ماحول میں رہ کر ان شعرا نے غزل میں تصنیع، آوردا اور معاملہ بندی کے ساتھ ہی عربی اور ابتدال کو بھی شامل کر لیا۔ لہذا غزل میں محبوب سے چھیڑ چھاڑ، نوک جھونک اور اختلاط کی باتوں کا کھلے طور پر ذکر ہونے لگا۔ اسی دور میں اس کے اثر سے رنجتی، کی ایجاد ہوئی۔ رنجتی، ایسی شاعری کہلاتی ہے جس میں عورتوں کی باتیں عورتوں کی زبان میں نظم کرتے تھے۔ اس سے اردو غزل میں عریانیت اور ابتدال کی شمولیت ہوئی۔

اٹھارہویں صدی کے آخر اور انیسویں صدی کی شروعات میں اردو غزل کے افق پر شیخ امام بخش ناسخ لکھنؤی، خواجہ حیدر علی آتش، شیخ محمد ابراہیم ذوق، مرزا غالب اور حکیم مومن خاں مومن جیسے شہرہ آفاق شاعر نمودار ہوئے۔ آتش اور ناسخ نے لکھنؤی رنگ میں رہتے ہوئے غزل میں رنگینی، معاملہ بندی اور آورد کے ساتھ ہی نازک خیالی، معاملاتِ حسن و عشق اور تصوف کے جذبات سموئے تو دہلوی میں ذوق دہلوی نے غزل گوئی میں اپنی استادی اور قادر الکلامی ثابت کی۔ مومن نے غزل میں معاملاتِ عشق کا بیان کر محبوب کے حسن و جمال کو غزل کا موضوع بنایا اور غزل میں تغزل پیدا کیا۔ وہیں مرزا غالب نے غزل میں نئے خیالات اور نیارنگ و آہنگ پیدا کیا۔ غالب نے غزل میں روایات پارینہ سے ہٹ کر تخيّل، فکر، فلسفہ و حکمت کے ساتھ ہی نیا انداز بیان رائج کر کے غزل کو ایک نئی راہ بخشی۔ یہ دور اردو غزل کا زریں دور کھلاتا ہے۔

انیسویں صدی کے نصف آخر میں داغ دہلوی، امیر بینائی، جلیل مانک پوری، تسلیم لکھنؤی، آرزو لکھنؤی، حسرت موهانی، فائق بدایونی جیسے باکمال شعر اور پھر بیسویں صدی میں جگر مراد آبادی، عزیز لکھنؤی، اصغر گوندوی، شاد عظیم آبادی، فراق گورکھپوری، اسرار الحق مجاز لکھنؤی، فیض احمد فیض، حفیظ جالندھری، معین احسن جذبی، مجروح سلطان پوری، سردار جعفری، اختر انصاری، جاں ثاراختر، ناصر کاظمی اور ساحر لدھیانوی جیسے شعرا نے غزل کی مقبولیت میں چار چاند لگائے۔

## مرزا سداللہ خاں غالب

اسداللہ خاں نام پہلے اسد اور بعد میں غالب مستخلص اختیار کیا۔ نجم الدولہ، دبیر الملک، نظام جنگ خطابات سے نوازے گئے۔ مرزا نوشہ عرفیت تھی۔ ۲۷ دسمبر ۱۸۶۱ء کو آگرہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے دادا مرزا قو قان بیگ شاہ عالم، بادشاہ کے زمانے میں ہندوستان آئے اور دربار میں عزت پائی۔ مرزا کے والد عبداللہ بیگ مختلف ریاستوں میں مامور رہے بعد میں کسی لڑائی میں ہلاک ہوئے۔

والد کی وفات کے بعد مرزا کی تعلیم و تربیت ان کے چچا نصراللہ بیگ نے کی جو انگریز فوج میں رسالدار تھے۔ مرزا نے ابتدائی تعلیم شیخ معظم سے حاصل کی۔ مرزا کی شادی تیرہ برس کی عمر میں نواب الہی بخش خاں کی بیٹی امرا و بیگم سے دلی میں ہوئی اس کے بعد مرزا نے مستقل طور پر دہلی میں سکونت اختیار کی۔ چچا کے انتقال کے بعد ایک جا گیر کے عوض سات سور و پیہہ سالانہ بطور پنیشن غالب کو ملتی رہی۔

۱۸۵۷ء کے غدر میں مرزا کو بڑی تکلیفوں سے دوچار ہونا پڑا۔ کئی مہینوں تک گھر میں مقید رہے۔ مغل دربار سے وابستگی کے سبب ان کی پینش رونک دی گئی بعد میں بڑی کوششوں سے پینش بحال ہوئی۔ غرض مرزا اپنی فیاضی اور فراخ دلی کے سبب ہمیشہ پریشان حال رہے۔

مرزا کو شعر گوئی کا شوق بچپن سے تھا۔ پہلے فارسی بعد میں اردو میں شاعری کرنے لگے۔ مرزا اپنی غیر معمولی ذہانت اور جدت پسند طبیعت کے سبب بہت جلد کامل اساتذہ میں شمار ہونے لگے۔ ذوق کے انتقال کے بعد بہادر شاہ ظفر نے انھیں اپنا استاد مقرر کیا۔ اس طرح انھیں درباری سرپرستی حاصل ہوئی۔ آخر ۲۷ سال کی عمر میں ۱۸۶۹ء کو دہلی میں رحلت پائی اور درگاہ حضرت نظام الدین کے احاطہ میں دفن کئے گئے۔

غالب ایک ذہین اور صاحب فکر انسان تھے انہوں نے اردو غزل کو اپنے اچھوتے انداز بیان سے مالا مال کیا۔ مرزا نے غزل میں نت نئے تجربے کیے۔ فکر کی گہرائی اور گیرائی اور نادر خیالات سے اردو شاعری میں آفاقیت پیدا کی۔ غالب نے اپنے کلام میں حسن و عشق کے جذبات اور احساسات کو بڑے حکیمانہ انداز میں پیش کیا ہے۔ خیالات کی بلندی، فکر و تخیل کی ندرت اور جدت پسندی کے ساتھ کلام میں شوخی و ظرافت کا عنصر بھی بہت نمایاں ہے۔

غالب کو فارسی زبان پر غیر معمولی قدرت حاصل تھی۔ اس لیے ان کے اردو کلام میں فارسی تراکیب کا استعمال کثرت سے ملتا ہے لیکن غالب نے فارسی تراکیب اور سہل الفاظ میں لطیف جذبات اور احساسات کی ترجیحی اس انداز میں کی ہے کہ ان میں انفرادیت پیدا ہو گئی ہے۔ غالب کے ابتدائی کلام میں ثقلی الفاظ اور پیچیدہ تراکیب کا استعمال بہت زیادہ ہے۔ مگر بعد میں غالب کو احساس ہوا تو انہوں نے سہل نگاری کی طرف اپنی توجہ کی اور کلام میں خوش نمائتا کیب اور سہل الفاظ کے استعمال سے عام فہم بنانے کی کوشش کی۔

غالب کا ایک بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے غزل میں عام روشن سے ہٹ کر موضوعات اور مضامیں کا انتخاب کیا۔ انہوں نے ساری زندگی مشاہدات اور تجربات کیے۔ غزل کو حسن و عشق کے محدود دائرے سے نکال کر اس میں حکیمانہ افکار اور متصوفانہ خیالات کے ذریعہ اس میں دسعت اور تنوع پیدا کیا۔ غالب نے ہر زمانے اور ہر دور کی تمکین کا سامان مہیا کرایا۔ بات میں بات نکالنے کا ہنر ہمیں جو غالب کے یہاں جس تاثیر کے ساتھ ملتا ہے وہ شاید ہی کہیں ملے گا۔ وہ اپنی بات کو اختصار کے ساتھ کہنے کے قائل ہیں۔ ان کے کلام میں معنویت اور جامعیت قابل دید ہے۔ وہ پرانے اور فرسودہ مضامیں کو اپنے انداز فکر اور تخیل کی بلندی سے اچھوتا اور نادر بنادیتے ہیں۔

غالب نہ صرف ایک باکمال شاعر تھے بلکہ خوش فکر نثار بھی تھے انہوں نے اردو و فارسی دونوں

زبانوں میں اپنی بے مثال نثری کارنا مے انجام دئے ہیں۔ غالب کے دوستوں کا ایک وسیع دائرة تھا۔ جن سے وہ ہر وقت خط و کتابت کر کے اپنا دل بہلاتے تھے اور شاعری کے علاوہ ان کے گزر راویات کا ذریعہ بھی تھا۔ غالب نے دوستوں کو جو خطوط لکھے وہ اردو میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں انہوں نے ایک طرزِ خاص کی ایجاد کی۔ انہوں نے خطوط میں مردجہ القاب و آداب کو ترک کیا۔ محل اور بے موقع گفتگو سے پرہیز کیا۔ زبان بے تکلف سادہ اور پر لطف استعمال کی۔ انداز ایسا گویا دو شخص آمنے سامنے بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہوں۔ بعد میں غالب کے لکھے ہوئے یہ خطوط مختلف مجموعوں کی شکل میں شائع ہوئے۔ ”اردوئے معقلی“، ”عودہ هندی“ اور ”خطوط غالب“ ان کے خطوط کے مجموعے ہیں۔ اس کے علاوہ غالب کی دیگر تصانیف میں ”دیوانِ غالب“، ”کلیاتِ نظم فارسی“، ”مثنوی شانِ نبوت و ولادت“، ”چراغِ دری“، ”دستبُو“، ”قاطعہ برہان وغیرہ قابلِ ذکر ہیں۔

غالب کی شخصیت اردو شعرو ادب کے لیے گراں مایہ سرمایہ ہے۔ ایسا سرمایہ جس کی چمک رہتی دنیا تک قائم رہے گی۔

# غزل

(۱)

اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا  
 کہ خوشی سے مرنے جاتے اگر اعتبار ہوتا  
 یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگہ کے پار ہوتا  
 کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی غم گسوار ہوتا  
 غم عشق گرنہ ہوتا، غم روزگار ہوتا  
 مجھے کیا برا تھا مarna اگر ایک بار ہوتا  
 نہ کبھی جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار ہوتا  
 جو دوئی کی بو بھی ہوتی تو کہیں دوچار ہوتا

یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصالِ یار ہوتا  
 ترے وعدے پر جیسے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا  
 کوئی میرے دل سے پوچھئے تیرے تیرنیم کش کو  
 یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناصح  
 غم اگر چہ جاں گسل ہے پہ کہاں بچپیں کہ دل ہے  
 کہوں کس سے میں کہ کیا ہے شب غم بری بلا ہے  
 ہوئے مرکے ہم جو رسوا ہوئے کیوں نہ غرق دریا  
 اسے کون دیکھ سکتا کہ یگانہ ہے وہ کیتا؟

یہ مسائل تصوف! یہ تیرا بیان غالب  
 تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خوار ہوتا

## غزل

(۲)

کیوں جل گیا نہ تاب رخ یار دیکھ کر  
 آتش پرست کہتے ہیں اہلِ جہاں مجھے  
 سرگرمِ نالہ ہائے شر بار دیکھ کر  
 کیا آبروئے عشق، جہاں عام ہو جفا  
 رکتا ہوں تم کو بے سبب آزار دیکھ کر  
 آتا ہے میرے قتل کو پر جوشِ رشک سے  
 مرتا ہوں اس کے ہاتھ میں تلوار دیکھ کر  
 ثابت ہوا ہے گردن مینا پہ خونِ خلق  
 لرزے ہے موج مے تری رفتار دیکھ کر  
 واحسِ تاکہ یار نے کھینچا ستم سے ہاتھ  
 مرتا ہوں اس کے ہاتھ میں تلوار دیکھ کر  
 جی خوش ہوا ہے راہ کو پر خار دیکھ کر  
 ان آبلوں سے پاؤں کے گھبرا گیا تھا میں  
 گرنی تھی ہم پہ برقِ تجلی نہ طور پر  
 دیتے ہیں بادہ نظرِ قدح خوار دیکھ کر  
 سرپھوڑنا وہ غالب شوریدہ حال کا  
 یاد آگیا مجھے تری دیوار دیکھ کر

## مشکل الفاظ اور ان کے معانی

### غزل (۱)

| معانی                             | الفاظ     |
|-----------------------------------|-----------|
| دوست سے ملاقات                    | وصال یار  |
| آدھا کھچا ہوا                     | نیم کش    |
| چبھن، اضطراب                      | خلش       |
| نصیحت کرنے والا                   | ناصع      |
| علاج کرنے والا، معانج             | چارہ ساز  |
| ہمدرد، غم خوار                    | غم گسار   |
| جان کو گھٹانے والا، عمر کرنے والا | جاں گسل   |
| زمانے کا غم، دنیا کا درد          | غم روزگار |
| شرابی                             | بادہ خوار |

### غزل (۲)

|   |             |
|---|-------------|
| دوست (محبوب) کے چہرے کی تجھی (چمک)        | تاب ریخ یار |
| آنگ کو پوچھنے والا، پارسی مذہب کا پیروکار | آتش پرست    |
| دنیادار۔ عام انسان                        | اہل جہاں    |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| شعلے برسانے والا    | شر بار     |
| صرائی، شراب کی بوتل | مینا       |
| ہائے افسوس          | واحستا     |
| لالجی               | حریص       |
| کانٹوں سے بھرا ہوا۔ | پرخار      |
| شراب                | بادہ       |
| برتن، پیالہ         | ظرف        |
| شرابی               | قدح خوار   |
| پریشان حال          | شوریدہ حال |

## مشقی سوالات

**مختصرین سوالات:**

- ۱۔ مرزا غالب کب اور کہاں پیدا ہوئے؟
- ۲۔ غالب کی عرفیت کیا تھی؟
- ۳۔ شاعر کا جی کیا دلکھ کر خوش ہوا؟

**مختصر سوالات:**

- ۴۔ یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا اگر اور جیتنے رہتے یہی انتظار ہوتا مرزا غالب نے مذکورہ شعر میں کیا بات بیان کی ہے؟
- ۵۔ گرنی تھی ہم پر برق تجلی نہ طور پر دیتے ہیں بادہ ظرف قدح خوار دلکھ کر غالب کے مندرجہ بالا شعر کا مطلب لکھئے۔
- ۶۔ مندرجہ ذیل الفاظ کے معنی بتائیے۔  
وصل یار۔ نیم کش۔ ناصح۔ آتش پرست۔

**تفصیلی سوالات:**

- ۷۔ مرزا غالب کے حالات زندگی پر روشنی ڈالنے اور ان کی شاعرانہ خوبیوں کو بیان کیجئے۔
- ۸۔ مرزا غالب کی پہلی غزل کے شعر نمبر ۲، ۳، ۲، ۸ اور دوسری غزل کے شعر نمبر ۲، ۸ اور ۸ کے مطلب لکھئے۔

## مومن خاں مومن

مومن خاں نام مومن ہی تخلص تھا۔ حکیم غلام نبی خاں کے بیٹے تھے۔ ۱۸۰۰ء میں بمقام دہلی پیدا ہوئے۔ حکمت ان کا خاندانی پیشہ تھا۔ آپ کے دادا طبیب کی حیثیت سے شاہی دربار میں ملازم تھے۔ شاہی خدمت کے صلے میں انھیں چند مواضعات جا گیر میں ملے تھے۔ بعد میں انگریزی سرکار نے جا گیر کے عوض میں پینشن مقرر کر دی تھی۔ مومن کو بھی وراثت میں یہ پینشن ملتی رہی۔

مومن کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہی ہوئی۔ شاہ عبدالقدار سے عربی کا درس لیا، طب کی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ اس کے علاوہ مومن کو ریاضی، علمنجوم اور مل وغیرہ میں مہارت تھی شطرنج کے بھی ماہر تھے۔ خوشحال گھرانے سے تعلق کے سبب معاشی فکرات سے آزاد رہے۔ مومن بڑے خوش طبع، زندہ دل، یار باش اور آزاد مشرب انسان تھے۔ شاعری میں شاہ نصیر سے مشورہ ہخن کرتے تھے۔

مومن نے اس دور میں آنکھ کھولی جب سودا، میر، درد اور سوز جیسے کامل الفن اساتذہ کی شاعری کے چرچے ہو رہے تھے۔ ایسی پر کیف فضما میں مومن کی شاعری پروان چڑھی۔ مومن نے اردو غزل کو اس کے حقیقی معنی میں استعمال کیا اور اس میں ایک اچھوتے پن کا احساس کرایا۔ حالاں کہ ان کی غزل حسن و عشق کے محدود دائرے میں رہی مگر انہوں نے اپنی فکر انگلیزی سے اس میں جدتیں پیدا کیں اور معاملاتِ حسن و عشق کو اس طرح پیش کیا کہ ہر جگہ نئی کیفیت اور تازگی کا احساس ہوتا ہے۔

مومن کی غزلوں میں نازک خیالی، اسلوب کی جدت، سادگی، روانی، برجستگی اور جذبات کی شدت سبھی کچھ موجود ہے۔ مومن اپنی طبیعت کی زنگینی کے لیے جانے جاتے ہیں۔ ان کے کلام میں ہر جگہ حسن و عشق، نزاکت، لطافت اور نگین بیانی نظر آتی ہے۔ مومن کی غزلوں میں اثر آفرینی اور جذبات

کی صداقت کے ساتھ واردات حقیقی کا بیان نمایاں ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی بحروں میں بڑے موثر مضامین  
باندھتے ہیں۔ انہوں نے مقطع میں اکثر تخلص کو بڑی رعایت کے ساتھ استعمال کیا ہے۔

یہ بات بھی بہت مشہور ہے کہ ایک مشاعرے میں جب مومن نے یہ شعر پڑھا۔

تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا

تو یہ شعر مرزا غالب کو اس قدر پسند آیا کہ انہوں نے اس شعر کے عوض میں اپنا پورا دیوان دینے کی پیش کش کی۔

مومن کے کلام میں اسلوب کی جدت، پیچیدگی اور سادگی کے متنازع عناصر بھی شامل ہیں۔ نازک خیالی اور طرز ادا کا لطیف پیرا یہ ان کی غزلوں میں زرالی شان پیدا کرتے ہیں۔ مومن نے حسن و عشق کے بندھے کلکے مضامین میں وہ تنوع پیدا کیا کہ اس میں جاذبیت کا حسن منفرد انداز لیے ہوئے نظر آتا ہے۔

انہوں نے اپنی بات کو غیر معروف پیرا یہ میں کہنے کو فوقيت دی۔ وہ اپنی بات فلسفیانہ اور حکمت آمیزی کے ساتھ کہنے کے قائل نہیں اور نہ ہی ان کی شاعری میں اخلاقی قدروں کی پیش رفت ہے مگر ان کی شاعری قدیم انداز بیان کے ساتھ ذہنوں میں ایک نئی ترنگ اور نغمگی پیدا کرتی ہے۔ وہ عشقِ مجازی کے غماز اور حسنِ لامتناہی کے پرستار ہیں اور ان کی تمام تر شاعری کا دار و مدار اسی پر موقوف ہے۔ مومن کی چند منشویاں اور قصائد بھی ہیں لیکن ان کی پوری توجہ غزلوں پر ہی مرکوز رہی۔

مومن اپنے منفرد اور مخصوص شعری مزاج کے سبب اردو شاعری میں ایک الگ پہچان رکھتے ہیں۔ وہ اپنے عہد کے بڑے مشہور اور مقبول شاعر تھے۔ ان کے شاگردوں میں نواب غلام مصطفیٰ خاں شیفۃ، تسلیم، وحشت اور نسیم جیسے قادر الکلام شاعر شامل ہیں۔

مومن علم بجوم اور تاریخ گوئی میں بڑے ماہر تھے۔ انہوں نے اپنی تاریخ وفات خود نکالی تھی جو چ

ثابت ہوئی یعنی دست و بازو بشکست (۱۲۵۸ء)

مطابق ۱۸۵۱ء میں انہوں نے اسی شکستہ حالی میں وفات پائی۔

## غزل

(۱)

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا       | رنج راحت فزا نہیں ہوتا      |
| ذکرِ اغیار سے ہوا معلوم       | حرفِ ناصح برا نہیں ہوتا     |
| اس نے کیا جانے! کیا کیا لے کر | دل، کسی کام کا نہیں ہوتا    |
| تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے      | ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا |
| تم مرے پاس ہوتے ہو گویا       | جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا     |
| حالِ دل یار کو لکھوں کیوں کر  | ہاتھ، دل سے، جُدا نہیں ہوتا |
| چارہ دل سوائے صبر نہیں ہوتا   | سو تمہارے سوا نہیں ہوتا     |
| کیوں سُنے عرضِ مضطرب، اے مومن |                             |
| ضم، آخر حُدّا نہیں ہوتا       |                             |

## غزل

(۲)

ٹھانی تھی دل میں اب نہ ملیں گے کسی سے ہم  
 پر کیا کریں کہ ہو گئے ناچار جی سے ہم  
 ہنستے جو دیکھتے ہیں کسی سے کسی کو ہم  
 منہ دیکھ دیکھ روتے ہیں کس بے کسی سے ہم  
 ہم سے نہ بولو تم اسے کیا کہتے ہیں بھلا  
 انصاف کیجیے پوچھتے ہیں آپ ہی سے ہم  
 اس کو میں جامریں گے، مدارے ہجوم عشق  
 آج اور زور کرتے ہیں بے طاقتی سے ہم  
 لے نام آرزو کا تو دل کو نکال لیں  
 مومن نہ ہوں، جو ربط رکھیں بعدتی سے ہم

## مشکل الفاظ اور ان کے معانی

غزل(۱)

| الفاظ    | معانی                       |
|----------|-----------------------------|
| راحت فرا | خوشی دینے والا              |
| اغیار    | غیر کی جمع، اجنبی لوگ، دشمن |
| ناصح     | نصیحت کرنے والا             |
| مضطر     | پریشان، بے چین              |
| ضم       | بت، معشوق                   |

غزل(۲)

|        |                        |
|--------|------------------------|
| ناچار  | مجبو، بے بس            |
| بے کسی | لا چاری، عاجزی، مجبوری |
| کو     | کوچہ، گلی              |
| ربط    | میل جوں، تعلق          |

## مشقی سوالات

**مختصر ترین سوالات:**

- ۱۔ مومن کا پورا نام بتائیے۔
- ۲۔ مومن کب اور کہاں پیدا ہوئے؟
- ۳۔ شاعر نے دل میں کیا ٹھانی تھی؟

**مختصر سوالات:**

- ۴۔ تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا مومن کے مذکورہ شعر کا مطلب لکھیے۔
- ۵۔ ہستے جو دیکھتے ہیں کسی سے کسی کو ہم منحدر یکھدیکھ روتے ہیں کس بے کسی سے ہم مومن کے اس شعر کی وضاحت کیجیے۔
- ۶۔ مندرجہ ذیل الفاظ کے معنی بتائیے۔  
اغیار۔ ناصح۔ مضطرب۔ ناچار۔ ربط۔ بدعتی۔

**تفصیلی سوالات:**

- ۷۔ حکیم مومن خال مومن کے حالاتِ زندگی تحریر کیجیے اور ان کی شاعرانہ خوبیوں پر روشنی بھی ڈالیے۔
- ۸۔ مومن کی پہلی غزل کے شعر نمبر ۱، ۲، ۳ اور دوسری غزل کے شعر نمبر ۱، ۲ اور ۵ کے مطلب لکھیے۔

## نواب مرزا خاں داع

نواب مرزا داع ۲۵ مئی ۱۸۳۱ء کو بمقامِ دہلی پیدا ہوئے۔ نواب شمس الدین خاں فیروز پور جھر کے فرزند تھے۔ داع جب سات برس کے تھے تو ان کے والد غدر کے ہنگامے میں انگریزوں کے ہاتھوں ہلاک ہو گئے۔ داع کی والدہ وزیر بیگم کا دوسرا نکاح ۱۸۳۳ء میں ولی عہد سلطنت غلام خیر الدین سے ہوا جو بہادر شاہ ظفر کے بیٹے تھے۔

اس وقت داع کی عمر ۱۳ برس تھی۔ داع بچپن سے بڑے ذہین اور ہونہار تھے۔ لہذا انھیں خاقانی ہند استادِ ذوق کے سپرد کر دیا گیا۔ قریب دس سال داع نے ذوق سے فیض اٹھایا۔ اس دوران وہ غالب سے بھی ملتے رہے۔ یہ بھی مشہور ہے کہ غالب سے داع کے متعلق دریافت کیا گیا تو غالب نے کہا۔ ”داع کی اردو ایسی عمدہ ہے کہ کیا کسی کی ہوگی۔ ذوق نے اردو کو اپنی گود میں پالا تھا داع نہ صرف اس کو پال رہا ہے بلکہ تعلیم دے رہا ہے۔“

۱۸۵۶ء میں مرزا خیر الدین کے انتقال کے بعد داع رامپور چلے آئے۔ وہاں نواب یوسف علی خاں ناظم نے ان کی بڑی قدر دانی کی اور جب تک زندہ رہے داع کی سرپرستی کرتے رہے۔ اس کے بعد ان کے ولی عہد نواب کلب علی خاں نے داع کو بڑی عزت بخشی اور انھیں فراش خانے اور اصطبک کا داروغہ بنایا۔ داع نے انھیں کے ساتھ فریضہ حج بھی ادا کیا۔ تقریباً تیس سال دربار سے وابستگی کے بعد حیدر آباد کا رُخ کیا۔ رامپور میں قیام کے دوران مظفر علی اسیر، امیر میناںی، سید ضامن علی جلال اور اسمعیل حسین منیر جیسے بامکان اساتذہ سے صحبت رہیں مگر داع کی مقبولیت ان سب سے زیادہ تھی۔

حیدر آباد میں وہاں کے نواب محبوب علی خاں نے داع کو اپنا مشیر خزن (استاد) مقرر کیا اور چار سو

روپیہ ماہانہ تجوہ مقرر ہوئی بعد میں اس میں اضافہ ہوا اور تجوہ سترہ سور و پیہ تک پہنچ گئی تھی۔ یہ اتنی بڑی تجوہ تھی جو اس زمانے میں کسی شاعر کو میسر نہ تھی۔ اس کے علاوہ نظام حیدر آباد نے انھیں ناظم یار جنگ، دیر الدولہ اور فتح الملک کے خطابات کے ساتھ جا گیر بھی عطا کی۔ حیدر آباد میں آ کر داغ نے بڑے عیش و نشاط کی زندگی بسر کی اور یہیں ۱۹۰۵ء کو فانج کے اثر کے بعد انتقال کیا۔

داغ اردو شاعری کے بے حد کامیاب اور مقبول شاعر تھے۔ ان کی شہرت ملک کے کونے کونے میں پھیلی ہوئی تھی۔ ان کے تلامذہ کا حلقة بڑا وسیع تھا۔ شاگردوں کی تعداد کے پیش نظر انھوں نے ایک دفتر کھول رکھا تھا جس میں ان کا رجسٹریشن (اندران) کیا جاتا تھا۔ داغ کے مشہور تلامذہ میں محبوب علی خاں آصف، وحید الدین بیخود دہلوی، علامہ اقبال، ناطق گلاؤٹھی، محمد علی جوہر، جگر مراد آبادی، آغا شاعر قزلباش، سائل دہلوی، سیما ب اکبر آبادی وغیرہ کے نام خاص طور پر مقابل ذکر ہیں۔

داغ ایک پُر گوش اور تھا ان کو زبان و بیان پر کامل قدرت حاصل تھی۔ داغ کا ایک بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انھوں نے اردو زبان کی اصلاح کی اور اس میں حسن و نکھار پیدا کیا۔ داغ اپنے ہم عصروں میں بڑے مشہور تھے۔ داغ کی شاعری عشق مجازی پر محمول ہے۔ وہ حسن و عشق کے معاملات کو بڑی بے با کی سے بیان کرتے ہیں۔ ان کے کلام میں محبوب سے چھیڑ چھاڑ، محبوب کی اداوں پر فریفہ ہونا، شوخی، چلبلا پن اور بعض جگہ عامیانہ پن وابندال سے بھی کام لیتے ہیں۔ داغ کی زبان دہلی کی نکسالی، بامحاورہ، سادہ، اور سلیس زبان ہے۔ زبان کا چٹکارہ اس میں تاثیر پیدا کرتا ہے۔ شاید ہی ان کا کوئی شعر لطف زبان سے خالی ہو۔ سطحی عشقیہ جذبات اور احساسات ہی ان کی شاعری کی جان ہیں۔ معاملہ بندی، زنگینی اور شوخی لطف زبان انکی شاعری کی اہم خصوصیات ہیں۔ داغ کی غزلوں میں نسوانی جذبات کی عکاسی بھی کثرت سے پائی جاتی ہے۔ داغ کی شاعری میں ان کی زندگی کا عکس نظر آتا ہے۔ انھوں نے اپنی شاعری میں وہی پیش کیا ہے جو وہ اپنے ارد گرد محسوس کر رہے تھے۔ اس میں بناؤٹ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ان کی شاعری

کی دھوم سارے ہندوستان میں تھی ایک جگہ وہ کہتے ہیں۔ ۔

اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ

سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے

داغ کی وفات پر ان کے شاگرد علامہ اقبال نے اپنے مہربان استاد کی یاد میں ایک مرثیہ بعنوان

”مرثیہ داغ“ لکھا، جو بہت مقبول اور مشہور ہوا۔ اس مرثیے کا ایک شعر دیکھیے۔ ۔

اشک کے دانے زمینِ شعر میں بوتا ہوں میں

تو بھی رو اے خاکِ دلی، داغ کو روتا ہوں میں

داغ کی وفات کے بعد ان کے رنگ کو آگے بڑھانے والوں میں نوح، سائل اور بے خود بلوی

ونغیرہ کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

نواب مرزا داغ کی تصانیف میں چار دیوان ”گلزارِ داغ“، ”آفتابِ داغ“، ”مہتابِ داغ“،

اور ”یادگارِ داغ“، ہیں اس کے علاوہ ایک منشوی ”فریادِ داغ“ ہے۔ انھوں نے چند قصائد اور دہلی کے

حالات پر ایک شہر آشوب بھی نظم کیا ہے۔

## غزل

(۱)

|   |  |
|---|--|
| مجھ سے کہاں چھپیں گے وہ ایسے کہاں کے ہیں<br>جو تھے دعا کے ہاتھ وہی امتحان کے ہیں<br>اس روز سے زمیں پہ ستم آسمان کے ہیں<br>پیغامِ بر کے ہاتھ میں ٹکڑے زبان کے ہیں<br>کیا اضطرابِ شوق نے مجھ کو خجل کیا<br>وہ پوچھتے ہیں کہیے ارادے کہاں کے ہیں | جلوے مری نگاہ میں کون و مکاں کے ہیں<br>کرتے ہیں قتل وہ طلبِ مغفرت کے بعد<br>جس دن سے کچھ تریک ہوئی میری مشت خاک<br>کیا جواب؟ حضرتِ دل! دیکھیے ذرا<br>کیا اضطرابِ شوق نے مجھ کو خجل کیا |
|---|--|

## غزل

(۲)

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| غصب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا    | تمام رات قیامت کا انتظار کیا       |
| کسی طرح جونہ اس بست نے اعتبار کیا  | مری وفا نے مجھے خوب شرمسار کیا     |
| جب ان کو طرزِ ستم آگئی تو ہوش آیا  | بُرا ہو دل کا بُرے وقت ہوشیار کیا  |
| کچھ آگے دا رو محشر سے ہے امید مجھے | کچھ آپ نے میرے کہنے کا اعتبار کیا  |
| کسی کے عشق نہا میں یہ بدگمانی تھی  | کہ ڈرتے ڈرتے خُدا پر بھی آشکار کیا |
| وہ بات کر جو بھی آسمان سے ہونہ سکے | ستم کیا تو بُرا ٹونے افتخار کیا    |
| بنے گا میر قیامت بھی ایک خال سیاہ  |                                    |
| جو چہرہ داغ سیہ رونے آشکار کیا     |                                    |

## مشکل الفاظ اور ان کے معانی

(غزل ۱)

| معانی                                    | الفاظ     |
|--|-----------|
| شرمندہ، نادم                             | شرمسار    |
| قیامت کے دن انصاف کرنے والا، اللہ تعالیٰ | داوِ محشر |
| فخر، عزت                                 | افتخار    |
| قیامت کی مہر (چھاپ)                      | مهر قیامت |
| کالاں                                    | خال سیاہ  |
| شرمندہ، گنہ گار                          | سیہرو     |

(غزل ۲)

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| ظاہر، واضح               | آشکار      |
| دُنیا                    | کون و مکان |
| بخشنش (نجات) کی خواہش    | طلب مغفرت  |
| مٹھی بھرخاک، بمعنی انسان | مشت خاک    |
| بے چینی، بے قراری        | اضطراب     |
| شرمندہ، شرمسار           | خجل        |

## مشقی سوالات

**مختصر ترین سوالات:**

- (۱) داعٰؒ دہلوی کب اور کہاں پیدا ہوئے؟
- (۲) داعٰؒ کے کسی ایک دیوان کا نام لکھیے۔
- (۳) مندرجہ ذیل الفاظ کے معنی بتائیے۔  
داوِ محشر۔ خالی سیاہ۔ کون و مکاں۔ خجل۔

**مختصر سوالات:**

- (۴) قیامت کا انتظار سے شاعر کی کیا مراد ہے؟
- (۵) مندرجہ ذیل شعر کا مطلب لکھتے۔

جلوے مری نگاہ میں کون و مکاں کے ہیں  
مجھ سے کہاں چھپیں گے وہ ایسے کہاں کے ہیں  
(۶) داعٰؒ دہلوی کے دو اشعار (انہی پسند سے) لکھتے۔

**تفصیلی سوالات:**

- (۷) داعٰؒ دہلوی کے حالاتِ زندگی مختصر تحریر کرتے ہوئے ان کی غزل گوئی پر تبصرہ کیجئے۔
- (۸) داعٰؒ دہلوی کی شامل نصاب پہلی غزل کے مطلع اور مقطع نیز دوسری غزل کے شعر نمبر ۲۳ اور ۲۴ کے مطلب لکھتے۔

## جگر ابادی

علی سکندر نام اور جگر خلص تھا۔ ۱۸۹۳ء میں بنارس میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد مولوی نظر علی نظر ایک صاحب دیوان شاعر تھے اور خواجہ وزیر لکھنؤی کے شاگرد تھے گویا جگر کو شاعری و راثت میں ملی۔ ابتدائی تعلیم گھر پر ہی ہوئی۔ سات برس کی عمر میں والد کے ساتھ مراد آباد چلے آئے۔ نو عمری سے شعر گوئی کی طرف مائل ہوئے۔ ابتدائی میں والد سے اصلاح لی پھر داعی دہلوی اور امیر اللہ تسلیم سے شرف تلمذ حاصل کیا۔ مشن اسکول لکھنؤ میں زیر تعلیم تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا تو نویں جماعت میں فیل ہو گئے اور انہوں نے تعلیم بھی ترک کر دی۔ جگر کے چچا نے انہیں میوسپلی میں ملازمت دلوائی۔ کچھ عرصہ بعد آگرہ پہنچ کر انہوں نے شادی کی بعد میں والدہ اور بیوی کو ساتھ لے کر مراد آباد چلے آئے۔ وہاں انہوں نے چشموم کا کاروبار شروع کیا۔ کاروبار کے سلسلے میں وہ فیض آباد، عظم گڑھ، گونڈہ و دیگر شہروں میں بھی آتے جاتے رہے۔ شراب نوشی کے سبب ہمیشہ سرگردان حال رہے۔

بعد میں اصغر گونڈوی کے سمجھانے پر انہوں نے شراب نوشی سے توبہ کی اور ۱۹۵۳ء میں فریضہ حج بھی ادا کیا۔ جگر نے اپنی زندگی کے آخری دور میں تصوف و حکیمانہ فکر کو اپنا موضوع سخن بنایا۔ ان کی شعری و راثت میں تین مجموعہ کلام ”داعی جگر“، ”شعلہ طور“ اور ”آتشِ گل“، یادگار ہیں۔ آخری مجموعہ پر انھیں ساہتیہ اکادمی کے انعام سے نوازا گیا تھا۔ اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے انھیں ڈی لٹ کی اعزازی ڈگری بھی عطا کی تھی۔

جگر نے ایک عرصہ تک علیل رہنے کے بعد گونڈہ میں ۱۹۶۰ء میں وفات پائی۔ جگر اپنے عہد کے کے بڑے مقبول شاعر تھے۔ وہ اپنے مخصوص ترجم اور نغمگی کے سبب مشاعروں میں چھا جاتے تھے۔ جگر کا

یہ رنگ ایسا مقبول ہوا کہ ہر ایک ان کی تقلید کرتا نظر آتا تھا۔ جگر کی غزلوں میں سرمستی، سرشاری اور والہانہ پن دیکھتے ہی بنتا ہے۔ زبان کے لحاظ سے وہ سادگی، رواني اور برجستگی کے قائل ہیں وہ مشکل الفاظ اور بھاری بھرم فارسی تراکیب سے گریز کرتے ہیں۔ یہی چیزیں ان کے کلام کو زیادہ تاشیز بخشتی ہیں۔ ان کی غزلوں میں ہم عصر زندگی کی کشمکش اور انسانی مسائل سے آگئی کے ساتھ جذبات اور احساسات کا بر ملا اظہار بھی موجود ہے۔

جگر کی شاعری کا اصل رنگ ”شعلہ طور“ میں ظاہر ہوتا ہے۔ شعلہ طور کی غزلوں میں غصب کی دلکشی، مستی اور والہانہ پن موجود ہے۔ کلام میں ایسی کشش اور دارفٹی ہے کہ پڑھنے اور سننے والے پر سحر طاری کر دیتی ہیں۔ شعلہ طور کا یہ شعر بطور خاص ملاحظہ کیجیے۔

دل گیا رونق حیات گئی      غم گیا ساری کائنات گئی

اس طرح جگر کا آخری مجموعہ کلام ”آتش گل“، بھی مرصع اور حسین ترین غزلوں سے معمور ہے۔ اس مجموعہ کلام میں حسن و عشق کے موضوعات کو بڑی خوبصورتی اور دل نشینی کے ساتھ پیش کیا ہے۔ جگرنے اپنی غزلوں میں ہم عصر زندگی کی کشمکش اور دیگر انسانی مسائل کو بھی جگہ دی ہے۔ ان کے آخری دور کے کلام میں فلسفیانہ، صوفیانہ اور اخلاقی ہر طرح کے موضوعات کا اظہار ملتا ہے۔ جگر کے کلام میں کہیں کہیں تقسیم وطن کے حالات کا کرب بھی نظر آتا ہے۔

جگرنے زبان کے معاملے میں قدیم اساتذہ کی تقلید کی یکن فارسی الفاظ اور تراکیب سے بچنے کی بھی کوشش کی ہے۔ سہل لب و لہجہ اور شیریں الفاظ ان کے کلام کو مزید دلکشی بخشتے ہیں۔ اس لیے ان کے کلام میں دلکش اور رواني ہر جگہ نظر آتی ہے۔ کلام کی یہی خصوصیات ان کی مقبولیت کا سبب ہیں۔

## غزل

(۱)

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| موت آگئی کہ دوست کا پیغام آگیا        | دل کو سکون، روح کو آرام آگیا   |
| جب کوئی ذکر گردش ایام آگیا            | بے اختیار لب پہ ترانام آگیا    |
| غم میں بھی سُرور وہ ہنگام آگیا        | شاید کہ دورِ بادہ گلفام آگیا   |
| دیوانگی ہو، عقل ہو، امید ہو کہ یاس    | اپنا وہی ہے وقت پہ جو کام آگیا |
| صیاد شاد ماں ہے مگر یہ تو سوچ لے      | میں آگیا کہ سایہ تھے دام آگیا  |
| یہ کیا مقامِ عشق ہے ظالم، کہ ان دونوں | اکثر ترے بغیر بھی آرام آگیا    |
| احباب مجھ سے قطع تعلق کریں جگر        |                                |
| اب آفتاب زیست لبِ بام آگیا            |                                |

## غزل

(۲)

|   |  |
|---|--|
| برابر سے نج کر گزر جانے والے<br>نہیں جانتے کچھ کہ جانا کہاں ہے<br>مرے دل کی بے تابیاں بھی لیے جا<br>ترے اک اشارے پہ ساکت کھڑے ہیں | یہ نالے نہیں بے اثر جانے والے<br>چلے جا رہے ہیں مگر جانے والے<br>دبے پاؤں منہ پھیر کر جانے والے<br>”نہیں“ کہہ کہ سب سے گذر جانے والے |
| محبت میں ہم تو جیے ہیں، جئیں گے <sup>۱</sup><br>وہ ہوں گے کوئی اور مرجانے والے  |  |

## مشکل الفاظ اور ان کے معانی

### غزل نمبرا

| معانی | الفاظ |
|-------|-------|
|-------|-------|

|                        |            |
|------------------------|------------|
| مصیبت کے دن، رُّ دے دن | گرڈشِ ایام |
|------------------------|------------|

|                       |      |
|-----------------------|------|
| خوٹی، انبساط، ہلکانشہ | سرور |
|-----------------------|------|

|          |             |
|----------|-------------|
| سرخ شراب | بادھَ کلفام |
|----------|-------------|

|                 |     |
|-----------------|-----|
| ناامیدی، مایوسی | یاس |
|-----------------|-----|

|       |      |
|-------|------|
| زندگی | زیست |
|-------|------|

### غزل نمبر ۲

| معانی | الفاظ |
|-------|-------|
|-------|-------|

|                   |      |
|-------------------|------|
| فریاد، شور و فغاں | نالے |
|-------------------|------|

|                |      |
|----------------|------|
| بے حرکت، خاموش | ساكت |
|----------------|------|

|        |          |
|--------|----------|
| چپ چاپ | دبے پاؤں |
|--------|----------|

## مشقی سوالات

**مختصر ترین سوالات:**

- (۱) جگر مراد آبادی کا پورا نام بتائیے۔
- (۲) جگر کب اور کہاں پیدا ہوئے؟
- (۳) جگر کے مطابق، دل کو سکون اور روح کو آرام کیسے آیا؟

**مختصر اس سوالات:**

- (۴) جگر مراد آبادی کی تخلیقات کے نام بتائیے۔
- (۵) مندرجہ ذیل الفاظ کے معنی بتائیے۔  
گردش ایام۔ بادہ گلفام۔ زیست۔ نالے  
مندرجہ ذیل شعر کا مطلب لکھیے۔

نہیں جانتے کہ جانا کہاں ہے  
چلے جا رہے ہیں مگر جانے والے

**تفصیلی سوالات:**

- (۷) جگر مراد آبادی کے حالاتِ زندگی پر روشنی ڈالیے اور ان کی غزل گوئی کی خوبیوں پر تبصرہ کیجیے۔
- (۸) نصاب میں شامل جگر کی غزل نمبر ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ اور غزل ۲ کے شعر نمبر ۱، ۲، ۴ اور ۵ کے مطلب لکھیے۔

## فرقہ گورکھپوری

فرقہ کا اصلی نام رگھوپتی سہائے تھا۔ فرقہ تخلص ۱۸۹۶ء میں گورکھپور میں پیدا ہوئے۔ ان کے والدنشی گورکھ پرشاد عبرت پیشہ سے وکیل اور بڑے خوش فکر شاعر تھے۔ فرقہ کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہی ہوئی۔ بعد میں ایف۔ اے۔ کی تعلیم کے لیے الہ آباد چلے آئے۔ یہاں انھیں پروفیسر ناصری کی صحبت اور رہنمائی حاصل ہوئی۔ پروفیسر ناصری عربی و فارسی کے استاد تھے، جو شعر گوئی کا ذوق بھی رکھتے تھے۔ فرقہ نے پہلے آپ سے مشورہ سخن کیا بعد میں وسم خیر آبادی کو اپنا استاد بنایا۔

فرقہ نے ۱۹۱۸ء میں سول سرسوں کا امتحان پاس کیا اور ڈپٹی گلکٹر کے عہدے کے لیے منتخب ہوئے لیکن انہوں نے ملازمت نہیں کی اور تحریک آزادی میں شامل ہو گئے۔ اس سلسلے میں انھیں جیل بھی جانا پڑا۔ جیل میں ان کا ساتھ مولانا محمد علی جوہر، حضرت مولانا اور ابوالکلام آزاد جیسے باذوق اساتذہ سے رہا جن کی صحبت میں انھیں شعر گوئی کی ترغیب ملی۔

۱۹۲۷ء میں جیل سے رہا ہونے کے بعد پہلے کر سچین کالج لکھنؤ میں اور پھر ایس۔ ڈی۔ کالج کانپور میں اردو پڑھانے پر مامور ہوئے۔ اسی اثنامیں فرقہ نے انگریزی میں ایم۔ اے۔ کیا اور الہ آباد یونیورسٹی میں انگریزی کے لکچرر ہو گئے اور وہیں ملازمت سے سبد و شہ ہوئے۔ حکومت ہند نے ان کی شعری خدمات پر ۱۹۲۷ء میں گیان پیڈھ ایوارڈ سے نوازا۔ انہوں نے ۳ مارچ ۱۹۸۲ء کو اس دارِ فانی سے کوچ کیا۔

فرقہ اپنے دور کے بہت مشہور اور مقبول شاعر تھے۔ انہوں نے نظمیں اور رباعیات بھی کہی ہیں لیکن غزل ہی ان کی پہچان کا سبب بنتی۔ ان کے ابتدائی کلام میں امیر مینائی اور عزیز و حقی کارنگ ملتا ہے

اور کہیں کہیں میر کارنگ بھی جھلکتا ہے۔ غمِ حیات اور غمِ جاناں سے لطف اندوز ہونے کا رجحان بھی کلام میں ظاہر ہوتا ہے۔ فراق کی شاعری میں حسن و عشق کی نفیسیات اور جذبات کا اتار چڑھاؤ جا بجا ملتا ہے۔ فراق عشق کے روایتی تصور سے الگ ہٹ کر بات کہتے ہیں۔

فرقہ نے اکثر طویل غزلیں کہی ہیں۔ مطالعہ کی وسعت نے ان کے انداز بیان میں پختگی اور تخیل میں ندرت پیدا کر دی ہے۔ وہ بلاشبہ بیسویں صدی کے نامور اور مقبول ترین شعرا میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کے شعری مجموعوں میں 'شعلہ ساز'، 'روح کائنات'، 'شبستان'، 'پچھلی رات'، 'روپ' اور 'گل نغمہ' وغیرہ یادگار ہیں۔

فرقہ کی مقبولیت کا سبب ان کی غزلیں ہیں جن میں حسن و عشق کے مختلف رنگ، جمالیاتی تاثیر کے ساتھ رونما ہوتے ہیں۔ ان کے کلام میں حسن و جمال کی بڑی دل کش اور جاندار تصوریں ملتی ہیں۔ ان کے یہاں حسن سے لطف اٹھانے کا تصور موجود ہے۔ عشق ان کے یہاں صرف جسمانی تسلیکین کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ روحانی احساسات اور پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ ان کے خیال میں بغیر اس جذبے کے کوئی عظیم شاعری جنم ہی نہیں لے سکتی۔ فرقہ نے اپنی شاعری میں قدیم روایتوں سے فائدہ اٹھایا ہے انہوں نے میر، غالب و مصطفیٰ سے لے کر حسرت موبانی تک کے ہر بڑے شاعر کے کلام سے استفادہ کیا۔ البتہ انہوں نے اپنی شاعرانہ خوبیوں اور صلاحیتوں سے کام لے کر ان موضوعات میں نئی جان ڈال دی ہے۔

فرقہ نے غزلوں کے علاوہ نظمیں بھی کہی ہیں لیکن غزلوں کے مقابلے میں ان کی نظمیں پھیکی نظر آتی ہیں حالانکہ ان میں کچھ نظمیں تمام خصوصیات کی حامل ہیں انہوں نے اپنی نظموں میں عشقیہ، المیہ، سیاسی اور سوانحی ہر طرح کے موضوعات پر اظہار خیال کیا ہے۔ فرقہ نے بعض رومانی نظمیں بھی کہی ہیں اور کچھ میں اپنے عہد کے حالات کا عکس نظر آتا ہے ان کی کامیاب نظموں میں 'جننو'، 'ہاں اے دل افسردا'،

‘پرچھائیاں، شامِ عیادت، ہندو لہ، فضا میں جیسے گلابی سی کوئی چھلا کا دے، وغیرہ کافی مشہور نظمیں ہیں۔ فراق نے غزلوں اور نظموں کے علاوہ رباعیاں بھی کہی ہیں۔ ان رباعیوں میں بھی انہوں نے زورِ بیان کا مظاہرہ کیا ہے۔ فراق کا احساسِ جمال ان رباعیوں میں چھلکتا ہے۔ انہوں نے غزلوں میں حسن و جمال کی جو تصویریں پیش کی ہیں وہی کیفیت ان کی رباعیوں میں بھی نظر آتی ہے۔ مجموعی طور پر فراق بیسویں صدی کے بڑے قد آور منفرد حیثیت کے شاعر ہیں ان کی مقبولیت اور کامیابی کا راز یہ ہے کہ انہوں نے اپنی شاعری میں قدیم اور جدید قدروں کی پاسداری کی اور شاعری میں ان موضوعات اور پہلوؤں کا انتخاب کیا۔ جن میں اپنے عہد کے جذبات اور احساسات کے ساتھ عصری تقاضے بھی شامل تھے۔

## فراق گورکھپوری

### غزل

(۱)

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| اک شرح حیات ہو گئی ہے     | آنکھوں میں جوبات ہو گئی ہے   |
| ہر چیز کی رات ہو گئی ہے   | جب دل کی وفات ہو گئی ہے      |
| کیوں غم سے نجات ہو گئی ہے | غم سے چھٹ کر یہ غم ہے مجھ کو |
| شاید کوئی بات ہو گئی ہے   | مُدت سے خبر ملی نہ دل کی     |
| تیری سواغات ہو گئی ہے     | جو چیز بھی مجھ کو ہاتھ آئی   |
| یمار کی رات ہو گئی ہے     | اس دور میں زندگی بشر کی      |
| مٹنے لگیں زندگی کی قدریں  | جب غم سے نجات ہو گئی ہے      |
| ایک ایک صفت فراق اُس کی   |                              |
| دیکھا ہے تو ذات ہو گئی ہے |                              |

فرق گورکھپوری

## غزل

(۲)

حریت سرائے عشق میں دن ہے نہ رات ہے      ہر کائنات سے یہ الگ کائنات ہے  
 اے درد ہجر! تو ہی بتا کتنی رات ہے      اب دور آسمان ہے، نہ دور حیات ہے  
 زندانِ عقل! تیری تو کیا کائنات ہے      توڑا ہے لامکاں کی حدود کو بھی عشق نے  
 یہ فرق مرگ و زیست تو کہنے کی بات ہے      ہستی کو تیرے درد نے کچھ اور کر دیا  
 کس کو دماغِ کاوشِ ذات و صفات ہے      یہ مؤشگافیاں ہیں گراں طبعِ عشق پر  
 عنوان غفلتوں کے ہیں، فرصت ہو یا وصال  
 بس فرصتِ حیاتِ فراق! ایک رات ہے

## مشکل الفاظ اور ان کے معانی

غزل(۱)

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| معانی                              | الفاظ     |
| زندگی کی تفسیر، زندگی کی وضاحت     | شرح حیات  |
| تحفہ، ہدیہ                         | سوغات     |
| قیمتیں، توقیر، اہمیت (قدرت کی جمع) | قدریں     |
| ہری بھری، ہر یا لی                 | برگِ نبات |

غزل(۲)

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| معانی                           | الفاظ      |
| دنیا، حقیقت                     | کائنات     |
| جدائی کا درد                    | دردِ بحر   |
| دوسراعالم، عالم قدس، خدا تعالیٰ | لامکاں     |
| عقل مند، فلسفی، عقل کے اسیر     | زندانِ عقل |
| موت اور زندگی                   | مرگ و زیست |
| کنٹہ چینی، چھان بین             | مؤشگا فیاں |
| وزنی، مشکل                      | گراں       |

## مشقی سوالات

**مختصر ترین سوالات:**

- ۱۔ فراق گورکھپوری کا پورا نام کیا تھا؟
- ۲۔ فراق کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟
- ۳۔ شاعر نے ہاتھ آئی چیز، کو کیا کہا ہے؟

**مختصر سوالات:**

- ۴۔ فراق کے مندرجہ ذیل شعر کا مطلب بتائیے۔  
اس دور میں زندگی بشر کی  
بیماری رات ہوئی ہے
- ۵۔ فراق گورکھپوری کو کونسا اہم ایوارڈ دیا گیا تھا؟ اور کب دیا گیا؟
- ۶۔ مندرجہ ذیل الفاظ میں سے سابقے اور لاحقے بتائیے۔  
شرحِ حیات، مرگِ نبات، زندانِ عقل، مرگِ وزیست

**تفصیلی سوالات:**

- ۷۔ فراق گورکھپوری کے حالاتِ زندگی پر روشنی ڈالیے اور ان کی شاعرانہ خوبیوں کو بھی بیان کیجیے۔
- ۸۔ شامل نصاب فراق کی پہلی غزل کے شعر نمبر ۳، ۷ اور ۸۔ اور دوسری غزل کے شعر نمبر ۱، ۲ اور ۴ کے مطلب لکھیے۔

ڈاکٹر معین الدین شاہین

## قصیدہ: صنف اور مختصر تاریخ

قصیدہ عربی لفظ ہے جس کے معنی لغت نویسون نے ”گاڑھا مغز“، ”مغز غلیظ“، او ”دلدار یا چربی دار گودا“ بتائے ہیں۔ بعض عالموں کا یہ بھی خیال ہے کہ قصیدہ لفظ ”قصد“ سے نکلا ہے۔ جس کا مطلب ”ارادہ کرنا“ ہوتا ہے۔ اصطلاح شاعری میں قصیدہ اس شعری تخلیق کو کہتے ہیں جس کے تحت شاعر کسی شخص کی مدح (تعزیف) یا مذمت (یعنی ہجاؤ برائی) کرتا ہے۔

اردو و فارسی میں عام طور پر قصیدہ کا لفظ اس نظم کے لیے استعمال ہوتا ہے جس میں کسی مرتبی یا بزرگ کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے۔ غزل کی طرح قصیدہ کا پہلا شعر مطلع کھلاتا ہے جس کے دونوں مصروع ہم ردیف و ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ قصیدہ میں اشعار کی تعداد معین یا مقرر نہیں ہوتی۔ قصیدہ ہر بحر میں کہا جاسکتا ہے۔ قصیدہ میں بھی غزل کی طرح شاعر مقطع کا اہتمام کرتا ہے۔

قصیدہ کی دو ہم فسمیں ہوتی ہیں، یعنی ”خطابیہ“ اور ”تمہیدیہ“ خطابیہ اس قصیدہ کو کہتے ہیں جس میں شاعر بغیر کسی تمہید کے اظہار مقصد کرتا ہے جبکہ تمہیدیہ قصیدہ اسے کہتے ہیں جس میں شاعر شروعات میں تمہید باندھتا ہے اور اس کے بعد مدد عابیان کرتا ہے۔ قصیدے میں پرشکوہ الفاظ اور بلند آہنگ کی اہمیت مسلم ہے۔ قصیدہ پانچ اجزاء ترکیبی پر مشتمل ہوتا ہے جس کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

### ۱۔ تشیبیب:

اسے نسیب یا تمہید بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں حسن و عشق، فلسفہ و حکمت، شراب و شباب، موسم بہار کی منظر کشی، خود شناسی، پند و نصیحت اور دنیا کی بے ثباتی یا کوئی دلکش مضمون باندھا جاتا ہے۔ غرض یہ کہ

تشیب کے موضوعات لامحمدود ہیں۔

۲۔ گریز :

تشیب کے بعد شاعر مرح کی طرف قدم بڑھانے سے پہلے گریز کے اشعار کہتا ہے۔ گریز  
تشیب اور مرح کو جوڑنے والی کڑی ہوتی ہے، جس سے ربط و تسلیل برقرار رہتا ہے۔

۳۔ مرح یا مدد :

صنف قصیدہ کا یہ سب سے اہم اور اصل حصہ ہوتا ہے۔ مرح میں شاعر عموماً اپنے مددوہ کی  
تعریف و ستائش کرتا ہے جس میں اس کے جاہ و جلال، شجاعت و سخاوت، علم و فضل اور عدل و انصاف وغیرہ  
کی تعریف ہوتی ہے۔ یہاں شاعر مبالغہ آمیز انداز بیان اختیار کرتا ہے۔ مرثیہ کی طرح یہاں بھی گھوڑے  
تلوار اور ہاتھیوں کی تعریف کی جاتی ہے۔ اگر کسی قصیدہ میں مدد ممت بیان کرنا مقصد ہو تو شاعر متعلقہ شخص  
کے عیب اور برا نیوں کو ظاہر کرتا ہے۔

۴۔ حُسن طلب، مدد عایا عرض مطلب :

شاعر قصیدہ کو انجام یا اختتام تک پہنچانے سے قبل اکثر ایسے اشعار تخلیق کرتا ہے جن میں اپنے  
مددوہ سے کسی طرح کی بخشش، اعزاز و اکرام یا صلح کی خواہش شامل ہوتی ہے۔

۵۔ دُعا :

یہ قصیدے کا آخری حصہ ہوتا ہے جس میں شاعر اپنے مددوہ کے لیے صحبت، سلامتی، درازی عمر اور  
خیر و عافیت کی دعا اور اس کے ذممنوں اور بد خواہوں کے لیے بدعکرتا ہے۔

اردو میں قصیدہ نگاری کا آغاز خطہ دکن میں ہوا۔ سلاطین بہمنی میں مشتاق اور لطفی نامی شاعروں  
نے قصیدہ گوئی کو رواج دیا۔ گول کنڈہ کے سلطان اور اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر محمد قلی قطب شاہ

ماں اور ان کے جانشین سلطان محمد قطب شاہ ظلیل اللہ کے علاوہ نصرتی، غواصی، ابن نشاٹی، مقتیمی، رستمی اور ولی جیسے بامال شاعروں نے قصیدہ گوئی کی روایت کو آگے بڑھایا۔

لکھنؤ میں انشاء اور مصححی نے قصیدہ نگاری کو بال و پر عطا کیے۔ مرزا محمد رفیع سودا قصیدہ نگاری کے آفتاب و ماہتاب تسلیم کیے جاتے ہیں۔ قصیدہ نگاری کا دوسرا اہم دورخالب، ذوق، مومن اور داروغہ کے عہد کو کہا جاتا ہے اُس عہد کے شعرائے کرام میں ”خاقانی ہند“، شیخ محمد ابراہیم ذوق کے قصیدے سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔

دبستان لکھنؤ سے متعلق شاعروں میں منیر شکوہ آبادی، امیر بینائی اور جلال لکھنؤ وغیرہ نے قصیدہ نگاری کے قافلے کو آگے بڑھایا۔ محسن کا کوروی اور عزیز لکھنؤ نے نعتیہ قصیدوں کے ذریعہ اردو میں قصیدہ نگاری کوئی آب و تاب بخشی۔

قصیدہ نگاری چونکہ درباروں اور ریاستوں سے وابستہ تھی اس لیے راجارجواؤں بادشاہوں نوابوں اور رئیسوں کے خاتمے کے ساتھ ہی اس صنف کا بھی زوال ہو گیا۔ اب اس کی حیثیت قصہ پارینہ کے سوا کچھ نہیں۔ لیکن اس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا کہ علم و ادب اور فنون لطیفہ کے فروغ میں قصیدہ نگاری کی حیثیت مضبوط کڑی جیسی رہی ہے۔

## مرزا محمد رفع سودا

مرزا محمد رفع نام، سودا تخلص۔ سودا کی ولادت ۱۷۸۱ء میں بمقام دہلی ہوئی۔ آپ کے والد کا نام مرزا محمد شفیع تھا، جو سوداگری کے لیے مشہور تھے۔ سودا نے اسی مناسبت سے اپنا تخلص سودا اپنایا۔ آپ کے بزرگوں کا وطن بخارا و کابل تھا لیکن سوداگری اور تجارت کی غرض سے انہوں نے ترکِ وطن کر کے ہندوستان کو اپنا وطن ثانی بنایا۔

سودا کی تعلیم و تربیت دہلی میں ہوئی آپ بڑے ذہین اور شوخ طالب علم تھے اس لیے کتابی علم پر مجلسی علم کو ترجیح دیتے تھے۔ انہیں اپنے وقت کے مروجہ علوم و فنون خصوصاً عربی، فارسی اور ترکی زبانوں میں مہارت حاصل تھی۔ جس وقت سودا کے والد کا انتقال ہوا تب سودا باغ ہو چکے تھے۔ سودا کے والد نے محنت و مشقت سے کمائی ہوئی بہت سی دولت ترک کے طور پر چھوڑی تھی لیکن سودا نے یار باشی اور احباب پرستی میں سب کچھ لٹا دیا۔ اسی لیے انہیں مجبوراً کبھی فوج میں نوکری کرنی پڑی اور کبھی مصاحب پیشہ ہونا پڑا۔ پہلے پہل وہ محمد شاہ کے خواجہ سرابست علی خاں کے ملازم ہوئے۔ پھر سیف الدولہ احمد علی خاں اور ان کے بعد عازی الدین خاں عmad الملک سے وابستہ ہوئے۔ جب دہلی میں قتل و غارت گری کا بازار گرم ہوا تو سودا دہلی سے فرخ آباد چلے گئے۔ اور نواب آصف الدولہ کے عہد میں لکھنؤ پہنچ۔ آصف الدولہ نے انہیں ”ملک الشرا“، کا خطاب دے کر چھ ہزار روپیہ سالانہ وظیفہ مقرر کر دیا۔ سودا نے ۱۷۸۱ء میں اس دارِ فانی سے کوچ کیا۔

سودا کو پچھن، ہی سے شاعری کا ذوق و شوق تھا۔ انہوں نے سب سے پہلے سلیمان قلی وداد سے مشورہ سخن کیا، پھر شاہ حاتم کے شاگرد ہوئے اور آخر میں خان آرزو سے اپنے کلام پر اصلاح لینے لگے

کثرتِ مشق نے جلد ہی سودا کو استادی کے مرتبے پر پہنچا دیا۔ سودا اردو کے مسلم الشبوت شاعر ہیں۔ انھوں نے اپنی شاعری کا آغاز غزل گوئی سے کیا اور میدانِ غزل میں بھر پور کمال دکھایا لیکن قصیدہ نگاری کو معراجِ کمال تک پہنچانے کے سبب آپ کی شہرت و مقبولیت میں اضافہ ہوا۔ مرثیہ نگار کی حیثیت سے بھی سودا کو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔

بحیثیتِ قصیدہ نگار اور بحونگار سودا کیتا اور لاٹانی نظر آتے ہیں۔ ان کے قصیدے نازک خیالی، بندش کی چستی، الفاظ و تراکیب کی ندرت، تشبیہات و استعارات کی جدّت، فصاحت و بلاغت اور سلاست و روانی کے عمدہ نمودنے قرار دیے جاتے ہیں۔ مشکل زمینوں میں کہے گئے ان کے قصیدوں میں وہ تمام خصوصیات ملتی ہیں جو کسی بھی قصیدے کی کامیابی کی ضمانت سمجھی جاتی ہیں۔ سودا نے ہر قسم کے قصیدے کہے ہیں۔ سودا کا قصیدہ ”اٹھ گیا بہمن ودے کا چنستان سے عمل“، حضرت علی کی منقبت کے بطور کہا گیا ہے۔ یہ قصیدہ ”باب الجھت“ کے نام سے مشہور ہے۔ اس قصیدے کے مطلع سے یہ علم ہوتا ہے کہ سودا کو حضرت علی کی ذات و الاصفات سے گہری عقیدت تھی۔ حضرت علی کے فضل و کمال اور شجاعت و سخاوت کا تذکرہ سودا نے جن پر شکوہ الفاظ میں سے کیا ہے اس کی داد دیتے ہوئے بنتا ہے۔ یہ قصیدہ سودا نے فارسی تصاند کی طرز اور ز میں میں کہا ہے، کیونکہ فارسی شعر اعریقی، شیرازی اور انوری نے انھیں ردیف و قوافی میں سودا سے قبل اپنے قصیدے پیش کیے تھے۔ سودا کے اس قدم کو ہم مستحسن قرار دے سکتے ہیں، کیونکہ ایک چراغ سے کئی دوسرے چراغ روشن ہوتے ہیں۔

مرزا محمد رفیع سودا

## قصیدہ باب الجنت (در منقبت حضرت علیؓ)

تبغ اُردي نے کیا ملکِ خزاں مستاصل  
دیکھ کر باغِ جہاں میں کرمِ عز وجل  
ڈال سے پات تلک پھول سے لے کرتا پھل  
آبجو قطعِ لگی کرنے روشن پر مخل  
پوشش چھینٹ قلمکار بہر دشت و جبل  
کار نقاشی مانی ہے دوم وہ اول  
ہار پہنا نے کو اشجار کے ہر سو بادل  
لوٹے ہے سبزہ پا ازبس کہ ہوا ہے بے کل  
شم سماں گرمی نظارہ سے جاتی ہے پکھل  
شاخ میں گاؤ زیں کے بھی جو پھوٹے کونپل  
خلق کے وہم غلط کار میں ٹھہرے ہے مثل  
اس یقین میں نہ گماں کر سکے زنہار خلل  
ہے عمل بھی وہی تیرا، جو خدا کا ہے عمل  
کرے تاثیر نہ عیسیٰ کا مداوا، نہ کسل  
ہوا شارہ جو ترا تیر قضا کو، کہ نہ چل  
ہاتھ سے، کام زمانے کے ہیں جائے نچل

اٹھ گیا بہمن ودے کا چمنستاں سے عمل  
سجدہ شکر میں ہے شاخِ شردار ہر اک  
وقت نامیہ لیتی ہے نباتات کا عرض  
واسطے خلعتِ نوروز کے ہر باغ کے پیچ  
بنختی ہے گلِ نو رستہ کی رنگ آمیزی  
عکسِ گلبن یہ زمیں پر ہے کہ جس کے آگے<sup>۱</sup>  
تار بارش میں پروتے ہیں گھر ہائے تنگرگ  
بارِ آبِ رواں عکسِ بجوم گل کے  
شاخ میں گل کی نزاکت یہ بہم پیچی ہے  
جو ش روئیدگی خاک سے کچھ دور نہیں  
تیری قدرت بہ جہاں قدرتِ حق کی خاطر  
مرضی حق، تیری مرضی سے ہے جوں جو هر فرد  
علم تیرا نہیں کچھ علمِ خدا سے باہر  
رائے تیری کے موافق، جو نہ لکھے نسخہ  
سر کے پیکاں نہ قبضے سے کماں کے سرِ مو  
ٹک تری مرضی سے باہر جو کرے کام جہاں

خانہ ہر دو جہاں پھر ہوں دو بیتِ مہمل  
 دولت ہر دو جہاں سے ہو غنی عبدِ اقل  
 ہووے جو شے تری اشیا میں سبھوں سے اسفل  
 اس کے درکا وہ گدا کہیے جسے اہلِ دَوَلَ  
 نظمِ تجھِ مدح کی بہترز کلامِ اوّل  
 پھولے تانامیہ سے شاخِ شجر میں کونپل  
 پاوے تائیرِ عظُم، شرفِ ازْ بُرْجِ حمل  
 تاچھادئے بہ ردش سبزہ، فروشِ محمل  
 گل کے جب تک رہے، غنچپ کی صراحی بے بغل  
 ساتھِ مُطرب کے بجے تا' دف و نے چنگ و دہل  
 راہ چلتے میں، قدمِ مست کا، تاجائے پھسل  
 گل سے خورشید کے، تاعشق رکھے دانہ طل  
 لطفِ بوئتا رہے عالم میں بہ چوبِ صندل  
 جب تک اس سے برآوے مری امیدِ داںل

خیلِ امید سے اپنے ہوں برومِ ندِ محبت  
 ہومجہت نہ تری جن کو نہ پاویں وہ پھل

معنیِ عِلَّتِ غَائِيَّ، جونہ ہو، تو اُن کا  
 سایہ میں دستِ کرم کے ترے ہر صبح و مسا  
 دین و دنیا کی ہے اشیا سے کہیں وہ اعلیٰ  
 جو گدا ہے بہ جہاں تیرے گداے درکا  
 چاہتا ہے کرے آخر وہ دعائیہ پر  
 بُرگ پیدا کرے تاباغ میں ہر ایک نہال  
 تاملے خلعتِ نوروز بہ بستانِ جہاں  
 تالب جو، پہ کرے، خیمہ کو استادہ حباب  
 شاخ کے ہاتھ میں تاہو، بہ چمن ساغرِ گل  
 تابہ مے خانہ، پییں بادہ، گلگلوں مے خوار  
 پھرے تاباغ میں، ہر اک روشن پُرسخوش  
 مہ کے پرتو سے ہو، تاچاک گریبانِ کتاب  
 قدر ہو، عود کی تا، مجرد آتش سے فروون  
 تامسکی رہے یہ نظم بہ بابِ الجنت

## مشکل الفاظ اور ان کے معانی

| معانی   | الفاظ                  |
|---|------------------------|
| رانج، رواج کے مطابق چلی آرہی                      | مروجہ                  |
| علم کی جمع یعنی طرح طرح کے علم                    | علوم                   |
| فن کی جمع یعنی مختلف قسم کے فن                    | فنون                   |
| حبيب کی جمع یعنی دوست، عزیز، پیارا                | احباب                  |
| جو ثبوت کا محتاج نہ ہو، مانا ہوا                  | مسلم الثبوت            |
| کسی چیز یا کیفیت و حالت کی زیادتی                 | بازارگرم ہونا (محاورہ) |
| بے مثال، بے نظیر، یگانہ، کیتا                     | لامثالی                |
| ضامن، گواہ، شاہد                                  | ضمان                   |
| نیک، پسندیدہ، خوب، بہتر                           | مستحسن                 |
| جنت کا دروازہ                                     | باب الجنت              |
| تعريف، ثنا  | مدح                    |
| حضرت علی، خلفاء راشدین اور دیگر بزرگان دین کی مدح | منقبت                  |
| کو منقبت کہتے ہیں                                 |                        |
| بہمن و دے   |                        |
| بہمن، چالاک، ذہین، برستا ہوا بادل دے،             |                        |
| شمسمی سال کا دسوال مہینہ، ماگھ                    |                        |
| پھلواری، گلزار، پھولوں کا قطعہ                    | چنستاں                 |

|              |  |
|--------------|--|
| عمل          | کام، دھندا، کاروبار، تعمیل                               |
| تنبغ اُردو   | تبغ، بمعنی تلوار یا شمشیر اُروی ایرانیوں کا دوسرا مہینہ  |
| ملکِ خزاں    | جو ہندی جیٹھ کے مطابق ہوتا ہے                            |
| مستاصل       | ملک، راج، ولایت، دلش، خزاں، پت جھڑ، فصل خریف             |
| سجدہ شکر     | جڑ سے اکھڑا ہوا، بر باد، بتاہ                            |
| شاخِ شمردار  | وہ سجدہ جو خدا کے حضور کسی بات کے شکرانے کے لیے کیا جائے |
| کرم عزّ و جل | پھلوں سے لدی ڈالی یا ٹھنپی                               |
| قوت نامیہ    | اللہ کی عنایت و مہربانی                                  |
| نباتات       | بڑھنے کی قوت و طاقت                                      |
| عرض          | نبات کی جمع یعنی سبزیاں، ترکاریاں                        |
| خلعت         | چوڑائی، پاٹ، گزارش، التماں                               |
| نوروز        | وہ پوشک جو بادشاہ یا امرا کی طرف سے بطور                 |
| آب جو        | عزت افزائی ملے، تحفہ، عطیہ، تحسین،                       |
| قطع کرنا     | سال کا پہلا دن، ایرانیوں کا قومی جشن                     |
| روش          | چشمہ، ندی، نہر کا پانی                                   |
| گل نورستہ    | کاشنا، تراشا، چھوڑنا                                     |
| رنگ آمیز     | طور، طریقہ، رفتار، ڈھنگ، چلن                             |
|              | نیا، تازہ اور نو خیز پھول                                |
|              | رنگ سازی، نقاشی، مصوری                                   |

|   |               |
|---|---------------|
| لباس، غلاف  | پوشش          |
| دشت، معنی جنگل، صحراء، بیابان،                            | دشت و جبل     |
| جبل، معنی پہاڑ  |               |
| پھولوں کی پرچھائی، سایہ، پرتو                             | عکس گل بن     |
| تصوری یا نقش و نگار بنانے کا کام، گل کاری                 | کارنقاشی      |
| (۲۷۶۲) کا ایک مشہور و معروف نقاش جو نبوت مانی             |               |
| کا جھوٹا دعویٰ کرتا تھا اور نقاشی کو اپنا مجذہ بتاتا تھا۔ |               |
| اولے یا تالے کی صورت میں برسنے والے موئی                  | گھر ہائے نگرگ |
| شجر کی جمع یعنی بہت سے درخت، پیڑ                          | اشجار         |
| بہتا ہوا پانی، ایک قسم کا باریک کپڑا                      | آب روائ       |
| بہت سے پھول یعنی گلشن گلزار، چمنستان                      | بیحوم گل      |
| بے چین، بے قرار، بے تاب                                   | بے کل         |
| شمیع کی طرح روشن اور نورانی                               | شمیع ساں      |
| حرارت، دیدار  | گرمی نظارہ    |
| نباتات (ہریاں) کے اگنے یا نمودار ہونے کا جوش              | جوشِ روئیدگی  |
| قدیم خیال کے مطابق وہ بیل جس کے ایک سینگ                  | گاؤز میں      |
| پر زمین رکھی ہوئی ہے                                      |               |
| شان خداوندی، اللہ تعالیٰ کی طاقت                          | قدرت حق       |
| دنیا کے لوگ، مخلوق آفرینش                                 | خلق           |

|          |  |
|----------|--|
| وہم      | شک، بے اعتباری، دماغ کی وہ قوت جو فاسد خیال پیدا کرتی ہے |
| مثل      | جیسا، ملتا جلتا، ہم شکل، یکساں                           |
| مرضی حق  | رضائے الہی، اللہ تعالیٰ کی مرضی                          |
| جوں      | جیسے مانند، مثل  |
| جوہر فرد | بے نظیر موتی، وہ جو ہر جس کا ثانی نہ ہو                  |
| گماں     | شک، بے اعتباری، وہم                                      |
| زنهار    | ہرگز، کبھی نہیں، خبردار                                  |
| خلل      | خرابی، رختہ، سودا، دیوانگی                               |
| موافق    | مطابق، یکساں، برابر، مشابہ                               |
| نسخہ     | کاغذ کا وہ پر زہ جس پر طبیب دو اتجویز کرتا ہے            |
| تاثیر    | اثر، نتیجہ، پھل، خاصیت                                   |
| مداوا    | علاج، دوا، معالجہ، درمان، چارہ                           |
| کسل      | سستی، کاہلی، تھکان، تھکاوت                               |
| پیکاں    | برچھی یا بھالے کی انی، نیزے کی نوک                       |
| کماں     | خمیدہ، چک دار، قیادت، سرداری                             |
| سرمو     | بال کے برابر بال کے مانند                                |
| تیرقضا   | قضا کا حملہ، موت   |
| ٹک       | ذراء، کچھ، تھوڑا   |
| علت غائی | نتیجہ، مقصود اصلی، حاصل، پھل                             |

|            |   |
|------------|---|
| خانہ       | گھر، مکان، بیت  |
| ہر دو جہاں | دونوں جہاں، یعنی دنیا و عقبی  |
| دو بیت     | دوا شعار، یعنی چار مصرے   |
| مہمل       | ترک کیا ہوا، بیکار، فضول، بے معنی   |
| سایہ       | چھاؤں، پرتو، حفاظت، حمایت، سر پرستی   |
| دستِ کرم   | عنایت و مہربانی کا ہاتھ   |
| صحح و مسا  | صحح و شام   |
| غُنی       | آسودہ، دولت مند، مطمئن، بے نیاز   |
| عبد اقل    | عبد بمعنی بندہ، غلام، ملازم، خادم اقل، بے معنی بہت تھوڑا، کم سے کم، قلیل ترین |
| اسیا       | شیئے کی جمع، یعنی چیزیں   |
| اسفل       | نہایت نیچا، ادنیٰ   |
| گدا        | فقیر، بھکاری، منگتا   |
| در         | چوکھٹ، دروازہ   |
| اہلِ دَوَل | دولت مند، مال دار   |
| دعائیہ     | دعا سے منسوب، قصیدے کے وہ اشعار جو بطور دعا کے کہے جاتے ہیں                   |
| برگ        | پتہ، ورق  |
| نہال       | تازہ لگایا ہوا پودہ، خوش و خرم  |

|  |            |
|--|------------|
| تک، تاکہ، جب تک                            | تا         |
| درخت کی ٹہنی یا ڈالی                       | شاخ، شجر   |
| ندی کا کنارہ                               | لپ، جو     |
| ڈیرہ، تنبو، خرگاہ                          | خیمہ       |
| کھڑا ہوا                                   | استادہ     |
| پانی کا بلبلہ                              | حباب       |
| چمکتی ہوئی شادابی یا ہریالی                | روش سبزہ   |
| محملاً کی فرش، مخملی زمین                  | فروش، محمل |
| پھولوں بھرا شراب کا پیالہ                  | ساغرِ گل   |
| بغل یا پہلو میں                            | بغل        |
| شراب خانہ، میکدہ                           | مے خانہ    |
| گلاب کی طرح، سرخ رنگ کا                    | گلگلوں     |
| میکش، شراب پینے والا، بادۂ کش              | مے خوار    |
| گانے والا گویا                             | مُطرب      |
| دف: ایک ہاتھ سے بجانے والا ساز، نے بانسری  | دفونے      |
| ڈھول، نقّارہ، ستار کی قسم کا ایک باجہ      | چنگ و دہل  |
| خوش حال، مسروز، مگن                        | سرخوش      |
| چاند، قمر، ماہتاب                          | مه         |
| ایک قسم کا باریک کپڑا، جس کی نسبت مشہور ہے | کتاب       |

|   |                |
|---|----------------|
| کہ چاندنی میں لکڑے لکڑے ہو جاتا ہے                    |                |
| سورج، آفتاب، مہر                                      | خورشید         |
| سو نے کا دانہ سنہری دانہ                              | دانہ طل        |
| ایک قسم کی عمدہ لکڑی جو آگ میں جل کر عمدہ خوبصورتی ہے | عُود           |
| وہ برتن جس میں خوبصوردار چیزیں جلاتے ہیں، عود دان     | مُحْمَر و آتش  |
| زیادہ بڑھا ہوا  | فزوں           |
| خوش بو کی لذت یا مزہ                                  | لطفِ بو        |
| صندل کی لکڑی  | چوبِ صندل      |
| موسوم کیا گیا، نام رکھا گیا، پکارا گیا                | مسٹی           |
| آرزو، خواہش، تمنا                                     | امید و امل     |
| امید یا خواہش کا درخت                                 | نخل امید       |
| حاصل ہونا، پورا ہونا                                  | برآؤے (محاورہ) |
| پھل پانے والا، فائدہ اٹھانے والا                      | برومند         |
| محبت کرنے والا، مشقق، شفیق                            | محب            |

## مشقی سوالات

**مختصر ترین سوالات:**

- ۱۔ قصیدہ ”اٹھ گیا بہمن ودے کا چنستان سے عمل“، کس کی مدح میں لکھا گیا ہے؟
- ۲۔ سودا کا پورا نام لکھیے۔
- ۳۔ قصیدہ ”اٹھ گیا بہمن ودے کا چنستان سے عمل“، کس نام سے مشہور ہے؟

**مختصر سوالات:**

- ۴۔ سودا نے اپنا تخلص سودا کیوں رکھا تھا؟
- ۵۔ مانی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟
- ۶۔ لفظ ”خورشید“ کے مترا دف الفاظ لکھیے۔

**تفصیلی سوالات:**

- ۷۔ سودا کی قصیدہ نگاری کی خصوصیات بتائیے۔
- ۸۔ سودا کے حالات زندگی تحریر کیجیے۔

## محمد ابراہیم ذوق

شیخ محمد ابراہیم نام، ذوق تخلص۔ ۱۸۷۱ء میں بمقام دہلی پیدا ہوئے۔ ذوق کے والد کا نام شیخ محمد رمضان تھا جو سپاہی کے عہدے پر مقرر رہتے۔ ذوق کی ابتدائی تعلیم حافظ غلام رسول شوق کے مکتب میں ہوئی۔ حافظ صاحب چونکہ خود بھی شاعر تھے اس لیے ان کے یہاں شعروخن کی محفلیں آرائی ہوتی رہتی تھیں۔ تاہم ذوق کو بھی بچپن سے شاعری کا چسکا لگ گیا۔ وہ اپنے کلام پر حافظ غلام رسول شوق سے اصلاح لینے لگے اور استاد کے تخلص کی رعایت سے ذوق تخلص اپنالیا۔

حافظ غلام رسول شوق کے مکتب سے تعلیم مکمل کر کے ذوق مولوی عبدالرزاق کے مدرسے میں داخل ہوئے۔ یہاں ذوق کی ملاقات مولانا محمد باقر اور میر کاظم حسین بے قرار سے ہوئی اور چند دنوں میں ملاقات دوستی میں بدل گئی۔ چونکہ میر کاظم حسین شاہ نصیر دہلوی کے شاگرد تھے، اس لیے ذوق نے بھی نصیر دہلوی کی شاگردی اختیار کر لی۔ اب ذوق کی شاعری کو پر لگنے لگے۔ ۱۹۱۶ء برس کی عمر میں ذوق کی رسائی آخری مغل تاجدار بہادر شاہ ظفر تک ہوئی۔ ظفر نے ذوق کی صلاحیتوں سے متاثر ہو کر انھیں اپنا استاد تھنخ بنالیا۔

ذوق کی شاعرانہ شخصیت کے پیش نظر اکبر شاہ ثانی نے انھیں ”خاقانی ہند“ اور بہادر شاہ ظفر نے ”ملک الشعرا“ کے خطاب سے نوازا۔ ذوق نے اپنے پیش ترقیہ کے بہادر شاہ ظفر کی مدح میں کہے ہیں۔ عجم و انساری، قناعت پسندی اور درویش صفت طبیعت کے مالک ذوق کا انتقال ۱۵ اکتوبر ۱۸۳۵ء کو بمقام دہلی ہوا اور ذوق دہلی میں ہی پیوندِ خاک ہوئے۔

ذوق بلند پایہ شاعر تھے، انہوں نے جملہ اصناف میں طبع آزمائی کی لیکن انھیں قصیدہ نگار کی

حیثیت سے زیادہ شہرت ملی۔ ذوق کے قصیدے الفاظ و معنی کا بھر پور ذخیرہ ہیں۔ ان کی ممتازت و سنجیدگی کی وجہ سے یہ قصیدے مضمکہ خیز نہیں ہوتے۔ الفاظ کی بندش، زبان کی صفائی، محاوروں کا برعکس استعمال اور علمی اصطلاحات نے ذوق کے قصیدوں کو پُروقار بنادیا ہے۔ ذوق کے قصائد سے معلوم ہوتا ہے کہ انھیں فن موسیقی، علم، فقه، علم طب، فلسفہ، حدیث اور تاریخ وغیرہ میں بھی قدرت حاصل تھی۔ ذوق نے سنگلاخ اور مشکل زمینوں میں قصیدے کہہ کر اپنی شاعری کا لوہا منوالیا ہے۔ اُن کے دیوان اور کلیات شائع ہو چکے ہیں جن میں دیگر اصناف کے ساتھ قصیدوں کی خاصی تعداد ہے۔

ذوق کا قصیدہ ”ساون“ میں دیا پھر مہ شوال دکھائی، بہادر شاہ ظفر کی مدح میں کہا گیا ہے۔ اس قصیدے کا شمار ذوق کے بہترین قصیدوں میں ہوتا ہے۔ اس قصیدے کی تشییب میں ذوق نے ساون کے مہینے کی رِم جہنم کا پُرسرو اور پر کیف منظر دکھایا ہے۔

شاعر کہتا ہے کہ عید کے چاند کی خوشی موسم کی خوش گواری کے سبب دو بالہ ہو گئی ہے۔ ہوا کی تاثیر اور باغ کی آرائش کا بیان ذوق کی قوت شاعرانہ کا چیتا جا گتا ثبوت ہے۔

اس قصیدے کی گریز اور مدح کے اشعار بھی قابل تعریف ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ اے بادشاہ تیرے دیدار سے مشرف ہو کر تمام عالم عید منار ہا ہے۔ ہم جسے عید کا چاند کہتے ہیں دراصل وہ تیرے ابرو کا عکس ہے تیرے مقام و مرتبے کا یہ عالم ہے کہ بادشاہ جمیل اپنی بزم عیش و عشرت کو تیرے عکس سے ادھار لے کر رونق بخشتا ہے۔

قصیدے کے آخر میں ذوق اپنے مددوں بہادر شاہ ظفر کو دعا دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے بہادر شاہ میں ٹھیک طرح سے یا مکمل طور پر تیری تعریف نہیں کر سکا۔ اے بادشاہ تیری جلوہ نمائی اور دیدار ہمیں اسی طرح شان و شوکت کے ساتھ ہر عید کے موقع پر ہوتے رہیں۔ تیری رعایا ہمیشہ تجھ سے فیض یاب ہو اور تو اسی طرح مند شاہی پر جلوہ افروز ہو کر اس کی رونق بڑھاتا رہے۔

شیخ محمد ابراہیم ذوق

## قصیدہ در مدح بہادر شاہ ظفر

برسات میں عید آئی، قدح کش کی بن آئی  
ساقی کو کہ بھر بادھ سے کشتی طلائی  
کس رنگ سے ہوں ہاتھ، نہ مے کش کے حنائی  
ساقی نے ہے آتش سے منے تیز اڑائی  
ہووے نہ مُمیز، گُرّہ ناری و مائی  
ہر نالے کی ہے دشت میں دریا پہ چڑھائی  
تالاب سمندر کو کرے چشم نمائی  
کافور کی تاثیر گئی، جو زمیں پائی  
معشوق کا گھر ہاتھ میں ہے دستِ حنائی  
گردوں پہ ہے خورشید کا بھی دیدہ ہوائی  
ہے مدرسہ میں بھی، سبقِ صرف ہوائی  
زادہ کا بھی ہر دانہ تسبیحِ ریائی  
گویا کہ ہے مینائے مے کا ہ رُبائی  
کرتی ہے نسیم آکے، کبھی لٹکا سائی

ساوان میں دیا، پھر مہ شوال دھائی  
کرتا ہے ہلال، ابروئے پُرم سے اشارہ  
ہے عکس فگن جام بلوریں سے مے سُرخ  
کوندے ہے جوبکلی، تو یہ سوچھے ہے نشہ میں  
یہ جوش ہے باراں کا کہ افلک کے نیچے  
پہنچا کمک لشکر باراں سے یہ زور  
ہر قلزم عمماں پہ لب جو، مُنبیسم  
ہے کثرت باراں سے ہوئی عام یہ سردی  
سردی حنا پہنچے ہے، عاشق کے جگر تک  
عالم یہ ہوا کا ہے، کہ تاثیر ہوا سے  
کیا صرف ہوا ہے طرب و عیش کا عالم  
خالی نہیں مے سے، روشن دانہ انگور  
جو آئینہ دل ہے، وہ عاشق کی بغل میں  
کرتی ہے صبا آکے کبھی مشک فشاںی

سپزہ نے وہاں محملِ خوش رنگ بچھائی  
عالم نے تجھے دیکھ کے ہے عید منائی  
کی آئینہ چرخ میں ہے عکس نمائی  
لے ساغر جہشید کرے کارِ روائی  
ہو مثلِ فلک جس میں تماثلائی خدائی  
دریا کی کہاں ہو سکے، کاسہ میں سمائی  
احسنٰت کہیں سن کے، بہائی وسائی  
جس طرح کہ مصحف ہو، سرِ حل طلائی  
ہے بحر بھی کشتی بہ کف، از بہر گدائی  
رہزن بھی اگر ہو، تو کرے راہ نمائی  
شمیں کی ترے ہو، نہ کبھی عقدہ کشائی  
گر چرخ کرے، درکی ترے ناصیہ سائی  
کرتا ہے کفِ آئینہ اعجاز نمائی  
پروانہ کو بھی شمع نے انگلی نہ لگائی  
خون ریز کو ہو عہد میں تیرے نہ رہائی  
ہے ذہنِ رساؤ کو، یہ کہاں اس کے رسائی

ہر سال شہا! ہو وے مبارک یہ تجھے عید  
تو مسندِ شاہی پر کرے جلوہ نمائی

تھا سوزنی خار کا، صحراء میں جہاں فرش  
شہا! ترے جلوے سے ہے یہ عید کو رونق  
کہتے ہیں مہِ نو جسے ابرو نے وہ تیری  
پرتو سے تیرے جام میں عیش سر بزم  
ٹپکے لب ساغر سے، وہ قطر کر دی شکل  
کیا علم سمائے ترا، سینہ میں فلک کے  
پڑھتا ہوں ترے سامنے وہ مطلع موزوں  
یوں کرسی زر پر ہے تیری جلوہ نمائی  
رکھتا ہے تو وہ دستِ سخا سامنے جس کے  
گمراہ کو ہدایت، جو تیری راہ پر لائے  
تا ناخن شمشیر، نہ ہو ناخنِ تدیر  
خورشید سے افزوں ہو، نشاں سجدہ کا روشن  
عکسِ رُخِ روشن سے تیرے جوں پر بیضا  
مانع جو ہوا دستِ درازی کو ترا عدل  
زنجیر میں جو ہر کے رہے تفعیل  
دیتا ہے دعا ذوق کو مضمونِ شنا میں

## مشکل الفاظ اور ان کے معانی

| الفاظ                | معانی  |
|----------------------|--|
| آراستہ               | سبجا ہوا، سنوارا ہوا   |
| رعایت                | لحاظ، خیال، مناسبت   |
| خطاب                 | تعریف کے طور پر اچھا نام، کسی بادشاہ یا حکومت کی طرف سے دیا گیا اعزازی نام |
| بلند پایہ            | عاليٰ مقام، عاليٰ رتبہ   |
| جملہ                 | تمام، گل   |
| مضحکہ خیز            | ہنسی مذاق میں ڈالنے والی بات   |
| برحل                 | وقت یا موقع کے عین مطابق   |
| علم نجوم             | ستاروں کا علم  |
| علم فقه              | علم دین، شریعت کا علم  |
| سنگلاخ               | مشکل، دشوار، پتھر جیسی سخت   |
| لوہا منوانا (محاورہ) | کسی کی اسٹادی کا قائل ہونا، کسی کو اپنے سے بڑا منانا                       |
| کلیات                | کل کی جمع یعنی ایک ہی شخص کی منظومات یا تصنیفات کا مجموعہ                  |
| مشرف                 | معزّز، عزّت بخش گیا  |
| جلوہ افروز           | خاص بناؤ سنگھاریا ج دھج کے ساتھ سامنے آنا،                                 |

|  |                  |
|--|------------------|
| کسی مخصوص انداز کے ساتھ نمودار ہونا                  | مہہ شوال         |
| عید کا چاند، دسوال قمری مہینہ                        | قدح کش           |
| شراب پینے والا                                       | ہلال             |
| چاند   | ساقی             |
| شراب پلانے والا                                      | بادہ             |
| شراب   | کشتی طلائی       |
| سنہری سونے کی کشتی یعنی شراب کا پیالہ                | جام بلوری        |
| بلوری (صف شفاف پتھر) کا پیالہ جس میں شراب پی جاتی ہے | مے سُرخ          |
| سُرخ شراب  | مے کش            |
| شراب پینے والا                                       | حنائی            |
| مہندی کا رنگ یعنی سُرخ رنگ                           | مے تیز           |
| تیز شراب   | باراں            |
| بارش   | ممیز             |
| ایک چیز کے مقابل میں دوسری چیز میں فرق ہونا          | گُرہ ناری و مائی |
| آگ اور بجلی  | قلزم عمماں       |
| ایک نہر کا نام                                       | متقبسم           |
| مسکرانے والا   | چشم نمائی        |
| آنکھیں دکھانا  | کافور            |
| کپور۔ نام ایک خوبیوکا۔ بہشت کا ایک ٹھنڈا چشمہ        |                  |

|  |             |
|--|-------------|
| ہاتھ کی مہندی                                      | دستِ حنائی  |
| آسمان  | گردوں       |
| مجازِ آباغ کی پڑی                                  | طرز         |
| عبادت گزار   | زاہد        |
| دکھاوے کی تسبیح                                    | تسبیح ریائی |
| ایک چشمہ جو ہوا لگنے سے جم جاتا ہے                 | کاہِ ربائی  |
| خوبصورتی کی پھیلانا                                | مشک فشنائی  |
| مختلف خوبصوروں کو بکھیر دینا                       | لخنخہ سائی  |
| کانٹوں کا جال                                      | سوزنی خار   |
| عکس  | پرتو        |
| بادشاہ کا ساغر (شراب کا پیالہ)                     | ساغر جمشید  |
| پیالہ  | کاسہ        |
| بہت خوب  | احسن        |
| قرآن شریف، آسمانی کتابیں                           | مصحف        |
| لکڑی کی حل (جس پر قرآن شریف رکھ کر تلاوت کرتے ہیں) | حل          |
| سخنی ہاتھ، بخشش                                    | دستِ سخا    |
| دریا   | بحر         |
| ہاتھ پھیلانا                                       | بکف         |
| لیے  | واسطے       |

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| مانگنا                               | گدائی       |
| راز جاننا                            | عقدہ کشائی  |
| زیادہ                                | افزوں       |
| سجدے کرنا                            | ناصیہ سائی  |
| ہاتھ روشن اور سفید                   | پد بیضا     |
| کر شمشہ دکھانا                       | اعجاز نمائی |
| ایک پرندہ، عنقا جو بہت اونچائی پر ہو | سیمرغ       |
| منع کرنے والا، روکنے والا            | مانع        |
| انصاف                                | عدل         |
| خون گرانے والا، خونی                 | خوزریز      |
| تعریف                                | ثناء        |
| پہنچنے والا                          | رسا         |
| پہنچ                                 | رسائی       |

## مشقی سوالات

**مختصر ترین سوالات:**

- ۱۔ ”مہ شوال“ کسے کہتے ہیں؟
- ۲۔ قصیدہ ”ساون میں دیا پھر مہ شوال دکھائی“، کس کی مدح میں لکھا گیا؟
- ۳۔ بہادر شاہ ظفر نے ذوق کو کس خطاب سے نواز اٹھا؟

**مختصر سوالات:**

- ۴۔ لفظ ”خوں ریز“ کے دو مترادف الفاظ لکھیے۔
- ۵۔ لفظ ”ہلال“ کے دو مقتضاد الفاظ لکھیے۔
- ۶۔ ذوق کی تاریخ ولادت و وفات مع مقام تحریر کیجیے۔

**تفصیلی سوالات:**

- ۷۔ قصیدہ ”ساون میں دیا پھر مہ شوال دکھائی“، کے ابتدائی پانچ اشعار کی تشریع کیجیے۔
- ۸۔ قصیدے کے اجزاء کے ترکیبی تحریر کیجیے۔

ڈاکٹر قائد علی خاں

## مرثیہ تعریف و تاریخ

مرثیہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ جس کے معنی کسی مرنے والے کی تعریف اور توصیف کر کے اس پر غم کا اظہار کیا جانا ہے۔ اردو میں بیشتر مرثیے حضرت امام حسینؑ اور شہدائے کربلا پر لکھے گئے ہیں۔ اسلامی تاریخ میں کربلا کا واقعہ ایک بڑا سانحہ ہے جس میں پیغمبر اسلام حضرت محمدؐ کے پیارے نواسوں اور ان کے رفقا کی شہادت کا درد انگیز اور پُر آشوب واقعہ پیش آیا۔ اسی دردناک اور الم ناک واقعہ کو مرثیہ کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے۔ اردو میں مرثیہ کا آغاز دکن سے ہوا۔

ڈاکٹر رشید موسوی نے برہان الدین جانم کو پہلا مرثیہ گو قرار دیا ہے۔ قلی قطب شاہ جوار دوکا پہلا صاحبِ دیوان شاعر ہے اور جس کے دیوان میں پانچ مرثیے شامل ہیں بعض موئین جین نے قلی قطب شاہ کو ہی پہلا مرثیہ گو تسلیم کیا ہے۔

تاریخی اعتبار سے سب سے پہلے مرثیے عرب میں دورِ جاہلیت میں لکھے گئے اس کے بعد ایران میں مرثیہ گوئی کو فروغ ملا جہاں مختشم کاشی اور ملام قبائل نے اسی روایت کو آگے بڑھایا۔ اردو میں مرثیے کے نقوش زبان کی ابتداء سے ہی ملتے ہیں۔ دکن میں عادل شاہی، قطب شاہی اور نظام شاہی حکومتوں کے دور میں مرثیہ گوئی کا خوب رواج تھا۔ دکن کے کم و بیش ہر چھوٹے بڑے شاعر نے سانحہ کربلا پر اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے۔ شمالی ہند میں فضلی نے اردو نشر کی پہلی تصنیف ”کربلا کتھا“ میں بھی واقعاتِ کربلا پیش کیا ہے۔ شمالی ہند میں محمد شاہ کے عہد میں جو مرثیے لکھے گئے ان میں مسکین، حزیں اور غمگین وغیرہ کے نام

قابل ذکر ہیں۔ دہلی میں میر اور سودا نے اپنی عمر کے آخری دور میں لکھنؤ آ کر بڑے جوش اور عقیدت سے لبریز مرثیے کہے۔ سودا نے کل ۲۷ مرثیے لکھے ہیں۔ انہوں نے مرثیہ میں سب سے پہلے مسدس کی بہیت (Form) استعمال کی جو بعد میں مرثیوں کے لیے مخصوص ہو گئی۔ میر نے بھی اپنے مرثیوں میں شہادت کے پہلو کو تجویز پیش کیا ہے۔

شمائل ہند میں میر اور سودا کے بعد تقریباً ہر شاعر نے مرثیے کہے ہیں۔ لکھنؤ میں میر حسن، میر امان، درخشان، صبر وغیرہ نے بھی اردو مرثیہ کی روایت کو آگے بڑھایا۔ یہاں قابل ذکر ترقی میر ضمیر کے ہاتھوں ہوئی۔ ضمیر نے نہ صرف واقعاتِ کربلا کو شاعرانہ استدلال کے ساتھ پیش کیا بلکہ اس میں فتنی لوازمات یعنی اجزاء ترکیبی بھی متعین کیے جو بعد میں اردو مرثیہ نگاری میں لازمی قرار دیے گئے۔ اسی دور کے نامور اور مقبول شعراء میں خلائق اور فتح بھی تھے جنہوں نے اردو مرثیے میں اضافہ کیا۔ ضمیر، خلائق اور فتح کا عہد لکھنؤ کا عروج تو نہیں کہا جا سکتا لیکن مرثیہ نگاری کی سب سے تابناک دور کی ہمواری کا دور کہا جا سکتا ہے۔ چونکہ یہ زمانہ لکھنؤ میں نوابوں کا زمانہ تھا جو فرقہ امامیہ (شیعہ) کے پیروٰ تھے اور جو حضرت امام حسینؑ اور شہدائے کربلا سے بے حد محبت و عقیدت رکھتے تھے اس لیے مرثیہ نگاروں کو درباری سرپرستی بھی حاصل ہوئی۔

لکھنؤ میں اردو مرثیہ نگاری کا ایک اہم دور میر انس اور میرزادہ بیر سے شروع ہوا جسے اردو مرثیہ کا سنبھالی دوڑ کہا جا سکتا ہے۔ حالاں کہ اس وقت مرثیے کی ترقی یافیۃ شکل ان کے سامنے تھی لیکن دونوں شاعرانے جوش و عقیدت کے والہانہ پن، خیالات کی جدت، زورِ بیان، فصاحت و بلاغت، نادر تشبیہات، استعارات، چست الفاظ، محاوروں کے ساتھ جذبات نگاری، واقعہ نگاری اور مناظرِ فطرت کے اعلیٰ نمونے پیش کر اردو مرثیہ کو با معرفت عطا کیا۔ انس اور دبیر کے بعد پیارے صاحبِ رشید کا نام آتا ہے جنہوں نے مرثیوں میں ساقی نامہ اور بہاریہ کلام پیش کیا۔ شاد نے تصوف والہیات کے مضامین

باندھے۔ اس کے علاوہ موسیٰ، گدا، افسر دہ، حیدری، سکندر، نفیس، وحید، اونج، چھنواں، دلگیر اور فتح وغیرہ نے بھی مرثیہ گوئی کی روایت کو آگے بڑھایا۔

عام طور پر مرثیے واقعاتِ کربلا اور حضرت امام حسینؑ یا ان کے اعزہ و رفقا کی شہادت کے موضوع پر کہے جاتے ہیں لیکن اردو میں شخصی، قومی اور غیر مذہبی مرثیوں کی بھی کمی نہیں ہے۔ جہاں تک شخصی مرثیوں کی بات ہے تو اس سلسلے میں حالی، اقبال، سرور جہاں آبادی، چکبست، صفحی لکھنؤی وغیرہ کے نام بطور خاص لیے جاسکتے ہیں۔ جنہوں نے مختلف علمی، ادبی اور سیاسی شخصیتوں کی وفات پر اپنے جذباتِ غم کا اظہار کیا ہے۔

شخصی مرثیوں میں مولانا حالی کا ”مرثیہ غالب“ اور علامہ اقبال کا ”مرثیہ داعی“ بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ دونوں مرثیے اپنے استاذہ کی وفات پر لکھے گئے، جن میں اپنے غم اور قلبی واردات کو بڑی عقیدت کے ساتھ پیش کیا ہے۔

شاملی نصاب مرثیہ موسوم ب ”مرثیہ غالب“ اردو کے شاہکار شخصی مرثیوں میں شمار ہوتا ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی جو غالب سے والہانہ عقیدت رکھتے تھے اور آپ کے شاگرد کے ساتھ بڑے اچھے دوست بھی تھے۔ جب بھی دہلی میں رہے غالب کی صحبت سے فیض اٹھاتے۔ حالی اپنے استاد غالب اور ان کی شاعرانہ عظمت کے قائل تھے۔ جب ۱۸۶۹ء میں غالب کے انتقال کی خبر ہوئی تو انھیں اپنے فاضل استاد کی موت کا گھر احمدہ ہوا چنانچہ انہوں نے اپنے غم اور صدمہ کا اظہار اس مرثیہ کی شکل میں کر کے غالب کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔

## میر انیس

میر برعلي نام انیس تخلص تھا۔ ۱۸۰۲ء میں فیض آباد میں پیدا ہوئے۔ میر خلیق کے فرزند اور میر حسن کے پوتے اور میر صاحک کے پرپوتے تھے۔ گویا انیس کو شاعری ورثتہ میں ملی۔ آپ کے دادا میر حسن اپنی مشنوی ”سحرالبیان“ کے لیے بہت مشہور ہیں۔ آپ کے والد خلیق بھی اپنے عہد کے ممتاز شعرا میں شمار ہوتے ہیں۔ انیس نے ابتدائی کتابیں مولوی حیدر علی سے اور عربی کا درس میر عباس سے لیا۔ گھر میں ہر وقت شعروں سخن کے چرچے رہتے تھے الہذا اس ماحول کا اثر انیس پر پڑنا لازمی تھا۔ چنانچہ میر انیس نے اول عمری سے شعر کہنا شروع کیا۔ پہلے اپنے والد سے اصلاح لی پھر والد کے کہنے پر امام بخش ناسخ سے شرفِ تلمذ حاصل کیا۔ ابتداء میں میر انیس کا حزیں تخلص تھا بعد میں ناسخ کی ناپسندیدگی کے سبب انیس اختیار کیا۔

میر انیس نے اپنی شاعری کا آغاز غزل گوئی سے کیا لیکن اپنے والد کی اصلاح پر بہت جلد اس سے کنارہ کر سلام اور مرثیوں کی طرف اپنی توجہ مبذول کی۔ انیس نے پہلا سلام نوسال کی عمر میں کہا۔ جوانی کے زمانے میں ان کا پورا خاندان لکھنؤ میں سکونت پذیر ہوا۔ اور یہیں تا عمر انیس نے اپنی شاعری کے جو ہر دکھائے۔ جب تک لکھنؤ آباد رہا میر انیس یہاں سے کہیں نہیں گئے جب لکھنؤ اجزا تو وہ پٹنہ، بنارس، الہ آباد اور حیدر آباد بھی گئے اور ہر جگہ ان کی قدر و منزلت ہوئی۔

انیس ورزش کے بہت شوقین تھے انہوں نے فن شہسواری اور سپہ گری کی بھی تعلیم حاصل کی۔ جو ان کی شاعری میں کافی مددگار ثابت ہوئی۔ وہ مزاج کے اعتبار سے بڑے خلیق اور وضع دار انسان تھے۔ خودداری کے سبب اکثر امیروں سے ملنے میں اجتناب کرتے تھے۔ کبھی کسی کی خوشامد میں شعر نہیں کہے۔ محمد حسین آزاد نے ’آبِ حیات‘ میں میر انیس کے مرثیوں کی تعداد کم سے کم دس ہزار بتائی ہے۔ جب کہ

امیر احمد دہلوی نے یادگارِ انیس میں مراثی کی کل تعداد چودہ سو بتائی ہے۔ ڈاکٹر صفتِ حسین نے ان کی تعداد دو سو پچاس بتائی ہے شاید یہ تعداد ان کے مطبوعہ کلام کی ہو۔ بہر کیف میر انیس نے کثیر تعداد میں مرثیہ کہے ہیں۔ انیس کے مرثیوں کی چار خیم جلدیں شائع ہو چکی ہیں۔

انیس نے مرثیوں کے علاوہ غزلیں، رباعیات، قطعات اور سلام بھی خوب کہے ہیں۔ بالخصوص رباعیات بڑی پایہ کی کہی ہیں مگر ان کو اصل شہرت مرثیوں کی وجہ سے نصیب ہوئی۔ میر انیس نے اردو مرثیہ میں تمام فنی لوازمات کو مکالاتِ فن کے ساتھ پیش کیا ہے۔ ان کے مرثیوں میں فصاحت و بلاغت کا غضیر ہر جگہ نمایاں ہے۔ وہ فارسی تراکیب اور محاوروں کا برعکس استعمال کرتے ہیں۔ صنائعِ بدائع نیز رعایتِ لفظی ان کی شاعری کی جان ہیں۔ وہ الفاظ کوشوروں میں اس طرح پروتے ہیں کہ اس کی معنویت اور بڑھ جاتی ہے۔ وہ شاعری میں مصوری سے کام لیتے ہیں۔ تصویر بھی ایسی بناتے ہیں جو حقیقی معلوم ہوتی ہیں۔ مناظرِ فطرت کو اس خوبی سے پیش کرتے ہیں گویا قاری اس منظر کو آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہے۔ رزم و بزم کا نقشہ اس طرح پیش کرتے ہیں کہ سننے والے پروجد طاری ہو جاتا ہے۔ بقولِ خود

رزم ایسی ہو کہ دل سب کے بھڑک جائیں ابھی

بجلیاں تیغوں کی آنکھوں میں چمک جائیں ابھی

کلام میں تشبیہات اور استعارات کا استعمال شاعرانہ کمال کے ساتھ نظر آتا ہے۔ مثلاً

کھا کھا کے اوں اور بھی سبزہ ہرا ہوا

تھا موتیوں سے دامنِ صحرا بھرا ہوا

اس شعر میں اوں کو موتیوں سے تشبیہ دی ہے جو فصاحت سے لبریز ہے۔

انیس کے کلام میں تصنیع یا بناؤٹ نام کو نہیں ہے۔ ان کے مرثیوں کے کردار عرب سے تعلق رکھتے ہیں۔ مگر ان کے طور طریق (رہن سہن) ہندوستانی ہیں۔ انیس کی شاعری جذبات کا حقیقی آئینہ ہے۔

انہوں نے اپنے مرثیوں میں اعلیٰ انسانی قدر و محبت، سخاوت، شجاعت وغیرہ کو بے مثال ڈھنگ سے پیش کیا ہے۔ رزمیہ شاعری میں وہ فارسی کے مشہور شاعر فردوسی کے ہم پلہ نظر آتے ہیں۔

انیس کے مرثیوں میں منظر نگاری پوری آب و تاب کے ساتھ نظر آتی ہے۔ مناظرِ فطرت کے بیان میں وہ یکتا نظر آتے ہیں چاہے صبح و شام کا منظر ہو، سردی یا گرمی کا بیان ہو، میدان کربلا میں جنگ اور شہادت کا منظر ہو۔ گویا ہر منظر زرالی شان کے ساتھ بیان کیا ہے ایک جگہ صبح کے منظر کا یہ عالم دیکھیے۔

دشت سے جhom کے جب باد صبا آتی ہے  
صاف غنچوں کے چٹختے کی صدا آتی ہے

جدبات نگاری میں انیس کو خاص مہارت حاصل تھی۔ وہ واقعہ کربلا کے ہر موقع پر ہر فرد سے چاہے وہ آقا ہو یا غلام، دوست ہو یا دشمن، بچہ ہو یا بوڑھا، مرد ہو یا عورت ہر ایک سے ولیٰ ہی بات کہلاتے ہیں جو فطرت کے عین مطابق ہو۔ انیس نے جذبات کی مختلف کیفیات اور مدارج کا لحاظ رکھتے ہوئے جذبات اور احساسات کی عمدہ نظیریں پیش کی ہیں۔

میر انیس نے اپنے مراثی میں کردار نگاری میں بھی کمال فن کا مظاہرہ کیا ہے۔ واقعہ کربلا میں جن ہستیوں کو خاص اہمیت حاصل ہے ان کی سیرت پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ انیس کی خوبی یہ ہے کہ ان کے کرداروں میں کیسانیت کے باوجود انفرادیت نظر آتی ہے۔ انہوں نے ہر کردار کو اس کے مرتبہ کا لحاظ رکھتے ہوئے پیش کیا ہے یعنی وہ کردار ماں، بہن، بیٹی، بہو، مالک یا نوکر ہے تو وہ کردار اسی مکمل شکل میں نظر آتا ہے۔ میر انیس کے مرثیوں میں تمام اجزاء کا بیان ترتیب اور تسلسل کے ساتھ ہوا ہے۔ انیس کا بڑا کمال یہ ہے کہ وہ چاہے کردار نگاری ہو، جذبات نگاری ہو یا رجز، شہادت یا بن ہو ہر ایک جزو کو اور ان سے جڑے واقعات کو اس تسلسل اور خوبی کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہ پڑھنے اور سننے والے کا ذہن آگے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور وہ اس واقعہ کو پوری لمحپی اور تجھس سے پڑھتا ہے اور یہی چیزان کے مراثی کو عظمت بخشتی ہے۔

مرثیہ

## امام حسین کی مدینے سے روانگی

فرزندِ پیغمبر کا مدینے سے سفر ہے  
садات کی بستی کے اجڑنے کی خبر ہے  
درپیش ہے وہ غم، کہ جہاں زیرو زبر ہے  
گل چاک گریباں ہیں صباخاک بہر ہے

گل رو صفت غنچہ کمر بستہ کھڑے ہیں  
سب ایک جگہ صورت گلدستہ کھڑے ہیں

آراستہ ہیں بہر سفر سرو صبا پوش  
عماء سروں پر ہیں عبائیں بسر دوش  
یاران وطن ہوتے ہیں آپس میں ہم آغوش  
حیراں کوئی تصویر کی صورت کوئی خاموش

منہ ملتا ہے روکر کوئی سرور کے قدم پر  
گر پڑتا ہے کوئی علی اکبر کے قدم پر

عباسؒ کا منہ دیکھ کے کہتا ہے کوئی آہ  
اب آنکھوں سے چھپ جائے گی تصویر یہ اللہ  
کہتے ہیں گلے مل کے یہ قاسمؒ کے ہوا خواہ  
واللہ دلوں پر ہے عجب صدمہ جانکاہ

ہم لوگوں سے شیریں سخنی کون کرے گا  
یہ انس، یہ خلقِ حسنی کون کرے گا

رخصت کے لیے لوگ چلے آتے ہیں باہم  
ہر قلبِ حزیں ہے، تو ہر اک چشم ہے پُر نم  
ایسا نہیں گھر کوئی کہ جس میں نہیں ماتم  
غل ہے کہ چلا دلبرِ مخدومہ عالم

خدمام کھڑے پیٹتے ہیں قبرِ نبیؐ کے  
روضہ پہ اداہی ہے رسولِ عربیؐ کے

تدیرِ سفر میں ہیں ادھر سب سے پیغمبر  
گھر میں کبھی آتے ہیں کبھی جاتے ہیں باہر  
اسبابِ نکواتے ہیں عباس دلاور  
تقطیمِ سواری کے تردید میں ہیں اکبر

شہ کو جنہیں لے جانا ہے، وہ پاتتے ہیں گھوڑے  
خالی ہوا اصطببل، چلے آتے ہیں گھوڑے

لے لے کے بلا میں یہی سب کرتی ہیں تقریر  
اس گرمی کے موسم میں کہاں جاتے ہیں شیر  
سمجھاتی نہیں بھائی کو اے شاہ کی ہمشیر  
مسلم کا خط آئے تو کریں کوچ کی تدبیر

لِلَّهِ أَبْحَى قَبْرَ پَيْمَرَ كُو نَهْ چھوڑیں  
گھر فاطمہ زہرا کا ہے اس گھر کونہ چھوڑیں

منہ دیکھ کے اصغر کا چلا آتا ہے رونا  
آرام سے مادر کی کہاں گود میں سونا  
جھولا یہ کہاں اور کہاں نرم بچھونا  
لکھا تھا اسی سن میں مسافر انھیں ہونا

کیا ہوگا جو میداں میں ہوا گرم چلے گی  
یہ پھول سے کھلا میں گے، ماں ہاتھ ملے گی  
ہے روح پہ اماں کی قلق کرتی ہیں زاری  
سر پیٹتے میں نے انہیں دیکھا کئی باری  
روداد بیان کر گئی ہیں مجھ سے وہ ساری  
فرماتی تھیں بھائی سے خبردار میں واری

غم خوار ہے تو اور خدا حافظ جاں ہے  
نہ باپ ہے سر پر مرے بچے کے نہ ماں ہے

یہ کہتی تھی نینبُ کہ پکارے شہِ عادل  
 تیار ہیں دروازے پہ سب ہو دج و محمل  
 طے شام تک ہو گی کہیں آج کی منزل  
 رخصت کرو لوگوں کو بس اب روئے سے حاصل

چلتی ہے ہوا سردابھی وقت سحر ہے  
 نپچ کئی ہمراہ ہیں گرمی کا سفر ہے  
 رخصت کرو ان کو جو کہ ہیں ملنے کو آئے  
 کہہ دو کوئی گھوارہ اصغر کو بھی لائے  
 نادان سکینہ کہیں آنسو نہ بھائے  
 جانے کی خبر میری نہ صغرا کہیں پائے

ڈر ہے کہیں گھبرا کے نہ دم اس کا نکل جائے  
 با تین کرو ایسی کہ وہ بیمار بہل جائے  
 چلاتی تھی کبرا کہ بہن آنکھ تو کھولو  
 کہتی تھی سکینہ کہ ذرا منہ سے تو بولو  
 ہم جاتے ہیں تم اٹھ کے بغل گیر تو ہولو  
 چھاتی سے لگو باپ کی دل کھول کے رو لو

تم جس کی ہو شیدا وہ برادر نہ ملے گا  
 گھر بھر میں جو ڈھونڈو گی تو اکبر نہ ملے گا

صغرا نے کہا کھانے سے خود ہے مجھے انکار  
 پانی جو کہیں راہ میں مانگوں تو گنہگار  
 کچھ بھوک کا شکوہ نہیں کرنے کی یہ بیمار  
 تبرید فقط آپ کا ہے شربت دیدار  
 گرمی میں بھی راحت سے گزر جائے گی بابا  
 آئے گا پسینہ تپ اتر جائے گی بابا  
 یہ گھر کا سب اسباب گیا کس لیے باہر  
 نہ فرش، نہ ہے مسندِ فرزندِ پیغمبر  
 دالان سے کیا ہو گیا گھوارہ اصغر  
 اجڑا ہوا لوگو! نظر آتا ہے مجھے گھر  
 کچھ منہ سے تو بولو مرادِ گھٹتا ہے اماں  
 کیا سب سطِ پیغمبر سے وطن چھٹتا ہے اماں  
 کس سے کہوں اس درد کو میں بے کس ورنجور  
 بہینیں بھی الگ مجھ سے ہیں اور بھائی بھی ہیں دور  
 اماں کا سخن یہ ہے کہ بیٹی میں ہوں مجبور  
 ہمراہی بیمار کسی کو نہیں منظور  
 دنیا سے سفر، رنج و مصیبت میں لکھا تھا  
 تنهائی کا مرتنا مری قسمت میں لکھا تھا

## مشکل الفاظ اور ان کے معانی

| الفاظ           | معانی                            |
|-----------------|----------------------------------|
| فرزندِ پیغمبر   | پیغمبر محمدؐ کی اولاد، آلِ رسولؐ |
| سادات           | حضرت علیؑ کی اولاد               |
| زیر وزیر        | اوپر نیچے                        |
| چاکِ گریاں      | گریاں کا پھٹا ہونا               |
| خاک بہر         | سر پر مٹی ہونا                   |
| صفتِ غنچہ       | کلی کی صفت                       |
| کمر بستہ        | موجود، حاضر                      |
| آراستہ          | مرا دیار (سامان کے ساتھ)         |
| بہر سفر         | سفر کے واسطے                     |
| سر و قبا پوش    | لبے قد والے اچکن پہنے ہوئے       |
| عمامے           | صاف                              |
| عبائیں          | جبہ، چنے                         |
| دوش             | کاندھا                           |
| ہم آغوش         | گلے ملنا                         |
| تصویرِ یاد اللہ | اللہ کے ہاتھوں کی تصویر          |

|  |              |
|--|--------------|
| جان نکالنے والا صدمہ، غم انگیزی              | صدمة جانکاہ  |
| میٹھی اور عمدہ باتیں، بہترین شاعر            | شیریں سخن    |
| محبت، لگاؤ                                   | أنس          |
| خوش اخلاقی                                   | خلق حسنی     |
| غمگین دل                                     | قلب حزیں     |
| بیھکی ہوئی                                   | پُر نم       |
| پیار محبوب                                   | دل بر        |
| دنیا کی خدمت کی گئی                          | مخدومنہ عالم |
| قبر  | روضہ         |
| پیغمبر اسلام کے نواسے (حضرت امام حسن و حسین) | سبط پیغمبر   |
| دost و احباب                                 | یاور و انصار |
| مholm، اوٹ کا کجاوہ                          | ہودج         |
| بلند مرتبہ والے (حضرت امام حسین)             | شہزادی جاہ   |
| حضرت امام حسین کا لقب                        | شپیر         |
| بہن  | ہم شیر       |
| افسوس، رنج                                   | قلق          |
| قصہ، حالت، حقیقت                             | روداد        |
| النصاف کرنے والا باوشاہ                      | شہزاد عادل   |
| گلے لگنا (محاورہ)                            | بغل گیر      |

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| عاشق، خدا                 | شیدا   |
| سامان (سبب کی جمع)        | اسباب  |
| تکیہ لگا کر بیٹھنے کی جگہ | مسند   |
| پالنا                     | گھوارہ |
| ٹھنڈا کرنا، ٹھنڈائی       | تبرید  |
| صرف، اکیلا، محض           | فقط    |
| بخار                      | تپ     |
| لاچار، محتاج              | پیکس   |
| غم گین                    | رنجور  |
| ساختی                     | ہمراہی |

## مشقی سوالات

**مختصر ترین سوالات:**

- ۱۔ مرثیہ حضرت امام حسینؑ کی مدینے سے روائی کے شاعر کا نام بتائیے۔
- ۲۔ میرانیس اور میرضاحک کا کیا رشتہ تھا؟
- ۳۔ میر حسن کی مشہور مثنوی کا نام بتائیے۔

**مختصر سوالات:**

- ۴۔ اردو کے چند مشہور مرثیہ نگاروں کے نام بتائیے۔
- ۵۔ مندرجہ ذیل مشکل الفاظ کے معنی بتائیے۔  
تقصیر۔ تربت۔ سبط پیغمبر۔ ہودج۔
- ۶۔ مندرجہ ذیل کے حضرت امام حسینؑ سے کیا رشتہ تھے؟  
حضرت صغیر۔ حضرت علی اکبر۔ حضرت عباس۔ حضرت فاطمہ۔

**تفصیلی سوالات:**

- ۷۔ میرانیس کے حالاتِ زندگی مختصر آبیان کیجیے اور ان کی مرثیہ نگاری کی خصوصیات بتائیے۔
- ۸۔ اس مرثیہ کے پہلے اور دوسرے بند کی تشریح کیجیے۔

## خواجہ الطاف حسین حائل

الطاف حسین نام، حائل تخلص تھا ۱۸۳۷ء میں پانی پت میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ایزد بخش کا انتقال اس وقت ہوا جب حائل کی عمر نو سال تھی۔ ان کے مورث اعلیٰ خواجہ ملک علی ہرات سے ہندوستان اس وقت آئے جب غیاث الدین بلبن کی بادشاہی تھی۔ وہ پانی پت کے قاضی مقرر ہوئے۔ والد کے انتقال کے بعد حائل کی پرورش اور تعلیم کا ذمہ بہن بھائیوں نے اٹھایا۔ دستور کے مطابق ابتدائی تعلیم عربی فارسی سے کی اور پھر حفظ قرآن پاک کی سعادت حاصل کی۔ حائل کو پڑھنے کا بہت شوق تھا لیکن باقاعدہ اور مسلسل تعلیم کا موقع نہ ملا۔ تعلیم سے فراغت بھی نہیں ہوئی تھی کہ ان کی شادی مرضی کے خلاف کردی گئی۔ آخر کار پریشانی کے عالم میں دہلی کارخ کیا۔ یہاں مولوی نوازش علی سے عربی کی تعلیم لی۔ رشتہ داروں کے کہنے پر واپس پانی پت آئے۔ غدر کے دوران پانی پت میں ہی دو چار سال گزارے اس دوران منطق و فلسفہ کے ساتھ فقہ و حدیث کی تعلیم حاصل کی۔

دہلی میں قیام کے دوران مرزاغالب سے ملاقات کی اور انھیں اپنی غزلیں دکھاتے تھے اس طور پر حائل کی شاگردی کا شرف ملا۔ جب بھی دہلی جاتے غالب کی صحبت سے فیض اٹھاتے تھے۔ حائل کی ملاقات نواب مصطفیٰ خاں شیفتہ سے بھی ہوئی تو ان سے دوستی ہو گئی اور ان کے بچوں کو پڑھانے کے لیے جہاں گیر آباد چلے گئے۔ یہاں کچھ اطمینان و سکون کے گزارے۔ نواب شیفتہ کے انتقال کے بعد حائل لاہور چلے گئے یہاں انھیں انگریزی سے ترجمہ کی ہوئی اردو کتابوں کی عبارتوں کو درست کرنا ہوتا تھا۔ اس طرح حائل کو انگریزی ادب سے قریب ہونے کا موقع ملا۔ چار سال تک یہ کام بخوبی انجام دیتے رہے اسی دوران محمد حسین آزاد کے جدید خیالات سے متاثر ہو کر چار نظمیں بعنوان

‘برکھارت’، ‘نشاط امید’، ‘مناظرہ رحم و انصاف’ اور حب وطن، لکھیں۔ یہ نظمیں عام روایت سے ہٹ کر تھیں اس لیے ان نظموں سے اردو میں جدید رجحانات کی شروعات ہوئی۔

اسی دور میں مولانا حآلی نے سرسید سے ملاقات کی اور انہوں نے علی گڑھ تحریک میں اپنا تعاون پیش کیا۔ حآلی سرسید کے رفقا میں شمار ہونے لگے۔ سرسید کے اصرار پر انہوں نے مسدس مدوجز اسلام تصنیف کی جو سرسید کو بہت پسند آئی اس نظم کے ذریعہ حآلی نے مسلمانوں کو ہیدار کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ نظم اردو کی مقبول ترین نظموں میں شمار ہوتی ہے۔

اس کے علاوہ مولانا حآلی نے ۱۸۹۳ء میں جب اپنادیوان شائع کرایا تو اس میں مقدمہ پیش کیا جس میں اردو شاعری اور اس کی جملہ اصناف پر اپنے قیمتی مشورے اور تقدیمی نظریات پیش کیے جو اردو میں اس سے پہلے ان خیالات کو اس طرح پیش نہیں کیا گیا تھا۔ چنانچہ بعد میں اس مقدمہ کو ”مقدمہ“ شعرو شاعری، کے نام سے جانا گیا اور جس کو اردو تقدیم کی پہلی کتاب بھی تسلیم کیا گیا۔

مولانا حآلی نے فارسی کے مشہور ادیب اور شاعر شیخ سعدی کی سوانح حیاتِ حیات سعدی کے نام سے لکھ کر اردو میں سوانح نگاری کی بنیاد رکھی بعد میں انہوں نے اپنے فاضل استاد مرزا غالب کی سوانح ”یادگارِ غالب“ اور سرسید کی سوانح ”حیاتِ جاوید“ لکھیں جو اردو سوانح نگاری میں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ حآلی کی دیگر تصنیفات میں سوانح عمری مولانا عبد الرحمن (استاد حآلی) مضمونی حآلی ۱۸۷۵ء سے ۱۹۰۱ء وغیرہ ہیں اس کے علاوہ ان کی نظموں میں ”چپ کی داد“، ”مناجاتِ بیوہ“، ”شکوہ ہند“ اور دیگر چھوٹی بڑی نظموں کے علاوہ قطعات، رباعیات، مشنویاں اور تصاند وغیرہ بھی لکھے ہیں، ان کے قصائد تکلف اور بے جام بالغہ سے پاک ہیں۔ مولانا حآلی نے ۱۹۱۲ء میں وفات پائی۔

مولانا حآلی ایک ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے انہوں نے نظم و نثر دونوں میدانوں میں اپنی مہارت اور قابلیت کا مظاہرہ کیا ہے۔ غزل گو کی حیثیت سے ان کا ایک دیوان یادگار ہے ان کی غزلوں

میں قدیم اور جدید دونوں طرح کے خیالات کی آمیزش ہے۔ ان کی غزلوں میں دل سوزی اور جذبات کی گرمی کے ساتھ حق پرستی پند و نصیحت اور مشاہداتِ زندگی کے عناصر موجود ہیں وہ بات کو بڑی سادگی سے کہنے کے قابل ہیں۔

نظم نگار کی حیثیت سے مولانا حافظ ایک کامیاب شاعر ہیں وہ مقصدی شاعری کے پیش رو ہیں ان کی نظموں میں چُپ کی داد، مناجات پیوه، عورتوں کی حالت زار پر کہی گئی نظمیں ہیں جو سوز و گداز سے بریز ہیں۔ انہوں نے اپنی نظموں کو ہر فارم میں آزمایا ہے حافظ کی شاعری خیالات کی بلندی، تشبیہات، استعارات، تصنیع، رعایت لفظی وغیرہ سے پاک ہے، وہ شاعرانہ استدلال کو مقصدیت پر قربان کر دیتے ہیں اسی لیے ان کے کلام میں شاعرانہ جوش کم ہی نظر آتا ہے۔

نصاب میں شامل ”مرثیہ غالب“، مولانا حافظ کا بہترین کارنامہ ہے مرتزاغالب جو حافظ کے استاد اور بہت اچھے رفیق تھے اور مولانا حافظ جن کی شخصیت اور شاعری کے پرستار تھے ۱۸۶۹ء میں جب غالب کی وفات ہوئی تو انھیں ان کی موت پر گہرا صدمہ ہوا اور انہوں نے اپنے رنج و غم کا اظہار مرثیہ غالب کی شکل میں کیا۔ حافظ نے اس مرثیہ میں اپنے استاد سے والہانہ محبت کا اظہار بڑے جوش و عقیدت کے ساتھ کیا ہے غالب کی موت پر کہا گیا یہ مرثیہ ان کے قلبی واردات کی ترجمانی کرتا ہے حقیقت نگاری، اثر انگلیزی کے لحاظ سے یہ اردو کے چند نمائندہ اور منتخب شخصی مرثیوں میں شمار ہوتا ہے۔

خواجہ الطاف حسین حائل

## مرثیہ غالب

(۱)

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| کیا کھوں حال درد پنهانی     | وقت کوتاہ قصہ طولانی   |
| عیش دنیا سے دل ہو گیا سرد   | دیکھ کر رنگ عالم فانی  |
| کچھ نہیں جز طسم خواب و خیال | گوشہ فقر و بزم سلطان   |
| بحر ہستی بجز سراب نہیں      | چشمہ زندگی میں آب نہیں |

(۲)

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| بلبل ہند مر گیا ہیہات            | جس کی تھی بات بات میں اک بات  |
| نکتہ داں ، نکتہ سنج ، نکتہ شناس  | پاک دل، پاک ذات، پاک صفات     |
| لاکھ مضمون اور اس کا ایک ٹھوول   | سو تکلف اور اس کی سیدھی بات   |
| تحیں تو دلی میں اس کی باقیں تھیں | لے چلیں اب وطن کو کیا سو غات  |
| اس کے مرنے سے مر گئی دلی !!      | خواجہ نو شاہ تھا اور شہر برات |
| یاں اگر ذات تھی تو اس کی ذات     | یاں اگر ذات تھی تو اس کی بزم  |
| ایک روشن دماغ تھا نہ رہا         | شہر میں ایک چراغ تھا ، نہ رہا |

(۳)

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| کس کی باتوں سے دل کو بہلائیں | دل کو باتیں جب اس کی یاد آئیں |
| کس سے دادِ سخنوری پائیں      | کس کو جا کر سنائیں شعر و غزل  |
| کس سے اصلاح لیں کدھر جائیں   | مرثیہ اس کا لکھتے ہیں احباب   |
| اہل میت جنازہ ٹھہرائیں !!    | لوگ کچھ پوچھنے کو آئے ہیں     |

(۴)

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| نظم، غنچے زلال کی صورت | نشر، حسن و جمال کی صورت     |
| تعزیت اک ملال کی صورت  | تہنیت اک نشاط کی تصویر      |
| انوری و کمال کی صورت   | چشمِ دوران سے آج چھپتی ہے   |
| غالبے بے مثال کی صورت  | دیکھ لو آج، پھر نہ دیکھو گے |

(۵)

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| اپنا بیگانہ اشک بار ہے آج  | شہر میں جو ہے سوگوار ہے آج   |
| دوش احباب پر سوار ہے آج    | بارِ احباب جو اٹھاتا تھا     |
| اس کی چپ سے جگر فگار ہے آج | تھی ہر اک بات نیشور جس کی    |
| ماتمِ یار غمگسار ہے آج     | دلِ مضطرب کو، کون دے تسلیں   |
| ہمہ تن چشم انتظار ہے آج    | کس کو لاتے ہیں بھر فن کے قبر |
| کس سے خالی ہوا جہاں آباد   | غم سے بھرتا نہیں دل ناشاد    |

(۶)

کیا ہے جس میں وہ مردِ کار نہ تھا  
 اک زمانہ کہ سازگار نہ تھا  
 ملک و دولت سے بہرہ ورنہ ہو  
 جان دینے پہ اختیار نہ تھا  
 خاکساروں سے خاکساری تھی  
 سر بلندوں سے انکسار نہ تھا  
 اس سے ملنے کو یاں ہم آتے تھے  
 مر گیا قدرِ دانِ فہم و سخن  
 جا کے دلی سے آئے گا اب کون  
 شعرِ ہم کو سنائے گا اب کون  
 تھا بساطِ سخن یہ اک شاطر  
 ہم کو چالیں بتائے گا اب کون  
 غزل اس کی بنائے گا اب کون  
 شعر میں نا تمام ہے حآلی

## مشکل الفاظ اور ان کے معانی

| معانی                                | لفظ             |
|--------------------------------------|-----------------|
| پوشیدہ درد، چھپا ہوا درد             | در د پہاں       |
| فنا ہونے والی دنیا                   | عالم فانی       |
| جادو کا تمثاشا                       | طسم خواب و خیال |
| شاہی محفل                            | بزم سلطانی      |
| سوائے، بغیر                          | بجز             |
| ہندوستان کا بلبل، مراد شاعر ( غالب ) | بلبل ہند        |
| بات کی باریکی کو سمجھنے والا         | نکتہ داں        |
| ذہین، دانا                           | نکتہ شناس       |
| ظریف، خوش طبع                        | ٹھٹھول          |
| عالی فہم، ذہین                       | روشن دماغ       |
| تصحیح، درستی، نظر ثانی               | اصلاح           |
| جنازے کے ساتھ جانے والے              | اہل میت         |
| مبارک بادی                           | تہنیت           |
| دل اداں ہونا                         | دل سرد ہونا     |
| درویش کا کونہ                        | گوشہ فقر        |
| سمندر ( مراد دنیا )                  | بحیرہستی        |

|  |              |
|--|--------------|
| دھوکہ فریب                                     | سراب         |
| افسوں  | ہیہات        |
| بچی تلی بات کہنے والا، سخن شناس                | نکتہ سنج     |
| تختہ دا سخن وری شاعری پرداد پانا شاعری کی پرکھ | سونفات       |
| پاکیزہ غنچہ (کلی)                              | غنج زلال     |
| خوشی، مسرت                                     | نشاط         |
| دونوں فارسی کی بلند پایہ شاعر ہیں              | انوری و مکال |
| نوک دار اوزار، تیر                             | نیشور        |
| بے چین   | مضطہر        |
| وہ شخص جو ہر کام کو خوش اسلوبی سے انجام دے     | مردِ کار     |
| عجز، عاجزی                                     | انکساری      |
| پھیلا و چادر، شترنخ                            | بساط         |
| شترنخ کا ماہر                                  | شاطر         |
| زمانے کی آنکھ                                  | چشمِ دوران   |
| غمگین، رنجیدہ                                  | سوگوار       |
| زنگی مجرد ح                                    | فگار         |
| ناخوش  | ناشاد        |
| موافق، لائق                                    | سازگار       |
| شان و شوکت والے لوگ (یہاں مراد مغرور)          | سر بلند      |

## مشقی سوالات

**مختصر ترین سوالات:**

- ۱۔ حآلی نے عربی کی تعلیم کس سے حاصل کی تھی؟
- ۲۔ حآلی کے والد کا کیا نام تھا؟
- ۳۔ حآلی نے کس سن میں وفات پائی؟

**مختصر سوالات:**

- ۴۔ حآلی کی دو مشہور نظموں کے نام لکھیے۔
  - ۵۔ حآلی نے کس کا مرثیہ لکھا ہے؟ اور ان کا حآلی سے کیا رشتہ تھا؟
  - ۶۔ مندرجہ ذیل الفاظ کے معنی لکھیے۔
- |           |           |       |
|-----------|-----------|-------|
| درد پہاں۔ | نکتہ داں۔ | سوغات |
| ۔۔۔       | ۔۔۔       | ۔۔۔   |

**تفصیلی سوالات:**

- ۷۔ مولانا حآلی کے حالاتِ زندگی پر روشنی ڈالتے ہوئے ان کی نظم نگاری کی خصوصیات بیان کیجیے۔
- ۸۔ 'مرثیہ غالب' کا خلاصہ اپنے الفاظ میں تحریر کیجیے۔

ڈاکٹر معین الدین شاہین

## نظم: ایک تعارف

یوں تو ہر کلام موزوں نظم کے دائرے میں آتا ہے۔ لیکن نظم بہ حیثیت صنف اپنی الگ اور انفرادی پہچان رکھتی ہے۔ نظم کے معنی ”موتی پرونے“، یا ”کڑی میں پرونا“، بتائے جاتے ہیں۔ نظم کا اپنے لغوی اور اصطلاحی معنوں سے گہرا تعلق ہوتا ہے۔ جس طرح ایک ایک موتی پروکر مالا بنائی جاتی ہے ٹھیک اسی طرح شاعر اپنے خیالات کی ایک ایک کڑی کو الگ الگ مصراعوں کے ربط و تسلسل کے ساتھ موزوں کرتا ہے تب نظم تخلیق پا کر وجود میں آتی ہے۔ اس بابت پروفیسر سید احتشام حسین کا یہ بیان بھی قابل لحاظ ہے کہ ”جب نظم کا لفظ شاعری کی ایک خاص صنف کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اُس سے مراد اشعار کا ایسا مجموعہ ہے جس میں مرکزی خیال اور ارتقاء خیال کی وجہ سے تسلسل کا احساس پیدا ہو سکے۔ اس کے لیے موضوع کی کوئی قید نہیں اور نہ اس کی بہتی ہی معین ہے۔“

غزل کی طرح نظم کے موضوعات میں بھی بلا کی وسعت ہوتی ہے۔ زندگی اور کائنات کا ایسا کوئی پہلو نہیں جو نظم کے زمرة کار میں نہ آتا ہو۔ غزل کے بعد نظم ہی ایسی صنف سخن ہے جو معروف و مقبول ہے۔

پروفیسر آل احمد سرور نے نظم کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:

”نظم کی مثال ایک ایسے دریا کی سی ہے، جس میں طرح طرح کے  
نشیب و فراز ہیں، کہیں وہ چٹانوں کا سینہ چیر کر نکلتا ہے تو کہیں  
میدانوں میں متنانت اور وقار کے ساتھ بہتا ہے لیکن دریا میں ایک  
تسلسل اور ایک وحدت ہوتی ہے۔“

ہبیت کے لحاظ سے نظم کی مندرجہ ذیل اقسام کا چلن اردو میں چلا آ رہا ہے:

### ۱۔ پابند نظم :

وہ نظم جس میں کسی خاص بحر اور قافیوں کی پابندی ضروری ہو، اُسے پابند نظم کہتے ہیں۔ اس قسم کی نظم میں غزل کی طرح برابر کے مصروعوں کا التزام ضروری ہوتا ہے۔

### ۲۔ نظم معرّی :

نظم معرّی کا دوسرا نام نظم عاری بھی ہے۔ نظم کی قسم انگریزی ادب کی ”بلینک ورس“ سے مشتق ہے۔ جس میں قافیہ کی پابندی تو نہیں ہوتی لیکن ہر مرصعہ برابر اور مساوی الوزن ہونا لازمی ہوتا ہے۔

### ۳۔ آزاد نظم :

نظم کی قسم بھی انگریزی کی ”فری ورس“ سے مشتق ہے۔ اس میں ردیف اور قافیہ کی پابندی کا لحاظ نہیں رکھا جاتا ہے۔ اور متعلقہ بحر کے ارکان بھی گھٹتے بڑھتے رہتے ہیں۔

### ۴۔ نشری نظم :

آزاد نظم کی طرح نشری نظم بھی چھوٹی بڑی نشری سطور پر ہوتی ہے۔ اس میں ردیف، قافیہ، بحر اور وزن کی پابندی نہیں ہوتی۔ بعض حضرات نے نشری نظم کو ”شم“ کا نام بھی دیا ہے جسے ادبی حلقوں میں قبول نہیں کیا گیا۔

نظم نگاری کی ابتداء یوں تو محمد قلی قطب شاہ ماتی اور دکن کے بعض دوسرے شاعروں کی بہاریہ نظموں سے ہوئی۔ لیکن نظیر اکبر آبادی وہ پہلے شاعر ہیں جنہوں نے نظم نگاری کو رواج بخشنا۔ ان کی عوامی موضوعات پر کھی منظومات نے نظم نگاری کی روایت کو مضبوط کیا۔

۱۸۵۷ء کے بعد اردو نظم نگاری کا ارتقاء تیزی سے ہونے لگا۔ ۱۸۷۲ء میں مولانا محمد حسین آزاد

نے ”بزم مناظمہ“ کی بنیاد اُمال توار نظم کو آگے بڑھنے کے خاطر خواہ مواقع فراہم ہوئے۔ حآلی نے مقدمہ شعرو شاعری“ کے توسط سے شعراءِ اردو سے جدید طرز کی نظمیں لکھنے کا مطالبہ کیا جس پر کئی شاعروں نے لبیک کہا۔ تبلیغ نعمانی، علامہ اقبال، اکبرالہ آبادی، سرور جہان آبادی، نظم طباطبائی، مولانا اسماعیل میرٹھی، جو شیخ آبادی اور حکیم لکھنؤی جیسے شعراء نے میدانِ نظم گوئی میں قابلِ قادر اضافے کیے۔

ترقی پسند تحریک سے وابستہ شاعروں نے تو صنفِ غزل پر نظم گوئی کو ترجیح دیتے ہوئے خوب سے خوب تر نظمیں تخلیق کیں۔ اس ذیل میں ن۔ م۔ راشد، میرا جی، احسان دانش، اختر شیرانی، مجاز لکھنؤی، مخدوم محی الدین، مجروح سلطان پوری، وامق جوپوری، فیض احمد فیض، ساحر لدھیانوی، معین احسن جذبی، علی سردار جعفری، سکندر علی و جد غلام ربانی تاباں اور احمد ندیم قاسمی وغیرہ نے صنفِ نظم کو باہم عروج پر پہنچانے کی حتیٰ الامکان کوشش کی۔

عہد حاضر میں جن شعراء کرام نے نظم نگاری کے ذریعہ اپنی فکر رسا کے گھوڑے دوڑائے ان میں ندا فاضلی، شمس الرحمن فاروقی، عمیق حنفی، بیکل اتساہی، پروفیسر شہریار پروفیسر عتیق اللہ اور زیبر رضوی وغیرہ کے اسماء گرامی قابل ذکر ہیں۔ نظم نگاری کا کارروائ ہنوز روای دوال ہے جو اس صنف کے روشن مستقبل کی دلیل ہے۔

## نظیر اکبر آبادی

شیخ ولی محمد نام، نظیر تخلص۔ ۱۹۷۱ء کے قریب دہلی میں پیدا ہوئے۔ نظیر کے والد کا نام شیخ محمد فاروق تھا جن کا انتقال نظیر کی کم عمری میں ہو گیا تھا۔ چونکہ نظیر اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے اس لیے ان کی تعلیم و تربیت بڑے لاد پیار سے ہوئی۔ یوں تو نظیر اردو، فارسی اور عربی زبانیں جانتے تھے لیکن پنجابی، مارواڑی، ہندی اور پوربی زبانیں بھی سمجھ لیتے تھے۔ جب دہلی پر احمد شاہ عبدالی نے حملہ کیا تو نظیر اپنی والدہ کے ساتھ آگرہ چلے آئے اور ہمیشہ کے لیے یہیں کے ہو رہے۔ آگرہ سے اپنی نسبت پر نظیر ہمیشہ فخر کرتے رہے۔ نظیر نے درس و تدریس کو ترجیح دیتے ہوئے معلمی کا پیشہ اختیار کیا۔ انھیں خوش نویسی میں بھی دل چھپی تھی اس لیے انھیں ”ہفت قلم“ کے نام سے شہرت ملی۔ دیگر علوم و فنون مثلاً طب، نجوم، منطق، معانی بیانی اور موسیقی سے بھی انھیں لگا د تھا۔ اس کے علاوہ ورزش اور سپہ گری میں بھی دل رکھتے تھے، غرض یہ کہ نظیر کیش المعلومات اور ہمہ داں شخص تھے۔

نظیر کے مزاج میں انساری، خوش اخلاقی، انسان دوستی، شوخی و نظرافت، رنگینی و بذله سبji اور وسیع المشربی جیسے اعلیٰ اوصاف موجود تھے۔ نظیر کی زندگی محسرت اور غربی میں بسر ہوئی۔ نوے برس کی عمر میں ان پر فانج کا حملہ ہونے کے سبب وہ چار پانچ برس تک بیمار رہے اور بالآخر ۱۶ اگسٹ ۱۸۳۰ء کو ان کا انتقال ہوا۔

نظیر اردو شاعری میں ”عوامی شاعر“ کی حیثیت سے یاد کیے جاتے ہیں۔ انھوں نے ان موضوعات کو اپنی شاعری میں جگہ دی ہے جن کی طرف ان سے قبل کسی نے توجہ نہیں کی تھی۔ بعض اہل علم نے ان کے اس قدم کو جائز نہیں مانتے ہوئے ان کے کلام کو سوچیا نہ قرار دے کر اس کی اہمیت سے انکار کیا

ہے۔ لیکن سچائی یہ ہے کہ نظیر وہ پہلے شاعر ہیں جنہوں نے شاعری کا رشتہ انسانی زندگی سے جوڑنے کی کوشش کی۔ وہ ایک درویش صفت انسان تھے۔ انہوں نے ”آدمی نامہ“، ”ہولی نامہ“، ”بخارہ نامہ“، ”دیوالی“، ”شب برأت“، ”مفلسی“، بالپن بانسری بجیا“، ”کلگج“، ”روٹیاں“ اور ”خوشامد“ جیسی نظمیں تخلیق کر کے اپنے قومی فریضے کو انجام دیا۔

نظم روضہ تاج گنج، نظیر کی تہذیبی و ثقافتی نظموں میں شمار ہوتی ہے اس نظم میں انہوں نے محبت کی یادگار اور دنیا کے سات عجائب میں شمار ہونے والے ”تاج محل“، کے متعلق اپنے جذبات و احساسات کا مظاہرہ کیا ہے۔ نظیر کا یہ نظریہ ہے کہ یہ خوبصورت عمارت دھن و دولت کے بجائے ایثار و محبت کے جذبہ پر قائم ہے۔ اس عمارت میں لگے پتھروں کے دل بھی محبت کی حرارت سے دھڑکتے ہیں۔ قبل تعریف ہیں وہ عمار جنہوں نے اسے بنانے میں جاں فشانی سے کام لیا ہے۔ یہاں کے باعث اور دلان دلوں کا دامن کھینچتے ہیں۔ جو نقش و زگار مصوروں نے قلم سے بتائے ہیں انھیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے گویا وہ مصنوعی نہیں بلکہ حقیقی ہیں۔ یہاں بادیں ایسے چلتی ہے جیسے یہ گلشنِ فردوس کی کھڑکی سے آ رہی ہو۔ بادشاہ شاہ جہاں کا یہ شاہ کارہمیشہ ہندوستان کے لیے باعثِ افتخار تسلیم کیا جائے گا۔

نظیرا کبرا آبادی

## روضہ تاج گنج

یارو! جو تاج گنج یہاں آشکار ہے مشہور اس کا نام بہ شہر و دیار ہے  
 خوبی میں سب طرح کا اسے اعتبار ہے روضہ جو اس مکان میں دریا کنار ہے  
 نقشے میں اپنے یہ بھی عجائب خوش نگار ہے  
 روئے زمیں پہ یوں تو مکاں خوب ہیں یہاں پر اس مکاں کی خوبیاں کیا کیا کروں بیاں  
 سنگِ سفید سے جو بنا ہے قمر نشاں ایسا چمک رہا ہے جملی سے یہ مکاں  
 جس سے بلور کی بھی چمک شرمسار ہے  
 گنبد میں اس کا ذر بلنڈی سے بہرہ مند گرد اس کے گنبدیاں بھی چمکتی ہوئی ہیں چند  
 اور وہ کلس جو ہے سر گنبد سے سر بلند ایسا ہلال اس پہ سنہرا ہے دل پسند  
 ہر ماہ جس کے خم پہ مہ نو ثمار ہے  
 ہیں نیچ میں مکاں کے وہ دو مرقدیں جو یاں گرد ان کے جالی اور مجر ہے در فشاں  
 سنگین گل جو اس میں بنائے ہیں تنشاں پتے، کلی، سہاگ رگِ رنگ ہے عیاں  
 جو نقش اس میں ہے وہ جواہر نگار ہے  
 دیواروں پر جو سنگ ہے نازک عجائب نگار آئینے بھی لگے ہیں محلی و تاب دار  
 دروازے پر لکھا ہے خطِ طغرا طرفہ کار ہر گوشے پر کھڑے ہیں جو میnar اس کے چار  
 چاروں طرف سے اوچ کی خوبی دو چار ہے

جو صحنِ باغ کا ہے وہ ایسا ہے دل کشا  
آتی ہے جس میں گلشنِ فردوس کی ہوا  
ہر سو نیم چلتی ہے اور ہر طرف ہوا  
لہتی ہیں ڈالیاں سمجھی ہر گل ہے جھومتا  
فوارے چھٹ رہے ہیں روایں جوئے بارے  
وہ تاجدار شاہجهہاں صاحبِ سریر  
بنوایا ہے انھوں نے لگا سیم و زر کشیر  
جود کیھتا ہے اُس کے یہ ہوتا ہے دل پذیر  
تعريفِ اس مکان کی میں کیا کروں نظر  
اس کی صفت تو مشتہرِ روزگار ہے

## مشکل الفاظ اور ان کے معانی

| الفاظ        | معانی   |
|--------------|---|
| ترجمہ دینا   | فضیلت دینا، بہتر سمجھنا، فوقيت دینا                             |
| معلّمی       | پھول کو پڑھانے کا پیشہ، مدرسی                                   |
| بذله سنجی    | ہنسی مذاق، خوش طبعی   |
| وسیع المشربی | دور تک پھیلا ہوا، کشادہ، فراخ                                   |
| سوقیانہ      | بازاری، عوام کی پسند کا، مبتدل                                  |
| درویش صفت    | وہ شخص جس میں بزرگوں، فقیروں اور خدار سید لوگوں جیسی خوبیاں ہوں |
| تہذیب        | خوش اخلاق، شاشستگی، صفائی                                       |
| ثقافت        | تہذیب، کلچر، نیک ہونے کی دلیل                                   |
| مصنوعی       | بناؤٹی، نقلی، جعلی، جو قدرتی نہ ہو                              |
| باعثِ افتخار | جس پر فخر و ناز کیا جائے  |
| روضہ         | وہ مقبرہ جس پر گنبد بنایا ہو                                    |
| آشکار        | ظاہر، نمایاں، کھلا ہوا، واضح                                    |
| شہر و دیار   | ملک، علاقہ، نگر، بڑی آبادی                                      |
| اعتبار       | مکریہ، بھروسہ، اعتماد، یقین                                     |

|  |           |
|--|-----------|
| بغل، آغوش، گود، سینہ                             | کنار      |
| اچھا لگنے والا، خوش قم بہترین کا تب              | خوش نگار  |
| زمیں کی سطح                                      | روئے زمین |
| سفید پتھر، سنگ مرمر                              | سنگِ سفید |
| چاند کی طرح حسین و خوبصورت                       | قمرنشاں   |
| تابانی، روشنی، چمک                               | تجلی      |
| ایک چمکدار اور شفاف معززی جو ہر                  | بلور      |
| برج، گول چھت، عمارت کا بالائی حصہ جو گول ہوتا ہے | گنبد      |
| صاحبِ قسمت، خوش نصیب                             | بہرہ مند  |
| گنبد کے اوپر کا نوک دار حصہ جو چمکیلا ہوتا ہے    | کلس       |
| معزز، عالی مرتبہ، ممتاز، سرفراز                  | سر بلند   |
| ہمینے کا پہلا چاند                               | ہلال      |
| ماہ  | ماہ       |
| ہلال، ہمینے کا پہلا چاند                         | مہِ نو    |
| صد قے، قربان، نچحاور                             | ثناں      |
| آرامگاہیں، قبریں، مزارات                         | مرقدیں    |
| آس پاس، قریب، ارد گرد                            | گرد       |
| جائی دار   | محُجّ     |
| چمک دار، تابناک، خوش نما                         | در فشاں   |

|               |  |
|---------------|--|
| سنجینِ گل     | بخاری پتھر پکشیدہ کاری کرنا                              |
| تہہ نشاں      | وہ سونے اور جواہرات کا کام جو توار کے قبضے پر ہوتا ہے    |
| سہاگ          | ایک قسم کا عطر یا خوشبو                                  |
| رگ رنگ        | جسم کی وہ نلیاں جن میں خون رہتا ہے                       |
| عیاں          | ظاہر، نمودار، کھلا ہوا                                   |
| نقش           | صورت، شبیہ، مورت، تصویر                                  |
| جوہر نگار     | مرصع، جڑاو، خوش خط، خوبصورت لکھنے والا                   |
| عجب نگار      | جس کی تحریر سب سے جدا اور منفرد ہو                       |
| محبی و تابدار | تاباں، روشن، چمک دار، بچالی نما                          |
| خط طغرا       | عربی رسم الخط میں پیچیدہ مگر فن کارانہ اور خوبصورت تحریر |
| طرف کار       | نادر اور انوکھا کام کرنے والا                            |
| گوشے          | کونہ، خلوت، تنہائی                                       |
| اوج           | اوچائی، بلندی، رفت، عروج                                 |
| صحن           | آنگن، انگنانی  |
| دل کشاں       | دل کو خوش کرنے والا، دل شگفتہ کرنے والا                  |
| گلشنِ فردوس   | جنت کا باغ، جنت کی پھلواری                               |
| ہرسو          | ہر طرف، ہر جگہ   |
| نسیم          | صحح کی ٹھنڈی ہوا   |
| جوئے بار      | ایک ایسی بڑی نہر جس میں بہت سی نہریں آکر مل جاتی ہیں     |

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| نہروں کا خطہ                   |          |
| بادشاہ، صاحبِ تاج، تاج والا    | تاجدار   |
| تخت شاہی یا گدی و مسند کا مالک | صاحب سری |
| چاندی اور سونا                 | سیم وزر  |
| بہت، زیادہ، بے شمار، افرات سے  | کثیر     |
| مرغوب، پسندیدہ                 | دل پذیر  |
| وصف، خوبی، خاصیت               | صفت      |
| مشہور کیا گیا، شہرت دیا گیا    | مشتہر    |
| زمانہ، گزارا، قسمت، موقع محل   | روزگار   |

## مشقی سوالات

**مختصر ترین سوالات:**

- ۱۔ 'روضہ' کسے کہتے ہیں؟
- ۲۔ 'جوئے بار' کسے کہتے ہیں؟
- ۳۔ نظیرا کبر آبادی کی نظم 'روضہ تاج گنج' کے علاوہ دو نظموں کے عنوانات لکھیے۔

**مختصر سوالات:**

- ۴۔ مندرجہ ذیل کے متقاضا الفاظ لکھیے۔
- ۵۔ قمر۔ مصنوعی۔ مہ۔ اونج۔ لفظ فردوس کے مترادف الفاظ لکھیے۔
- ۶۔ 'روضہ تاج گنج' کہاں ہے اور کس پڑھ سے بنا ہوا ہے؟

**تفصیلی سوالات:**

- ۷۔ نظم 'روضہ تاج گنج' کا خلاصہ لکھیے۔
- ۸۔ نظیرا کبر آبادی کی شاعرانہ خصوصیات تحریر کیجیے۔

## خواجہ الطاف حسین حآلی

خواجہ الطاف حسین نام، حآلی تخلص۔ ۱۸۳۷ء میں بمقام پانی پت پیدا ہوئے۔ حآلی کے والد کا نام خواجہ ایزد بخش انصاری تھا۔ جب حآلی محض نوبرس کے تھے تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، لہذا حآلی کے بڑے بھائی امداد حسین اور بہن نے ان کی پرورش اور تعلیم کی ذمے داری اٹھائی۔ حآلی بلاکے ذہین اور مختتی تھے۔ بچپن میں ہی قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد انہوں نے پانی پت میں ہی تھوڑی سی فارسی سید جعفر علی سے اور عربی حاجی ابراہیم حسین سے پڑھی۔ سترہ برس کی عمر میں ان کی مرضی کے خلاف ان کی شادی کردی گئی، اس لیے پوشیدہ طور پر وہ دہلی چلے آئے، اور مولوی نوازش علی سے عربی کی تعلیم کمل کی اور منطق کے ساتھ علم عروض بھی سیکھا۔ اسی زمانے میں حآلی کی مرزا اسد اللہ خاں غالب اور نواب غلام مصطفیٰ خاں شیفتہ سے شناسائی ہوئی۔ تقریباً آٹھ برس تک حآلی، شیفتہ کے بچوں کے معلم رہے۔ شیفتہ کی صحبتوں نے ان کے ذوقِ شعر گوئی اور ملکہ شعر فہمی کو چکا دیا لیکن حآلی نے مرزا غالب کی شاگردی قبول کی۔

۱۸۵۷ء میں حآلی نے اپنے وطن پانی پت لوٹ کر ملازمتی زندگی کا آغاز کیا۔ پھر آپ ۱۸۷۲ء میں گورنمنٹ بک ڈپولا ہور میں ملازمت کرنے لگے، یہاں آپ نے انگریزی سے اردو میں ترجمہ شدہ کتابوں کی عبارت درست کرنے کا کام کیا۔ لاہور میں حآلی نے مولانا محمد حسین آزاد کے ساتھ مل کر 'نجمن پنجاب' کے مشاعروں میں جدید اردو نظم کے بنیاد گزار کی حیثیت سے کام کیا۔ ۱۸۷۳ء میں حآلی لاہور سے دہلی چلے آئے اور انگلیکو عربک کالج میں عربی کے استاد مقرر ہوئے۔ انھیں دنوں انہوں نے سر سید احمد خاں کی فرمائش پر مسدود و جزر اسلام، تحقیق کر کے میدان شاعری میں انقلاب برپا کر دیا۔ سر

سید کی سفارش پر جب حآلی کو سرکاری وظیفہ ملنے لگا تو انھوں نے مازمت سے کنارہ کشی کرتے ہوئے علمی و ادبی امور میں آزادانہ طور پر دلچسپی لینا شروع کر دی۔ ۱۹۱۳ء میں حآلی کو ”مشمس العلما“ کے خطاب سے نوازا گیا۔ ۱۹۱۳ء کو بمقامِ ہلی ستر برس کی عمر میں حآلی کا انتقال ہوا۔

حآلی نے نظم و نظم میں یکساں طور پر ادبی خدمات انجام دیں۔ نظر میں ”حیاتِ سعدی“ (۱۸۸۶ء)، ”حیاتِ جاوید“ (۱۸۹۳ء) اور ”یادگارِ غالب“ (۱۹۰۱ء) اُن کی بہترین سوانح عمریاں ہیں۔ اس کے علاوہ ”مقدمہ شعرو شاعری“ اور ”مقالاتِ حآلی“ بھی قابل تحسین نشری کارناموں میں شامل ہیں۔

حآلی نے بہ حیثیت شاعر بھی کامیابی حاصل کی۔ یوں تو انھوں نے غزل، مثنوی، قصیدہ، مرثیہ، ترجیح بند، ترکیب بند اور قطعہ گوئی میں طبع آزمائی کی لیکن اپنی شاہ کار شعری تخلیق، مسدس مددس مددجہ راسلام (۱۸۹۳ء) کے ذریعہ انھیں دائیٰ شہرت ملی۔ جدید نظم گوئی حیثیت سے حآلی کا مقام مسلم ہے۔ انھوں نے جدید مضامین و موضوعات اور منفرد اسلوب بیان سے اردو کا دائرہ وسیع کیا۔ مبالغہ آرائی اور تصنیع سے ان کا کلام پاک صاف ہے۔ بیان کی ندرت اور زبان کی سلاست ان کا طریقہ امتیاز ہے۔ حآلی کی مشہور اور کامیاب نظموں میں ”برکھارت“، ”چپ کی داد“، ”مناجاتِ بیوہ“، ”نشاطِ امید“، ”ظہورِ رحمت“، ”خودستائی“ اور ”تعصب اور انصاف“، ”غیرہ شامل ہیں۔

نظم جدید تر قیات، بھی حآلی کی مذکورہ منظومات کی طرح نمائندہ نظم ہے۔ اس نظم کے توسط سے حآلی نے یہ پیغام دیا ہے کہ یہ دور سائنس اور ٹکنالوجی کا زمانہ ہے لہذا اس دور میں وہی کامیاب و کامران ہو سکتا ہے جو سائنسی علوم و فنون سے واقف ہو۔ اس لیے ہندوستانیوں کو چاہیے کہ وہ سائنسی علوم و فنون میں مہارت حاصل کریں تاکہ ہماری قوم کا شمار بھی ترقی یافتہ اقوام میں ہو سکے۔

## جدید ترقیات

اے عزیزو! میں بھی ہوں آخر بنی نوع بشر  
 غل ہے کیا نوع بشر میں کچھ تمہیں بھی ہے خبر  
 کر رہا ہے خاک کا پتلا وہ جو ہر آشکار  
 ہو رہی ہے جس سے شان کبریائی جلوہ گر  
 رفتہ رفتہ یہ غبارِ ناتوان پہنچا ہے وال  
 طاہرِ وہم و تصور کے جہاں جلتے ہیں پر  
 اس نے ان کمزور ہاتھوں سے مسخر کر کیا  
 ابر و برق و باد سے تابحر و برد دشت و در  
 حق نے آدم کو خلافت اپنی جو کی تھی عطا  
 دے رہے ہیں اس خلافت پر گواہی بحر و بر  
 تھا ارسٹو اور افلاطون کو بہت کچھ جن پہ ناز  
 ہو گئے تقویم پارینہ وہ سب علم و ہنر  
 کل کی تحقیقات نظر وں سے اتر جاتی ہے آج  
 بڑھ رہا ہے دم بدم یوں آج کل علم بشر  
 قوتِ ایجاد نے اب یاں تنک پکڑا ہے زور  
 شام کی ایجاد ہو جاتی ہے باسی تا سحر

ساز و سامان جو نہ تھے کل بادشاہوں کے نصیب  
 کوڑیوں کے مول سے پھرتے ہیں وہ در بدر  
 کہتے ہیں مغرب سے ہوگا جب برآمد آفتاب  
 عرصہ آفاق میں ہوگی قیامت جلوہ گر  
 دوستو! شاید وہ نازک وقت آپنچا قریب  
 آ رہی ہے روشنی مغرب سے اک اٹھتی نظر  
 رُو ترقی کی چلی آتی ہے موجیں مارتی  
 اگلے وقت کے نشان کرتی ہوئی زیر وزیر  
 دستکاری کو مٹاتی صنعتوں کو روندتی  
 علم و حکمت کی پرانی بستیاں کرتی کھنڈر  
 ہوشیاروں کو کرشمے اپنے دھلاتی ہوئی  
 غافلوں کو موت کا پیغام پہنچاتی ہوئی

## مشکل الفاظ اور ان کے معانی

| معانی  | الفاظ        |
|--|--------------|
| علم دلیل، علم مناظرہ، ٹھیک طور سے سوچنے کا علم<br>وہ علم جس سے نظم کے قواعد معلوم ہوتے ہیں | منطق         |
| درست، بجا، ٹھیک، تسلیم کیا گیا، مانا گیا   | علم عروض     |
| خوبی، عمدگی، انوکھی بات  | مسلم         |
| ذریعہ، وسیلہ   | طریقہ امتیاز |
| نئی، نیا، تازہ، اب کا  | توسط         |
| ترقی کا جمع بمعنی آگے بڑھنا، اونچا ہونا، بلندی، برتری                                      | جدید         |
| بشر، انسان، انسان کی اولاد   | ترقیات       |
| آدمی، انسان، منش   | بنی نوع      |
| شور، ہنگامہ  | بشر          |
| خوبی، خاصیت، لیاقت، استعداد  | غل           |
| ظاہر، نمایاں، کھلا ہوا، واضح   | جوہر         |
| اللہ کی عظمت، شوکت، دبدبہ، تو قیر  | آشکار        |
| خاص بناؤ سُنگھاریاں سج دھج کے ساتھ نمودار ہونا   | شانِ کبریائی |
| آہستہ آہستہ، ہولے ہولے، بتدرنج   | جلوہ گر      |
|  | رفته رفتہ    |

|  |                  |
|--|------------------|
| غمولی گرد اور مٹی کے مانند                             | غبارنا توں       |
| تصورو خیال کا پرندہ                                    | طاڑِ وہم و تصوّر |
| تسخیر کیا گیا، بالغ کیا گیا، قبضہ کیا گیا، فتح کیا گیا | مسخر             |
| بادل، گھٹا، بدلی                                       | ابر              |
| بجلی، صاعقه  | برق              |
| ہوا، باو، پون  | باد              |
| تک، تاکہ، جب تک  | تا               |
| تری اور خشکی، تمام دنیا، سمندر اور رز میں              | بحروبر           |
| جنگل، صحراء، بیابان، شطرنج کا تختہ                     | دشت و در         |
| سچ، صدق، لائق، واجب، اللہ تعالیٰ                       | حق               |
| نیابت، اللہ والے کی جائشی، خلیفہ کا عہدہ               | خلافت            |
| یونان کا مشہور عالم جو فلسفے کا معلم اول کہلاتا ہے۔    | ارسطو            |
| وہ سکندر کا استاد اور مشیر تھا                         |                  |
| یونان کے ایک بہت بڑے حکیم کا نام جو بقراط کا شاگرد     | افلاطون          |
| اور ارسطو کا استاد تھا                                 |                  |
| فخر، غمزہ، عزت، بڑائی                                  | ناز              |
| پرانی جنتی، بے کار چیز، کئی چیز                        | تقویم پاریسہ     |
| دانشمندی، دانائی، آگاہی، فنکاری                        | علم و ہنر        |
| تحقیق کی جمع بمعنی دریافت کرنا کھونج لگانا             | تحقیقات          |

|  |             |
|--|-------------|
| ہرگھڑی، ہر وقت، برابر، متواتر، پے در پے  | دم بدم      |
| وہ علم جو بنی نوع انسان کی دسترس میں ہو  | علم بشر     |
| ایجاد کرنے کی طاقت یا قدرت               | قوت ایجاد   |
| صحح، فخر، تڑکا                           | سحر         |
| اسباب، ضروری چیزیں، آلات، بندوبست        | ساز و سامان |
| سورج، خورشید، مہر                        | آفتاب       |
| دھار، جوش، ولہ، پانی کا بھاؤ             | زو          |
| تہ و بالا، درہم برہم، الٹ پلٹ، بتاہ      | زیر وزیر    |
| ہنر، کاری گری، ہاتھ کا کام               | دستکاری     |
| صنعت کی جمع بمعنی کاری گری، دستکاری      | صنعتوں      |
| دانشمندی، دانائی، ہنرمندی، آگاہی، فنکاری | علم و حکمت  |
| غفلت کرنے والے، بے پروا، بے خبر لوگ      | غافلوں      |

## مشقی سوالات

### مختصر ترین سوالات:

- ۱۔ ”جدید“ کسے کہتے ہیں؟
- ۲۔ حالی کس عظیم شاعر کے شاگرد تھے؟
- ۳۔ حالی کس شاعر کے پوں کو پڑھاتے تھے؟

### مختصر سوالات:

- ۴۔ لفظ ”ابرو“ کے مترادف الفاظ لکھیے۔
- ۵۔ حالی کی نشری کتابوں کے نام لکھیے۔
- ۶۔ حالی کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟

### تفصیلی سوالات:

- ۷۔ ارسطو اور افلاطون کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟
- ۸۔ نظم ”جدید ترقیات“ کا خلاصہ لکھیے۔

## علّامہ اقبال

شیخ محمد اقبال نام اور اقبال سنت خلص۔ ۹ نومبر ۱۸۷۷ء کو پنجاب کے مشہور شہر سیال کوٹ میں ولادت پائی۔ اقبال کے والد کا نام شیخ نور محمد اور والدہ کا نام امام بی تھا۔ ان کے بزرگوں کا سلسلہ سپر و گوت کے کشمیری پنڈتوں سے ملتا ہے۔ جو بعد میں حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے۔

اقبال نے ابتدائی تعلیم اسکاچ مشن اسکول میں داخل ہو کر مولوی میر حسن شاہ سے حاصل کی تھی۔

۱۸۹۳ء میں اشٹر کا امتحان پاس کر کے گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لیا اور ۱۸۹۷ء میں بی۔ اے کی ڈگری حاصل کی۔ ۱۸۹۹ء میں فلسفے میں ایم اے کیا اس دوران انہیں فلسفے کے مشہور پروفیسر مسٹر آرنلڈ سے بھی فیض یاب ہونے کا موقع ملا۔

اقبال پہلے اور نیٹل کالج لاہور اور اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں انگریزی اور فلسفے کے پروفیسر مقرر ہوئے۔ ۱۹۰۵ء میں مزید تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے اقبال یورپ گئے۔ آپ کیمبرج یونیورسٹی سے فلسفے میں پی اچ۔ ڈی۔ اور لندن سے بیرسٹری کی ڈگری لے کر ۱۹۰۸ء میں ہندوستان لوٹے اور ہائی کورٹ میں وکالت کرنے لگے۔ چونکہ وکالت کا پیشہ ان کی طبیعت کے مطابق نہیں تھا اس لیے وکالت ترک کر دی۔ حکومت برطانیہ نے انہیں ۱۹۲۳ء میں ”سر“ کے معزز خطاب سے نوازا۔ اس کے علاوہ انہیں ”شاعرِ مشرق“ اور ”رومی عصر“ جیسے خطابات سے بھی جانا جاتا ہے۔

اقبال نے تین شادیاں کی تھیں مگر ان کی شادی شدہ زندگی مختلف مسائل میں گزرا۔ چونکہ اقبال دل کے مریض تھے اس لیے ان کی صحت مسلسل خراب ہوتی گئی اور آخر کار ۱۹۳۸ء کو بمقام لاہور آپ نے انتقال فرمایا۔

اقبال کی شاعری کا آغاز روایتی انداز کی غزل گوئی سے ہوا تھا۔ لیکن جلد ہی ان کی توجہ قومی وطنی شاعری کی طرف ہو گئی۔ اقبال نے مولوی میر حسن شاہ اور داعی دہلوی سے اپنے کلام پر اصلاح لی۔ ان کی شاعری فکر و عمل، بلند ہمتی، یقین کامل، حبِ الوطنی، قومی تجھیتی اور انسان دوستی کا پیغام دیتی ہے۔

اردو میں اقبال کی شاعری کے چار مجموعے بعنوان 'بانگ درا'، 'بال جبریل'، 'ضربِ کلیم' اور 'ارمغان حجاز' شائع کر مقبولیت حاصل کر چکے ہیں۔ ان کی مشہور نظموں میں 'حضر راہ'، 'طلوعِ اسلام'، 'لینن خدا کے حضور میں'، 'شکوه'، 'جوابِ شکوه'، 'فرشتوں کا گیت'، 'ساقی نامہ' اور 'مسجدِ قرطبا' وغیرہ کا شمار ہوتا ہے۔

نظم شعاعِ امید، اقبال نے اپنے انتقال سے دو برس قبل ۱۹۳۶ء میں تخلیق کی تھی۔ یہ نظم ان کے شعری مجموعے 'ضربِ کلیم' کی نمائندہ نظموں میں مخصوص مقام رکھتی ہے۔ نظم تمثیلی انداز میں لکھی گئی ہے۔ اس نظم میں سورج اور شعاع کا مکالمہ پیش کیا گیا ہے۔ سورج اپنی شاعروں کو یہ پیغام دیتا ہے کہ تم اس دنیا سے آسمان میں لوٹ آؤ کیونکہ دنیا کے لوگ بیدار نہیں ہیں۔ لیکن ایک شوخ اور چنچل کرنے سورج سے یہ کہتی ہے کہ میں تب تک ہندوستان کی تاریک فضا کو نہیں چھوڑوں گی جب تک کہ خواب غفلت میں سوئے ہوئے لوگوں کو بیدار نہ کر دوں۔ یہ نظم ہندوستانیوں کو مایوسی اور نا امیدی سے نکال کر حوصلہ مندی اور بیداری کا پیغام دیتی ہے۔

## شاعرِ اُمید

(۱)

سورج نے دیا اپنی شاعروں کو یہ پیغام  
 دنیا ہے عجب چیز کبھی صبح کبھی شام  
 مدت سے تم آوارہ ہو پہنائے فضا میں  
 بڑھتی ہی چلی جاتی ہے بے مہری لیام  
 نے ریت کے زروں پہ چمکنے میں ہے راحت  
 نے مثل صبا طوف گل و لالہ میں آرام  
 پھر میرے تخلی کدہ دل میں سما جاؤ  
 چھوڑو چمنستاں و بیابان و در و بام

(۲)

آفاق کے ہر گوشے سے اٹھتی ہیں شعاعیں  
 بچھڑے ہوئے خورشید سے ہوتی ہیں ہم آغوش  
 اک شور ہے مغرب میں اجالا نہیں ممکن  
 افرنگ مشینوں کے دھوئیں سے ہے سیہ پوش  
 مشرق نہیں گو لذت نظارہ سے محروم  
 لیکن صفتِ عالم لاہوت ہے خاموش

پھر ہم کو اُسی سینہ روشن میں چھپا لے  
اے مہر جہاں تاب نہ کر ہم کو فراموش

اک شوخ کرن، شوخ مثالِ نگہ حور  
آرام سے فارغ صفت جوہر سیما ب  
بولی کہ مجھے رخصت تنوری عطا ہو  
جب تک نہ ہو مشرق کا ہر اک زرہ جہاں تاب

چھوڑوں گی نہ میں ہند کی تاریک فضا کو  
جب تک نہ اٹھیں خواب سے مردان گراں خواب  
خاور کی امیدوں کا یہی خاک ہے مرکز  
اقبال کے اشکوں سے یہی خاک ہے سیراب

چشمِ مہ و پرویں ہے اسی خاک سے روشن  
یہ خاک کہ ہے جس کا خZF ریزہ دُرتاB  
اس خاک سے اُٹھے ہیں وہ غوّاصِ معانی  
جن کے لیے ہر بحر پر آشوب ہے پایاب

جس ساز کے نغموں سے حرارت تھی دلوں میں  
 محفل کا وہی ساز ہے بیگانہ مضراب  
 بت خانے کے دروازے پہ سوتا ہے بہمن  
 تقدیر کو روتا ہے مسلمان تہبہ محراب

مشرق سے ہو بیزارنا مغرب سے حزرکر  
 فطرت کا اشارہ ہے کہ ہرشب کو سحر کر

## مشکل الفاظ اور ان کے معانی

| معانی                                      | الفاظ          |
|--|----------------|
| امید کی کرن                                | شُعاعِ اُمید   |
| بے مقصد بھٹکنے والا                        | آوارہ          |
| فضا کی وسعت                                | پھائے فضا      |
| زمانے کی ناموافقت، بے توجیہ، تقدیر کی گردش | بے مہری یا یام |
| آرام                                       | راحت           |
| مشرقی ہوا کی طرح                           | مثلِ صبا       |
| طواف - آس پاس چکر لگانا                    | طوف            |
| کونہ                                       | گوشہ           |
| جلوہ گاہ، روشنی کا جگہ                     | تحجّلی کرہ     |
| جنگل                                       | بیابان         |
| آبادی (دروازے اور حپت)                     | دروبام         |
| آسمان - دنیا                               | آفاق           |
| منا - ملنے والی                            | ہم آغوش        |
| مغربی تہذیب پر چلنے والے                   | مغرب           |
| یورپ - انگریز                              | افرگ           |

|   |                  |
|---|------------------|
| کالا بس پہنے والے (تاریک)                                     | سیہ پوش          |
| مشرقی تہذیب کے مانے والے                                      | مشرق             |
| دیدار کی لذت  | لذت انتظار       |
| فنا فی اللہ کا مقامِ تصوف میں وہ درجہ جو سالک کو حاصل ہوتا ہے | عالمِ لاہوت      |
| سورج دنیا کو روشن کرنے والا (عالم بالا)                       | مہر جہاں تاب     |
| نظر انداز   | فراموش           |
| اصل فطرت  | جوہر             |
| پارہ ایک دھات۔ جو ایک جگہ پہنیں ٹھہرتی                        | سیما ب           |
| روشن کرنے کی اجازت  | رخصتِ تنور       |
| گھری نیند میں سوئے ہوئے لوگ                                   | مردانِ گراں خواب |
| مشرق  | خاور             |
| شیا، جھمکا، وہ سات ستارے جو پاس پاس رہتے ہیں                  | پروین            |
| ٹھیکری کا ٹکڑا  | خذف ریزہ         |
| سچاً موقت   | درستاب           |
| حقیقت کی تہہ تک پہنچنے والے عالم                              | غواصِ معانی      |
| غوطہ خور  | غواص             |
| سمندر   | بحر              |
| ہنگاموں اور مصیبتوں سے گھرا ہوا                               | پرآشوب           |
| تہہ میں بیٹھنے والا   | پایاب            |

|   |              |
|---|--------------|
| مراد خاموش، مضراب جس سے باجا بجا ماجاتا ہے    | بیگانہ مضراب |
| مسجد میں پیش امام کے کھڑے ہونے کی جگہ کے نیچے | تہہ محراب    |
| ناخوش بدل                                     | بیزار        |
| پرہیز   | حدر          |
| اضافہ، بیشی، بڑھو تری                         | مزید         |
| عڑت دار، بڑا، با وقت                          | معزّز        |
| تعریف کے طور پر اچھا نام                      | خطاب         |
| ہوشیاری، عقل، سمجھ، دانائی                    | بیداری       |

## مشقی سوالات

**مختصر ترین سوالات:**

- (۱) ”شُعاعِ اُمید“ کے کیا معنی ہیں؟
- (۲) لفظ ”عالمِ تاب“ کے معنی بتائیے۔
- (۳) ”عالمِ لاہوت“ سے اقبال کی کیا مراد ہے؟

**مختصر سوالات:**

- (۴) اقبال کے دو شعری مجموعوں کے عنوانات لکھیے۔
- (۵) اقبال کون کن القاب سے یاد کیا جاتا ہے؟
- (۶) ”شُعاعِ اُمید“ کے علاوہ اقبال کی دونوں مجموعوں کے نام لکھیے۔

**تفصیلی سوالات:**

- (۷) نظم ”شُعاعِ اُمید“ کا خلاصہ لکھیے۔
- (۸) اقبال کی سوانح لکھتے ہوئے ان کے کلام کی چند خصوصیات بیان کیجیے۔

## برج نرائے چکبست

برج نرائے نام، خاندانی لقب "چکبست"، تخلص کچھ نہیں۔ اس سلسلے میں خود فرماتے ہیں:

ذکر کیوں آئے گا بزمِ شعر میں اپنا  
میں تخلص کا بھی دنیا میں گنہگار نہیں

اس کے باوجود انہوں نے اپنے خاندانی لقب "چکبست" کو اپنے کلام میں جگہ جگہ تخلص کے طور پر استعمال کیا ہے۔ چکبست کی ولادت ۱۸۸۲ء میں بمقام فیض آباد ہوئی۔ آپ کے اہل خاندان کشمیری برصغیر تھے۔ آپ کے والد کا نام اُدیت زرائے چکبست تھا جو یقین تخلص فرماتے تھے۔ چکبست کی تعلیم و تربیت لکھنؤ میں ہوئی۔ ۱۹۰۵ء میں آپ نے کنگ کالج لکھنؤ سے بی۔ اے۔ پاس کرنے کے بعد ۱۹۰۸ء میں قانون کی ڈگری حاصل کر کے وکالت شروع کی۔ اپنی قابلیت و صلاحیت کی وجہ سے آپ لکھنؤ کے ممتاز وکیلوں میں شمار ہوتے تھے۔ ۱۹۲۶ء رفروری کو ایک مقدمے کے سلسلے میں آپ رائے بریلی سے لکھنؤ لوٹ رہے تھے تب ریلوے اسٹیشن پر آپ فانچ کا شکار ہو گئے۔ زبان بند ہو گئی اور چند گھنٹوں میں آپ آنجھانی ہو گئے۔

چکبست نے غزل گوئی سے اپنی شاعری کی ابتداء کی تھی۔ چونکہ آپ نے اساتذہ کے کلام کا گہرائی سے مطالعہ کیا تھا تاہم آپ کے کلام پر میر، غالب، انیس اور آتش وغیرہ کے کلام کا اثر صاف دکھائی دیتا ہے۔

اس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا کہ چکبست نے اردو نظم نگاری کے دامن کو اپنی وسعتوں سے مالا

مال کیا۔ آپ نے قومی تجھیتی، وطن پرستی، ذہنی بیداری اور اصلاح معاشرت جیسے موضوعات پر خصوصی توجہ صرف کی۔ مناظر قدرت کی عکاسی میں چکبست کو مہارت حاصل تھی۔ زبان نہایت صاف اور انداز بیان دلکش تھا۔ آپ کا مجموعہ کلام ”صحیح وطن“ کے عنوان سے شائع ہوا۔ علاوہ ازیں ”صحیح امید“ نامی ایک رسالہ نکال کر آپ نے اردو صحافت کی تاریخ میں بھی اپنا نام درج کروایا۔

چکبست کی مشہور نظموں میں ’آوازہ قوم‘، ’سیر دہرہ دون‘، ’خاکِ وطن‘ اور ’گوکھلے کا مرشیہ‘ اہم ہیں۔ نظم راما میں کا ایک سین، میں چکبست نے اپنے مذہبی عقائد کی عکاسی کی ہے۔ انھوں نے اس نظم کے حوالے سے یہ واضح کیا ہے کہ رام چندر جی اپنے ماں باپ کے فرمان بردار بیٹے تھے۔ انھوں نے اپنے والد راجا دشت تھوڑے جی کے حکم کی تعمیل میں شاہی ٹھاٹ باٹ چھوڑ کر بن بان بس کو پسند کیا۔ یہ نظم رام چندر جی کا مثالی کردار (آ درش روپ) پیش کرتی ہے چکبست کے دل گذاز انداز نے نظم کی اہمیت کو بڑھادیا ہے۔ الفاظ کی چُست بندش اور خیالات کی پاکیزگی نے اس نظم کو ممتاز کرن بنا دیا ہے۔

برج نرائیں حکایت

## رامائن کا ایک سین

(انتخاب)

(رام چندر جی اپنی ماں سے اجازت طلب کرنے جا رہے ہیں)

|  |   |
|--|---|
| رخصت ہوا وہ باپ سے لے کر خدا کا نام      | راہِ وفا کی منزل اول ہوئی تمام          |
| منظور تھا جو ماں کی زیارت کا اہتمام      | دامن سے اشک پونچھ کے دل سے کیا کلام     |
| اظہار بے کسی سے ستم ہوگا اور بھی         |   |
| دیکھا ہمیں اُداس تو غم ہوگا اور بھی      |   |
| دل کو سنبھالتا ہوا آخر وہ نو ہمال        | خاموش ماں کے پاس گیا صورتِ خیال         |
| دیکھا تو ایک در میں ہے بیٹھی وہ خستہ حال | سکتہ سا ہو گیا ہے یہ ہے شدتِ ملاں       |
| تن میں لہو کا نام نہیں زرد رنگ ہے        |   |
| گویا بشر نہیں کوئی تصویرِ سنگ ہے         |   |
| کیا جانے کس خیال میں گم تھی وہ بے گناہ   | نورِ نظر پہ دیدہ حسرت سے کی نگاہ        |
| جُبیش ہوئی لبوں کو، بھری ایک سرد آہ      | لی گوشہ ہائے چشم سے اشکوں نے رُخ کی راہ |
| چہرے کا رنگ حالتِ دل کھولنے لگا          |   |
| ہر مُوئے تن زبان کی طرح بولنے لگا        |   |
| روکر کہا خموش کھڑے کیوں ہو میری جاں      | میں جانتی ہوں جس لیے آئے ہوتم یہاں      |

سب کو خوشی یہی ہے تو صحراء کو ہو رواں      لیکن میں اپنے منہ سے نہ ہرگز کھوں گی ہاں  
 کس طرح بن میں آنکھوں کے تارے کو بھیج دوں  
 جو گی بنا کے راج ڈلارے کو بھیج دوں

لیتی کسی فقیر کے گھر میں اگر جنم      ہوتے نہ میری جان کو سامان یہ بھم  
 ڈستا نہ سانپ بن کے مجھے شوکت و حشم      تم میرے لال تھے، مجھے کس سلطنت سے کم  
 میں خوش ہوں پھونک دے کوئی اس تخت و تاج کو  
 تم ہی نہیں تو آگ لگا دوں گی راج کو

کن کن ریاضتوں سے گزارے ہیں ماہ و سال      دیکھی تمہاری شکل جب اے میرے نو نہال  
 پورا ہوا جو بیاہ کا ارمان تھا کمال      آفت یہ آئی مجھ پہ ہوئے جب سفید بال  
 چھٹی ہوں ان سے جو گلیا جن کے واسطے  
 کیا سب کیا تھا میں نے اسی دن کے واسطے

سُن کر زباں سے ماں کی یہ فریاد درد خیز      اس خستہ جاں کے دل پہ چلی غم کی تیغ تیز  
 عالم یہ تھا قریب کہ آنکھیں ہوں اشک ریز      لیکن ہزار ضبط سے رونے سے کی گریز  
 سوچا یہی کہ جاں سے بے کس گزر نہ جائے  
 ناشاد ہم کو دیکھ کے ماں اور مر نہ جائے

پھر عرض کی یہ مادرِ ناشاد کے حضور      مایوس کیوں ہیں آپِ الٰم کا ہے کیوں وفُور  
 صدمہ یہ شاقِ عالم پیری میں ہے ضرور      لیکن نہ دل سے کبھیے صبر و قرار دُور  
 شایدِ خزاں سے شکلِ عیاں ہو بہار کی  
 کچھ مصلحتِ اسی میں ہو پرور دگار کی

دیکھے ہیں اس سے بڑھ کے زمانے نے انقلاب  
 جس سے کہ بے گناہوں کی عمریں ہوئیں خراب  
 سوزِ دروں سے قلب و جگر ہو گئے کتاب  
 پیری مٹی کسی کی کسی کا لٹا شباب  
 کچھ بن نہیں پڑا جو نصیبے بگڑ گئے  
 وہ بجلیاں گریں کہ بھرے گھر اجز گئے  
 پڑتا ہے جس غریب پہ رنج و محن کا بار  
 کرتا ہے اس کو صبر عطا آپ کردگار  
 مایوس ہو کے ہوتے ہیں انساں گناہ گار  
 یہ جانتے نہیں وہ ہیں دانائے روزگار  
 انسان اس کی راہ میں ثابت قدم رہے  
 گردن وہی ہے، امر رضا میں جو خم رہے  
 اور آپ کو تو کچھ بھی نہیں رنج کا مقام  
 بعد سفر وطن میں ہم آئیں گے شاد کام  
 ہوتے ہیں بات کرتے میں چودہ برس تمام  
 قائم امید ہی سے ہے، دُنیا ہے جس کا نام  
 اور یوں کہیں بھی رنج و بلا سے مفر نہیں  
 کیا ہوگا دو گھری میں کسی کو خبر نہیں  
 اپنی نگاہ ہے کرم کار ساز پر  
 صحراء چمن بنے گا وہ ہے مہر باں اگر  
 جنگل ہو یا پہاڑ سفر ہو کہ ہو حضر  
 رہتا نہیں وہ حال سے بندے کے بے خبر  
 اُس کا کرم شریک اگر ہے تو غم نہیں  
 دامانِ دشت، دامنِ مادر سے کم نہیں

## مشکل الفاظ اور ان کے معانی

| الفاظ    | معانی                                  |
|----------|--|
| صلاحیت   | بہتری، لیاقت، سمجھ                     |
| آنجمانی  | جومر کر دوسری دنیا میں چلا جائے        |
| وُسعت    | گشادگی، چوڑائی، پھیلاؤ، گنجائش         |
| عقائد    | عقیدہ کی جمع بمعنی یقین، ایمان، اعتبار |
| دل گداز  | دل کو نرم کرنے والا                    |
| رخصت     | اجازت، منظوری، وداع، روانگی، گوش       |
| راہِ وفا | وفاداری کا راستہ                       |
| تمام     | گل، سب، مکمل، خاتمه                    |
| زیارت    | دیدار، کسی مقدس مقام کا نظارہ          |
| اهتمام   | انتظام، بندوبست، سرانجام کرنا          |
| کلام     | سخن، بات چیت، گفتگو                    |
| اطهار    | ظاہر کرنا یا ہونا، کھولنا، بیان        |
| بے کسی   | لاچاری، عاجزی، بے مددگاری              |
| ستم      | ظلم، آزار، ایذا، زیادتی                |
| نوہاں    | کم عمر یا کم سن بچہ                    |

|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| صورتِ خیال    | معاملہ، کیفیت، ظاہری روئاد         |
| ختنه حال      | دل شکستہ، رنجیدہ، ناخوش، غم گین    |
| سکته          | تجھیر یا تعجب کی حالت، حیرت خاموشی |
| شدّتِ ملال    | رنج و غم کی سختی یا کثرت           |
| بشر           | آدمی، انسان، منش                   |
| زرد           | پیلا، شهری                         |
| تصویرِ سنگ    | پتھر کی مورت                       |
| بے گناہ       | بے صور، بے خطاء، بے جرم            |
| نورِ نظر      | آنکھوں کی روشنی، کنایتاً بیٹا      |
| دیدہ حسرت     | حسرت بھری نگاہ                     |
| جُنبش         | حرکت، گردش، ہلنا                   |
| سرداہ         | ٹھنڈی سانس بھرنا، افسوس کرنا       |
| گوشہ ہائے چشم | آنکھوں کے کونے                     |
| رُخ           | چہرہ، صورت                         |
| مُوئے تن      | جسم کے بال، رو نگٹے، رُوان         |
| صحرا          | ویرانہ، بیابان، ریگستان            |
| روان          | جاری، بہتا ہوا، تیز                |
| ہرگز          | کبھی نہیں                          |
| بن            | جنگل، صحرا، بیابان، ریگستان        |

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| جوگی       | ہندوفقیر، پچاری، جو دنیا کو ترک کر دے |
| راج دلارا  | شہزادہ، راج کمار                      |
| بہم        | حاصل ہونا، میسر آنا، مہیا ہونا        |
| شوکت و حشم | شان، شکوه، بد بہ، مرتبہ، رتبہ         |
| سلطنت      | بادشاہی، حکومت، عمل داری              |
| ریاضتوں    | سخت محنت و مشقت                       |
| ماہ و سال  | سال اور مہینے                         |
| جوگ        | موقع محل، نیک ساعت، صحیح وقت          |
| درد خیز    | درد پیدا کرنے والا، درد انگیز         |
| خستہ جاں   | خنجی، گھایل، بد حال                   |
| تغییر      | تیز تلوار، تیز شمشیر                  |
| اشک ریز    | رونا، آنسو بر سانا                    |
| ضبط        | صبر و تحمل، پی جانا، جذب کرنا         |
| گریز       | بھاگنا، پر ہیز کرنا، اجتناب کرنا      |
| ناشاد      | رنجیدہ، غمگین، بد قسمت، نامراد        |
| مادر       | مال، والدہ                            |
| الم        | رنج، غم، دکھ                          |
| وفور       | افراط، بہتان، زیادتی، کثرت            |
| صدمة       | رنج، غم، دکھ، الم                     |

|  |               |
|--|---------------|
| دشوار، دو بھر، ناگوار                                  | شاق           |
| ضعیفی کا دور، بزرگی کا زمانہ                           | عالم پیری     |
| پت جھٹ، فصلِ خریف، بے رونقی                            | خرزاں         |
| ظاہر، نمودار، کھلا ہوا                                 | عیاں          |
| نیک صلاح، اچھا مشورہ، مناسب تجویز                      | مصلحت         |
| تغیر و تبدل، گردش، دور، نیرنگِ زمانہ                   | انقلاب        |
| قلبی سوز و درد، اندر وونی دکھ                          | سوزُ دروں     |
| دل، جان، کلیج  | قلب و جگر     |
| غم، رنج، آزردگی، ناخوشی                                | رنج و محن     |
| خالق، خدائے تعالیٰ                                     | کردار         |
| وقت، زمانہ یادو رکو جانے والا (نظم میں خدا سے مراد ہے) | دانائے روزگار |
| مستقل مزاج، ارادے کا مضبوط، عہد کا پکا                 | ثابت قدم      |
| جھکا ہوا، ٹیڑھا  | خم            |
| بامراد، کامیاب، خوشحال                                 | شاد کام       |
| دکھ، درد، غم، تکلیف                                    | رنج و بلا     |
| بھاگنا، فرار ہونا                                      | مفر           |
| ایک جگہ قیام، پڑاؤ، اقامت                              | حضر           |
| جنگل کا دامن یا آنچل، گوشۂ دشت                         | دامانِ دشت    |
| ماں کا دامن یا آنچل                                    | دامانِ مادر   |

## مشقی سوالات

**مختصر ترین سوالات:**

- ۱۔ ”رخصت“ کے کیا معنی ہوتے ہیں؟
- ۲۔ رام چندر جی کس کا نام لے کر اپنے والد سے رخصت ہوئے؟
- ۳۔ ”نورِ نظر“ کسے کہتے ہیں؟

**مختصر سوالات:**

- ۴۔ لفظ ”عیاں“ اور ”اهتمام“ کے مترادف الفاظ لکھیے۔
- ۵۔ نظم ”رامائش“ کا ایک سین، کے آخری بند کا مطلب لکھیے۔
- ۶۔ ”کیا جانے“ کس خیال میں تھی گم وہ بے گناہ اس مصروع کی وضاحت کیجیے۔

**تفصیلی سوالات:**

- ۷۔ نظم ”رامائش کا ایک سین“ کے ابتدائی دو بندوں کی تشریح کیجیے۔
- ۸۔ چکبست کی سوانح عمری لکھتے ہوئے ان کے کلام کی خصوصیات تحریر کیجیے۔

## قابل اجمیری

عبدالرحیم نام، قابل تخلص۔ ۲۷ اگست ۱۹۳۱ء کو مقام قصبہ چرلی، ضلع اجمیر (راچپوتانہ) میں پیدا ہوئے۔ قابل کے والد کا نام عبدالکریم تھا جو اجمیر میں مکانوں کی ٹھیکیداری کا کام کرتے تھے۔ چونکہ قابل بچپن ہی میں اپنے والد کے سایہ عاطفت سے محروم ہو گئے تھے اس لیے ان کی تعلیم، تربیت اور پروش دادا دادی کی زرینگرانی ہوئی۔ قابل نے اپنی تعلیم دارالعلوم معینیہ عثمانیہ، درگاہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی، اجمیر میں حاصل کی۔ قابل اپنے اساتذہ کے محبوب شاگرد تھے۔ حکیم محمد جبیل دہلوی نے قابل کی تعلیم میں دلچسپی دیکھ کر خوب حوصلہ افزائی کی۔ قابل نے قرآن مجید کامل کرنے کے بعد صرف وہ کی تعلیم کے ساتھ ساتھ شیخ سعدی کی 'گلستان' اور 'بوستان' پڑھی۔ تعلیم سے فارغ ہو کر قابل نے کچھ دنوں عرضی نویسی کو اپنا ذریعہ معاش بنایا۔

قابل کو ابتدائی عمر سے شعروشاوری کا شوق تھا اس لیے انہوں نے ابتدأ ایک مشہور شاعر صوفی عبد الرحمن ارمان کے حلقة تلمذہ میں جگہ بنائی۔ کچھ عرصے بعد قابل نے استادخن مولانا خواجہ عبدالباری معنی اجمیری کی شاگردی قبول کی۔ معنی اجمیری کی نگرانی میں قابل عمدہ شعر کہنے لگے۔ کئی نقادوں نے قابل کو راجستان کا روایت شکن شاعر قرار دیا ہے۔

تھسیم ہند کے بعد قابل نے بادل ناخواستہ حیدر آباد سندھ (پاکستان) کو اپنا مسکن بنایا۔ چونکہ قابل تپ دق کی مریض تھے اس لیے یہ خاندانی مرض ان کے لیے جان لیوا ثابت ہوا۔ ایک نرس، جنہوں نے قابل کی تیمارداری کی تھی، ان کی اہلیہ بن گئیں اور بیگم نرگس کے نام سے یاد کی جانے لگیں۔ نرگس صاحبہ نے اگرچہ قابل کی خوب دیکھ بھال کی لیکن ۱۳ اکتوبر ۱۹۶۲ء کو قابل نے حیدر آباد سندھ (پاکستان)

میں انتقال کیا۔

قابل کو ادب کے ساتھ ساتھ صحافت کا بھی شوق تھا تاہم انہوں نے مولانا ماہر القادری کے رسائل 'فاران' کی صحافتی سرگرمیوں میں حصہ لیا۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر عبدالحیم نامی اور مخدوم محمد یوسف کے تعاون سے ایک ہفت روزہ پرچہ 'شاہین' جاری کیا۔ علاوہ ازیں روزنامہ 'جاوید' اور 'آفتاب' سے بھی ان کی وابستگی رہی۔ قابل کی تخلیقات ان دونوں اخبارات میں متواتر شائع ہوتی تھیں۔

قابل کے سوا شاعر کا ایک مختصر تین مجموعہ بعنوان 'قابل' کے سو شعر، جگہ مراد آبادی کی تحریر کے ساتھ شائع ہوا۔ قابل کے انتقال کے بعد ان کی بیگم نرگس قابل نے قابل کے دوست محسن بھوپالی کی کوششوں سے قابل کی پہلی برسمی کے موقع پر ۱۹۶۳ء میں ان کا مجموعہ کلام دیدہ بیدار، اپنے ذاتی خرچ سے شائع کرایا۔ اس کے بعد ۱۹۶۶ء میں ان کا دوسرا مجموعہ کلام 'خونِ رگ جان' منظر عام پر آیا۔ ۱۹۹۲ء میں متحده عرب امارات سے 'کلیات قابل' کی اشاعت عمل میں آئی۔ قابل کے صاحب زادے ظفر قابل موقع بے موقع قابل کا غیر مطبوعہ کلام منظر عام پر لاتے رہتے ہیں۔ ۲۰۰۵ء میں انہوں نے قابل کا ایک شعری مجموعہ 'عشق انسان کی ضرورت ہے' شائع کروایا جس میں قابل کی نمائندہ غزلیں اور نظمیں شامل ہیں۔

قابل کے تلامذہ کی فہرست بہت مختصر ہے جس میں عبدالطیف رند اور عبدالرحمٰن مسرور صدیقی جیسے شاعروں کے نام شامل ہیں۔ قابل نے اگرچہ غزلوں کے مقابلے نظمیں کم کہی ہیں لیکن ان کی نظمیں اپنی مثال آپ ہونے کا درجہ رکھتی ہیں۔ ان کی مشہور اور کامیاب نظمیوں میں 'چاندنی رات'، 'امر و ز'، 'جہاں نو' اور 'رفیقانِ اجمیر' کے نام کو پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ قابل کو غزل گوئی کی طرح نظم نگاری میں بھی قدرت حاصل تھی۔

بقول پروفیسر ارشد رضا:

”قابل کی شاعری میں زندگی کی تلخیاں اور نفیسیات کی باریکیاں ایسی سموئی ہوئی ہیں جس طرح ایک کامل مصور مختلف رنگوں کے مزاج اور خطوط کی کشیدگی سے ایک ایسی تصویر بناتا ہے کہ دیکھنے والے پر سحر کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔“

قابل کی نظم بیادِ اجمیر، مادر وطن سے ان کی محبت و عقیدت کی مثال پیش کرتی ہے۔ جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے کہ تقسیم ہند کے بعد قابل کو بادلِ ناخواستہ اجمیر سے بھرت کرنی پڑی تھی، لیکن وہ تادمِ حیات اجمیر اور اہل اجمیر کو نہیں بھولے۔ خواجه کا آستانہ، جھالرے کا پانی اور بچپن کا یار جانی یاد آنے پر قابل زارو قطار اشک بار ہوتے تھے۔ یہ نظم نہیں بلکہ قابل کی فریاد ہے۔ اس نظم اور اختزشیر اپنی کی نظم اودیس سے آنے والے بتا، میں بہت مماثلت ہے۔

## بیادِ اجمیر

جب ابرِ مست چھایا پیغامِ یار لایا  
 جب کوئل نے گیت گایا پھول مسکرایا  
 اجمیر یاد آیا  
 بلبل نے جب پکارا اک تیر دل په مارا  
 جذبات کو ابھارا غم کا غبار چھایا  
 اجمیر یاد آیا  
 راتوں کی خامشی میں تاروں کی روشنی میں  
 دل نے سکون نہ پایا شفاف چاندنی میں  
 اجمیر یاد آیا  
 فکرِ چن نہ پوچھو یادِ وطن نہ پوچھو  
 دیوانہ پن نہ پوچھو اکثر فریب کھایا  
 اجمیر یاد آیا  
 خوجہ کا آستانہ دربارِ خروانہ

وہ کیف وہ ترانہ      کچھ بھی نہ ساتھ لایا  
 اجmir یاد آیا  
 وہ جھالرے کا پانی      آب بقا کا ثانی  
 بچپن کا یار جانی      اب ہوگیا پرایا  
 اجmir یاد آیا  
 معنی سا آہ رہبر      ہائے نیاز و اطہر  
 اب کیا کہیں کہ دل پر      کس کس کا داغ کھایا  
 اجmir یاد آیا

۳، ۲، انشعراء اجmir

## مشکل الفاظ اور ان کے معانی

| الفاظ           | معانی  |
|-----------------|--|
| روایت شکن       | پرانے طور پر یقous یا چلن کو توڑ کرنئی راہ نکالنے والا         |
| ہجرت            | وطن کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا                                  |
| عرضی نویسی      | قانونی اجازت سے عرضیاں لکھنے والا                              |
| حوالہ افزائی    | ہمت بڑھانا، شبابش دینا   |
| حلقة تلامذہ     | شاگردوں کی مجلس یا جماعت                                       |
| صرف و نحو       | وہ علم جس میں لفظوں کا جوڑ توڑ اور ان کے بولنے، برتنے کا قاعدہ |
| تتخیاں          | بیان کیا جاتا ہے   |
| سحر             | کڑواہٹ، سختی، تیزی، ترشی                                       |
| کیفیت طاری ہونا | جادو، ٹلسما  |
| بادل ناخواستہ   | حالت، عالم اور نگ کا چھانا یا غلبہ ہونا                        |
| تادم حیات       | دل سے نہیں چاہتے ہوئے بھی                                      |
| زار و قطار      | تاعمر، زندگی بھر، زندہ رہنے تک                                 |
| ابر مست         | اشک باری کرنا، بہت رونا  |
| پیغام           | مستی بھرا بادل   |
|                 | پیام، سند یسہ، خبر پہنچانا                                     |

|   |         |
|---|---------|
| جذبہ کی جمع بمعنی جوش، ولولہ، کشش         | جذبات   |
| گرد، دھول، خاک، ملال، آزردگی              | غبار    |
| نہایت صاف، جس میں آر پار نظر آئے          | شفاق    |
| دغا، بکر، دھوکا، جھانسہ، شعبدہ            | فریب    |
| بزرگ کا مزار، چوکھٹ، روضہ مبارک کا دروازہ | آستانہ  |
| شاہانہ، بادشاہانہ، بادشاہی طریقے والا     | خسروانہ |
| نشہ، خمار، سرور                           | كيف     |
| نغمہ، راگ، گیت                            | ترانہ   |
| آبِ حیات، امرت جل                         | آبِ بقا |
| مقابل، مانند، ہم پلہ، ہم سر               | ثانی    |

## مشقی سوالات

**مختصر ترین سوالات:**

- ۱۔ نظم ”بیادِ اجمیر“ کے شاعر کا نام کیا ہے؟
- ۲۔ قبل اجمیری نے کس کے دربار کو خسر و انه بتایا ہے؟
- ۳۔ قبل اجمیری کے مطابق کس کا پانی آب بقا کا ثانی ہے؟

**مختصر سوالات:**

- ۴۔ نظم ”بیادِ اجمیر“ میں اجمیر کے کن کن شاعروں کے نام آئے ہیں؟
- ۵۔ ”شفاف چاندنی“ سے قبل اجمیری کی کیا مراد ہے؟
- ۶۔ قبل اجمیری کی تاریخ ولادت و وفات مع مقام تحریر کیجیے۔

**تفصیلی سوالات:**

- ۷۔ نظم ”بیادِ اجمیر“ کا خلاصہ لکھیے۔
- ۸۔ قبل اجمیری کی سوانح اور خصوصیاتِ کلام پر روشی ڈالیے۔

# مطالعہ ملیٹ

ڈاکٹر فیروز بیگ

## اردو زبان کی پیدائش: مختلف نظریات

ہندوستان مشرک کے تہذیبوں اور بولیوں کا گھر ہے۔ اس وسیع و عریض ملک میں مختلف رسم و رواج کے ماننے والے ایک ساتھ رہتے ہیں۔ یہاں کی تہذیب و تمدن، رسم و رواج، طور طریق علاقائی سطح پر بدلتے رہتے ہیں اس طرح مختلف علاقوں میں الگ الگ بولیاں بولی جاتی تھیں۔ انھیں علاقائی اور باہر سے آئی ہوئی زبانوں کے میل جوں سے ایک مخلوط زبان نے جنم لیا جسے ہم اردو کے نام سے جانتے ہیں۔ اردو ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی لشکر کے ہیں اردو سر زمین ہندوستان میں پیدا ہوئی اور یہیں پروان چڑھی۔ یہ زبان سندھ، پنجاب، دہلی، دکن اور آس پاس کی زبانوں کا اثر قبول کرتی ہوئی سارے ہندوستان میں پھیلی، مختلف ادوار میں اس کو مختلف ناموں سے جانا گیا۔ ہندوستان کی نسبت سے اسے ہندی یا ہندوی کہا گیا۔ حضرت امیر خسرو نے اسے ہندی اور ہندوی کہا ہے۔ اس کے علاوہ اسے اردو یعنی معلیٰ، زبانِ دہلوی، ریختہ اور ہندوستانی ناموں سے جانا گیا۔

اردو زبان کی ابتداء کے متعلق مختلف محققین نے تاریخی حقائق کی روشنی میں اپنے نظریات پیش کیے ہیں۔ مسلمانوں کی ہندوستان میں آمد، مختلف مقامات پر ان کا قیام، وہاں کی زبانوں کے اثرات، اردو زبان کی تشكیل میں ان سب کا بڑا ہم رول رہا۔

سید سلیمان ندوی کا نظریہ:

سید سلیمان ندوی اپنی کتاب، 'نقوشِ سلیمانی' میں لکھتے ہیں۔ مسلمان سب سے پہلے سندھ میں پہنچے ہیں۔ اس لئے قرین قیاس یہ ہے کہ جس کو آج ہم اردو کہتے ہیں اس کا، ہیوں اسی وادی سندھ میں تیار ہوا ہو گا۔"

چونکہ مسلمان پہلی بار محمد بن قاسم کی قیادت میں ہندوستان میں داخل ہوئے اور محمد بن قاسم نے ۱۲ء میں سندھ پر حملہ کیا۔ اور راجا داہر کو شکست دے کر سندھ کو مسلم حکومت کا ایک صوبہ بنالیا اور قریب یہاں تین سو سال حکومت کی۔ محمد بن قاسم کے لشکر میں عربی بولنے والے لوگ تھے۔ ان کی زبان سندھ کی زبان سے متاثر ہوئی اور دونوں زبانوں نے ایک دوسرے کا اثر قبول کیا اور جس کے نتیجے میں مقامی بولی اور عربی کی آمیزش شروع ہوئی اور اس طرح ایک نئی زبان پیدا ہوئی۔

### محمود شیرانی کا نظریہ:

محمود شیرانی نے اپنی تصنیف ”پنجاب میں اردو“ میں اس بات پر زور دیا کہ اردو کی جائے پیدائش پنجاب ہے اس کی دلیل میں انھوں نے دونوں زبانوں کے صرف و نحو، تذکیر و تائبیث جمع و واحد کے طریقے میں مماثلت کا ہونا بتایا۔

چونکہ محمد بن قاسم کے بعد محمود غزنوی نے پنجاب اور ہندوستان کے دوسرے علاقوں پر حملے کرنے شروع کئے۔ دھیرے دھیرے مسلمان سارے پنجاب میں پھیل گئے۔ ان لوگوں کی زبان فارسی اور ترکی تھی۔ ان لوگوں اور مقامی لوگوں کے آپسی میل جوں سے یہ زبان وجود میں آئی۔ محمود شیرانی لکھتے ہیں کہ ”اردو دہلی کی قدیم زبان نہیں بلکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ دہلی جاتی ہے اور چونکہ مسلمان پنجاب سے ہجرت کر کے جاتے ہیں اس لئے ضروری ہے کہ وہ پنجاب سے کوئی زبان اپنے ساتھ لے کر گئے ہوں گے۔“

### محمد حسین آزاد کا نظریہ:

اردو زبان کی ابتداء سے متعلق محمد حسین آزاد نے اپنی کتاب ”آب حیات“ میں اپنے خیالات کا اظہار ان الفاظ میں کیا ہے۔ ”تنی بات ہر شخص جانتا ہے کہ ہماری اردو زبان برج بھاشا سے نکلی ہے اور

برج بھاشا خاص ہندوستانی زبان ہے۔ اس نظریہ کو علمی حلقوں نے اس زمانے میں قبول کیا اور بر ج بھاشا کو عام طور پر اردو کی ماں سمجھا جانے لگا۔ اس نظریہ کو محمد حسین آزاد سے پہلے میر امن، سرسید احمد خاں اور امام بخش صہبائی بھی پیش کر چکے تھے۔ چونکہ بر ج بھاشا دہلی کے آس پاس کے علاقوں میں بولی جاتی تھی اور وہاں اس زبان کو خاص مرتبہ حاصل تھا اس لیے آزاد نے اردو اور بر ج کے رشتے پر زور دیا ہے۔

### ڈاکٹر شوکت سبز واری کا نظریہ:

ڈاکٹر شوکت سبز واری نے اپنی تصنیف ”داستانِ زبانِ اردو“ میں اس بات پر زور دیا ہے کہ اردو کھڑی بولی سے ترقی پا کر بنی ہے جو دہلی اور میرٹھ کے آس پاس بولی جاتی تھی۔ ڈاکٹر سہیل بخاری اور پروفیسر گیان چند جیں بھی کھڑی بولی کو اردو کی اصل قرار دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک ”اردو کی اصل کھڑی بولی اور صرف کھڑی بولی ہے، کھڑی بولی دہلی اور مغربی یوپی کی بولی ہے۔“

### پروفیسر مسعود حسین خاں کا نظریہ:

پروفیسر مسعود حسین خاں نے اپنی تصنیف ”مقدمہ تاریخِ زبانِ اردو“ میں دہلی اور اس کے پاس بولی جانے والی بولیوں کی طرف توجہ دلائی۔ ان کے نزدیک ہریانی، کھڑی بولی، بر ج بھاشا اور میواتی دہلی کے گرد و نواح میں بولی جاتی تھیں ان کے مطابق ”نوایہ دہلی کی یہ بولیاں اردو کا اصل منبع اور سرچشمہ ہیں۔“

غرض اردو زبان کی ابتداء کے مختلف نظریات کے پیش نظر ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ مسلمان جب ہندوستان میں وارد ہوئے تو وہ عربی، فارسی، ترکی زبان بولتے ہوئے آئے اور سندھ میں قریب تین سو سال سکونت اختیار کی تو وہاں کی زبان کے اثرات قبول کیے پھر پنجاب میں محمود غزنوی کی قیادت میں دو سو سال قیام کیا تو پنجابی زبان کے قریب ہو گئے جب دلی پا یہ تخت بناتو کھڑی بولی، بر ج بھاشا، ہریانی

اور میواتی زبانوں کا اثر قبول کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک زندہ زبان کی حیثیت سے اردو نے نہ صرف عربی و فارسی بلکہ سنسکرت، انگریزی اور سینکڑوں مقامی زبانوں کے الفاظ قبول کیے ہیں۔ اس طرح اردو زبان نے موجودہ شکل اختیار کی۔

### مشقی سوالات

#### مختصر ترین سوالات:

- ۱۔ اردو کس زبان کا لفظ ہے؟
- ۲۔ ”پنجاب میں اردو“ کے مصنف کا نام تحریر کیجیے۔
- ۳۔ مسلمان پہلی بار کس کی قیادت میں سندھ میں داخل ہوئے؟

#### مختصر سوالات:

- ۴۔ اردو زبان کی پیدائش کے متعلق محمد حسین آزاد نے کون سا نظریہ پیش کیا؟
- ۵۔ دہلی کے آس پاس کون سی زبانیں بولی جاتی تھیں؟
- ۶۔ حضرت امیر خسروؒ نے اردو کو کن ناموں سے پکارا ہے؟

#### تفصیلی سوالات:

- ۷۔ اردو زبان کی ابتداء سے متعلق مختلف نظریات پر روشنی ڈالیے۔
- ۸۔ اردو زبان کے آغاز اور ارتقا کا جائزہ پیش کیجیے۔

ڈاکٹر قائد علی خاں

## د بستانِ دہلی

اردو شعر و ادب میں د بستانِ دہلی کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ دہلی کے شعراء اپنا ایک خاص شاعرانہ مزاج اور طرز فکر رکھتے ہیں جس میں اس عہد کی دہلی کی تہذیب و تمدن اقتصادی، سیاسی، معاشری اور معاشرتی حالات کا انکس نظر آتا ہے۔ شہر دہلی لمبے عرصے سے تک ہندوستان کا پایہ تخت رہا اور اہل حکومت کی سرپرستی اور شعراء نوازی کے سبب وہاں بڑی تعداد میں شاعر، ادیب اور اہل مُزرجع ہو گئے۔ جس کے سبب دہلی نے ایک باقاعدہ ادبی اسکول کی حیثیت اختیار کر لی۔ اس ادبی اسکول کو د بستانِ دہلی، کہا جاتا ہے۔

دہلی میں باقاعدگی کے ساتھ اردو زبان میں شعر و شاعری کا سلسلہ اور نگ زیب کے آخری زمانے میں ولی کے دکن سے دہلی آنے کے بعد شروع ہوا۔ اور نگ زیب کے زمانے تک شمالی ہند میں اردو زبان صرف بول چال کی حد تک محدود تھی اور فارسی زبان کو ہی علمی و ادبی حیثیت حاصل تھی، ولی کی آمد کے بعد شعراء نے اردو میں شعر و شاعری کی طرف سنجیدگی کے ساتھ توجہ کی۔ ان شعراء میں خان آرزو، آبرو، شاکر ناجی، تاباں، یک رنگ، مضمون، شاہ حاتم اور مرا مظہر جان جاناں خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

میر، سودا اور درد کا زمانہ اردو شاعری کی تاریخ میں بڑی اہمیت رکھتا ہے اس زمانے میں فنی اعتبار سے بعض اصناف کی انتہائی ترقی ہوئی جیسے غزل، قصیدہ، مثنوی، مرثیہ کو کافی فروغ حاصل ہوا۔ اس دور میں کوئی شاعر ایسا نہیں ملتا جس نے غزل نہ کہی ہو چنانچہ اس دور میں میر اور درد کی غزلیں اور سودا کے قصیدے خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ غزل اور قصیدے کے ساتھ ہی میر نے مثنوی کے صنف پر بھی طبع آزمائی کی، سودا نے اردو مرثیے کو نیا قلب اور فکر و انداز عطا کیا۔

یہ وہ زمانہ تھا جب دلی تباہ و بر باد ہو رہی تھی چاروں طرف انتشار اور افراطی کا زمانہ تھا، سماجی، معاشری اور معاشرتی بدحالی کا دور دورہ تھا، یہ وہ ناسازگار حالات تھے جس کے سبب دہلی کے نامور شعرا ترکِ وطن پر مجبور ہوئے۔ میر تقی میر، سوز، سودا، انشاء، مصطفیٰ، جرأۃ اور لکھنے والوں نے دہلی کو خیر باد کہا اور لکھنؤ پہنچے۔ جہاں انہیں شاہان لکھنؤ کی سرپرستی حاصل ہوئی۔

بہادر شاہ ظفر کے زمانے میں ایک بار پھر دہلی پر بہار آئی، بہادر شاہ ظفر کو شعر و خن سے ذاتی دلچسپی تھی، انہوں نے پہلے شاہ نصیر سے اصلاح لی بعد میں ذوق کو اپنا استاد بنایا، بہادر شاہ ظفر نے ذوق کو ملک اشرا کے خطاب سے نوازا۔ اس عہد کے شعرا میں شاہ نصیر، ذوق، مومن اور غالب کا نام قابل ذکر ہے۔ اس دور کے سب سے نمایاں شاعر مرزا غالب ہیں۔ انہوں نے غزل، قصیدے، مشنویاں، قطعات اور مرثیے بھی کہے ہیں لیکن غالب کو عظمت غزل گو شاعر کی حیثیت سے ملی۔ ذوق نے اپنا زورِ تخلیق قصیدے میں دکھایا اور مومن کی تخصیت غزل میں انفرادی حیثیت رکھتی ہے۔

دہلی کے شعرا اپنے دلی جذبات و احساسات کی ترجمانی بڑے سیدھے سادے اور دلنشیں انداز میں کرتے ہیں، ان کا کلام تصنیع و بناؤٹ سے پاک ہے۔ شاعری میں داخلیت ہے جو دہلوی اسکول کی نمایاں خوبی ہے۔ غزل میں حسن و عشق کے موضوعات کثرت سے استعمال کیے لیکن ان میں پاک خیالات اور روحانیت پائی جاتی ہے۔

اخلاق و تصوف کے مضامین بھی دہلی کے شعرا نے خوب قلم بند کیے ہیں چونکہ دہلی صوفیا کا مرکز رہی ہے بعض شاعر خود بھی صوفی تھے جیسے خواجہ میر درد لیکن جو شاعر صوفی نہیں تھے انہوں نے بھی اپنی شاعری میں صوفیانہ خیالات کو پیش کیا۔ اس کا سبب دہلی کے وہ حالات تھے جس نے شعرا کے مزاج میں دنیا کی ناپائیداری اور خوفِ خدا کے جذبات و احساسات پیدا کر دیے تھے۔ طبیعت میں صبر و قناعت اور استغفاری ہونے کی وجہ سے دہلوی شعرا کے کلام میں حق گوئی اور حق پسندی کے جذبات ملتے ہیں اور سوز و

گدراز غزل کی جان ہے۔ دہلوی شعر اکا طرز بیان سادہ اور فطری ہے۔ جدید معنی خیز تر اکیب، اطیف استعارے اور نادر تشبیہات کا استعمال بھی ملتا ہے، روزمرہ اور محاورہ کی چاشنی ہے، کلام میں دردواثر پایا جاتا ہے۔

دبستانِ دہلی کو اس کی شاعرانہ عظمت اور خصوصیات کے بناء پر دبستانِ لکھنؤ پر فوقيت حاصل ہے۔ یہاں کے شعراء نے اپنے کمالاتِ فن کا مظاہرہ اس انداز میں کیا ہے کہ اردو شاعری کو دنیاۓ شعروخن میں ایک الگ پہچان ملی۔

## مشقی سوالات

**مختصر ترین سوالات:**

- ۱۔ دبستانِ دہلی کے کسی ایک ممتاز شاعر کا نام لکھیے۔
- ۲۔ سودا کو کس صنف میں امتیاز حاصل ہے؟
- ۳۔ بہادر شاہ ظفر نے کس کو اپنا استاد بنایا تھا؟

**مختصر سوالات:**

- ۴۔ بہادر شاہ ظفر نے ذوق کو کس خطاب سے نواز اتھا؟
- ۵۔ مرزا غالب نے کون کون سی اصنافِ سخن پر طبع آزمائی کی؟
- ۶۔ دبستانِ دہلی کے وہ کون سے شعراتھے جنہوں نے دہلی کو خیر باد کہا؟

**تفصیلی سوالات:**

- ۷۔ دبستانِ دہلی کی شاعرانہ خصوصیات واضح کیجیے۔
- ۸۔ دہلی کے حالات نے اردو شعراء کو کس طرح متاثر کیا وضاحت کیجیے۔

ڈاکٹر قائد علی خاں

## د بستانِ لکھنو

لکھنؤی شاعری اپنے عہد کی ملکی، سیاسی اور معاشرتی حالات کی عکاسی کرتی ہے، جب دہلی کی بساط پٹی تو وہ مغل بادشاہ شاہ عالم کا زمانہ تھا، چاروں طرف انتشار اور افرا تفری پھیلی ہوئی تھی۔ سماجی، معاشری اور معاشرتی بدحالی کا دور دورہ تھا۔ یہ وہ ناساز گار حالات تھے جس کے سبب دہلی کے نامور شعراء ترک وطن پر مجبور ہوئے۔ ادھر لکھنؤ میں دولت کی فرداں، عیش و عشرت اور امن و امان تھا۔ بادشاہ وقت خود شاعر تھے اور شاعروں کے قدر دان بھی تھے۔ ان کے دربار علم و فن اور شعروخن کے مرکز تھے چنانچہ نواب شجاع الدولہ سے نواب واجد علی شاہ کے زمانے تک لکھنؤ میں شعروخن کا اس طرح فروغ ہوا کہ دہلی کے مقابلے میں لکھنؤ کی ایک انفرادیت نظر آنے لگی جس کو د بستانِ لکھنؤ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

دہلی کے وہ شعراً جو دہلی سے فیض آباد اور لکھنؤ پہنچے ان میں میرضا حک، میر سوز، سودا، میر حسن وغیرہ تھے جو شجاع الدولہ کے عہد میں فیض آباد گئے۔ میر تقی میر، انشا، مصحتی، جرأت آصف الدولہ کے زمانے میں لکھنؤ پہنچے صرف دردایسے شاعر نظر آتے ہیں جنہوں نے دہلی کو خیر بادیں کہا۔

لکھنؤ میں شعرو شاعری کا سلسلہ ان شعراً کی بدولت شروع ہوا جن کی شاعری کا آغاز تو دہلی میں ہو چکا تھا اور لکھنؤ پہنچ کر انھیں عروج حاصل ہوا۔ بزرگ دہلوی شعراً نے اپنی روایات کو قائم رکھا لیکن نوجوان شعراً کے کلام میں نئی فکر، نئے اسالیب، نیالب والہجہ، نئے محاورے، نئی بندشیں اور ترکیبیں سامنے آئیں۔ یہ سب وہاں کے تمدن اور خوشحالی کے زیر اثر منظر عام پر آئیں۔ یہیں سے د بستانِ لکھنؤ کا آغاز ہوا۔

د بستانِ لکھنؤ کا باقاعدہ آغاز انشا، مصحتی کے زمانے سے ہوتا ہے لیکن ان کے یہاں دہلوی

اثرات اتنے غالب رہے جس کی وجہ سے ان کی شاعری کو خالص لکھنؤی رنگِ سخن کا نمونہ نہیں کہا جاسکتا، البتہ مشکل زمینوں کا استعمال، معاملہ بندی کے اشعار اور ریختی کا اثر ضرور دیکھا جاسکتا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ ناتخ اور آتش کے دور میں لکھنؤی رنگِ سخن انتہائی عروج پر پہنچا۔ امام نجاش ناتخ دبستان لکھنؤ کے سب سے نمائندہ شاعر ہیں۔ آپ نے زبان کی اصلاح کا اہم کارنامہ انجام دیا۔ شاعری کے نئے اصول و ضوابط مقرر کئے۔ ناتخ کے شاگردوں میں علی اوسط رشک، تحریر، وزیر، منیر، برق وغیرہ شامل ہیں۔ آتش، صحیح کے شاگرد تھے۔ ان کی غزلوں میں بندش الفاظ، اور مرصع سازی کا ہنر نظر آتا ہے۔ آتش کے شاگردوں میں پنڈت دیاشنکر لیسم، رند، صبا، شوق وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ لکھنؤ کی عیش و عشرت کی زندگی، بے فکری اور دولت کی فرودانی نے شعروادب کو بھی متاثر کیا۔ لکھنؤی شعر کے کلام میں سطحی مضامین، معاملہ بندی، محظوظ کے زلف و رخ، خدو خال اور کنگھی چوٹی کا ذکر ہونے لگا۔ مبالغہ آرائی اور خارجی مضامین پر زور دیا گیا۔ نسوانیت کا غالبہ رہا۔ ریختی کی ایجاد ہوئی۔ قصع بناوٹ اور خارجیت کا دور دورہ رہا۔

دوسری طرف شعرائے لکھنؤ نے زبان و بیان کو سنوارا، قتل الفاظ کو زبان سے خارج کیا۔ شیریں اور لطیف الفاظ کا استعمال کیا۔ اس کے علاوہ شعری صنعتوں کا استعمال کثرت سے ملتا ہے تخلیل کی بلند پرواہی، تشبیہات و استعارات کی ندرت، الفاظ و معنی کی باریکیاں بخوبی ملتی ہیں۔

لکھنؤ میں غزل، مثنوی اور مرثیہ کو بڑا فروغ حاصل ہوا۔ غزل میں ہر شاعر نے طبع آزمائی کی ہے۔ مرثیے کی ترقی نے اخلاقی مضامین کو جگہ دی۔ زبان کوئی جلامی۔ انس و دیر نے اس صفت مرثیہ کو بام عروج پر پہنچایا۔ مثنوی نگاری میں میر حسن اور دیاشنکر لیسم نے خوب نام کیا۔ انہوں نے ”سحرالبیان“ اور ”گلزار لیسم“ لکھ کر لکھنؤی تہذیب و معاشرت، رسم و عقائد اور زبان و بیان کے بہترین نمونے پیش کئے۔ یہ دونوں اردو کی بہترین مثنویوں میں شمار ہوتی ہیں۔

## مشقی سوالات

**مختصر ترین سوالات:**

- ۱۔ جب دہلی کی بساط پٹی تو اس وقت کس بادشاہ کا زمانہ تھا؟
- ۲۔ واجد علی شاہ کہاں کے نواب تھے؟
- ۳۔ ناسخ کا پورا نام کیا ہے؟

**مختصر سوالات:**

- ۴۔ دبستانِ لکھنؤ کا باقاعدہ آغاز کن شعر کے زمانے سے ہوتا ہے؟
- ۵۔ لکھنؤ میں اصلاحِ زبان کے لیے کن شعر کے نام آتے ہیں؟
- ۶۔ ناسخ کے دو شاگردوں کے نام بتائیے۔

**تفصیلی سوالات:**

- ۷۔ دبستانِ لکھنؤ کی شعری خدمات پر تبصرہ کیجیے۔
- ۸۔ دبستانِ لکھنؤ کی شاعرانہ خصوصیات پر روشنی ڈالیے۔

ڈاکٹر قائد علی خاں

## فورٹ ولیم کالج کی ادبی خدمات

اردو کی ترقی میں فورٹ ولیم کالج نے بڑی قابل قدر خدمات انجام دی ہیں فورٹ ولیم کالج ۱۸۰۰ء میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے کلکتہ میں قائم کیا۔ ڈاکٹر جان گلکرسٹ کو اس کالج کا صدر بنایا گیا۔ اس کالج کے قیام کا اصل مقصد نو اردنگریزوں کو ہندوستانی زبان (اردو) سے واقف کرانا تھا۔ اس وقت ہندوستان کے اکثر و پیشتر حصوں میں جوزبان بولی جا رہی تھی وہ اردو زبان تھی۔ علمی و ادبی زبان فارسی تھی۔ ادبی ذخیرہ یا تو مدد ہبی رسائل تھے یا مشکل زبان میں لکھی گئی کتابیں تھیں۔ جان گلکرسٹ نے تمام ہندوستان سے قابل ماہرین زبان کو جمع کیا اور ان سے تصنیف و تالیف کا کام کروایا گیا۔ فارسی سے اردو میں تراجم کا سلسلہ شروع ہوا۔ سادہ اور سلیمانی زبان پر زور دیا گیا۔ کچھ ہی عرصہ میں اردو میں نشری کتابوں کا بہت بڑا ذخیرہ جمع ہو گیا۔

فورٹ ولیم کالج کے نامور ادیبوں میں میرا من، حیدر بخش حیدری، شیر علی افسوس، مرزا علی لطف، بہادر علی حسینی، مظہر علی والا، مرزا کاظم علی جو آ، نہال چندا ہوری شامل ہیں، جن کی علمی و ادبی کاوشوں نے فورٹ ولیم کالج کا نام تاریخ میں درج کروایا۔

### جان گلکرسٹ:

۱۸۰۰ء میں گلکرسٹ فورٹ ولیم کالج کے ہندوستانی شعبہ کے صدر مقرر ہوئے۔ وہ اردو زبان کے بڑے حمایتی اور خیرخواہ تھے، اس ادارے میں جب باقاعدہ اردو کی تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا تو انہوں نے ملک کے کئی قابل لوگوں کو مدرس مقرر کیا، ساتھ ہی تصنیف و تالیف کے لیے ایک الگ محمد قائم کیا، ان

کتابوں کو چھاپنے کے لیے اردو ٹائپ کا ایک مطبع بھی قائم کیا، انہوں نے خود بھی بعض کتابیں تصنیف کیں، جیسے ہندوستانی انگریزی لغت، ہندوستانی علم اللسان، اردو صرف و نحو، رہنمائے زبان اردو، قصصِ مشرقی وغیرہ قبل ذکر ہیں۔

**میرامن:**

میرامن دہلی کے رہنے والے تھے، ان کی ادبی زندگی کا آغاز کلکتہ پہنچ کر فورٹ ولیم کالج سے وابستہ ہونے کے بعد شروع ہوا، اپنے دوست بہادر علی حسینی کے توسط سے کالج میں ملازمت حاصل کی، فارسی کتابوں کے آسان اور عام فہم زبان میں ترجمہ کا کام کیا۔ میرامن نے ”باغ و بہار“، لکھی جو فارسی ”قصہ چہار درویش“ کا اردو ترجمہ ہے، یہ کتاب اپنی سادہ، سلیمانی اور عام فہم زبان کی وجہ سے بے حد مقبول ہوئی۔ باغ و بہار کونہ صرف اردو میں مقبولیت حاصل ہوئی بلکہ دنیا کی مختلف زبانوں میں بھی اس کے ترجمے ہوئے۔ ان کی دوسری تصنیف ”گنج خوبی“ ہے جو ملا حسین واعظ کاشفی کی ”اخلاقِ محسنی“ کا ترجمہ ہے۔

**حیدر بخش حیدری:**

فورٹ ولیم کالج سے وابستہ ادیبوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ دہلی کے رہنے والے تھے پہلے بنارس پھر کلکتہ پہنچے اور فورٹ ولیم کالج سے وابستہ ہو گئے۔ اس کالج کے مصنفوں میں سب سے زیادہ کتابیں لکھیں اور ترجمہ کیں۔ حیدری کی تصنیفات میں ”قصہ مہر و ماہ“، ”قصہ لیلیٰ مجنوں“، ”طوطا کہانی“، ”آرائشِ محفل“، ”ہفت پیکر“، ”تاریخ نادری“، ”مگل مفترت“، ”گلزارِ داش“، ”گلشنِ ہند وغیرہ قبل ذکر ہیں۔ انہوں نے فارسی قصہ ”حاتم طائی“ کا ترجمہ ”آرائشِ محفل“ کے نام سے کیا۔ ان کی دوسری کتاب ”طوطا کہانی“ ہے جو سید محمد قادری کے فارسی ”طوطی نامہ“ کا ترجمہ ہے۔ اس میں سلیمانی اور سادہ زبان کا استعمال کیا گیا ہے۔ ”آرائشِ محفل“ اور ”طوطا کہانی“ زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی۔

### میر شیر علی افسوس :

شیر علی افسوس کا شمار فورٹ ولیم کالج کے مصنفوں میں ہوتا ہے افسوس دہلی میں پیدا ہوئے۔ یہ میر، سودا، درد، انشا مصححت اور جرأت کا زمانہ تھا۔ آپ کوان کی صحبت میں رہنے کا موقع ملا، مشی کی حیثیت سے فورٹ ولیم کالج میں ملازمت کی گلکرسٹ کی فرمائش پر فارسی کی دو کتابوں کا اردو میں ترجمہ کیا باغ اردو اور آرائشِ محفل، باغ اردو، شیخ سعدی کی گلستان، کا اردو ترجمہ ہے اور آرائشِ محفل، مشی سبحان رائے کی فارسی تاریخ، خلاصۃ التواریخ، کا اردو ترجمہ ہے افسوس نہ صرف ادیب بلکہ صاحبِ دیوان شاعر بھی تھے۔

### مرزا علی لطف :

مرزا علی لطف کا فورٹ ولیم کالج کے اہلِ قلم میں شمار ہوتا ہے گلکرسٹ کی فرمائش پر اردو شاعروں کا ایک تذکرہ گلشن ہند، لکھا جو فارسی تذکرہ گلزار ابراہیم، کا اردو ترجمہ ہے تذکرہ میں صرف شعرا کے حالات ہی نہیں اس دور کا پورا نقشہ بھی پیش کیا گیا ہے۔

### بہادر علی حسینی :

فورٹ ولیم کالج سے وابستہ ہونے والے ادیبوں میں سب سے پہلا نام بہادر علی حسینی کا ہے، انہوں نے نثر بے نظیر، اور اخلاقی ہندی، لکھیں۔ حسینی نے میر حسن کی مشہور مثنوی سحر البيان، کونثر میں لکھا اور اس کا نام نثر بے نظیر رکھا۔ اخلاقی ہندی، فارسی سے ترجمہ ہوئی اس کے قصے سنسکرت کی اخلاقی خوبیوں سے بھرے ہوئے ہیں۔

### منظہر علی خاں والا :

فورٹ ولیم کالج میں مشی کے عہدے پر فائز ہوئے، دہلی کے رہنے والے تھے، کئی زبانوں پر عبور حاصل تھا، ہندی، فارسی اور سنسکرت کی کتابوں کے اردو میں ترجمے کیے۔ انہوں نے حسب ذیل سات

کتابیں لکھیں مادھوںل کام کندلا، ترجمہ کریمہ، ہفت گشن، اخلاقی ہندی، بیتال چھپی، تاریخ شیرشاہی، اور جہا گلگیر نامہ۔

### مرزا کاظم علی جوائے :

جوائے فورٹ ولیم کالج میں ملازم تھے، دہلی کے رہنے والے تھے، دہلی تباہ ہوئی تو لکھنؤ کا رخ کیا، لکھنؤ کے ریزیڈنٹ کرنس اسکات کی سفارش سے ملکتہ پہنچے، وہاں انھوں نے 'شکنلا ناٹک'، 'بارہ ماں' اور 'تاریخ فرشتہ' مرتب کیں۔ آپ نے گلکرسٹ کی فرمائش پر کالی داس کی 'ابھگیان شکنتم' کا ترجمہ 'شکنلا ناٹک' کے نام سے کیا جو بہت مشہور ہوا۔

### نہال چندلا ہوری :

نہال چندلا ہوری کا فورٹ ولیم کالج کے مصنفین میں شمار ہوتا ہے۔ گلکرسٹ کی فرمائش پر 'گل بکاوی' کے فارسی قصے کو آپ نے اردو میں ترجمہ کیا۔ اس کا نام 'مدھبِ عشق' رکھا اس کی شہرت و مقبولیت کو دیکھ کر پڑت دیا شکنریسم نے اسے 'گلزاریسم' کے نام سے نظم کیا۔

فورٹ ولیم کالج کے ادیبوں کی کوششوں سے تصنیف و تالیف اور تراجم کا جو سلسلہ شروع ہوا اس سے اردو نثر کو کافی فروغ حاصل ہوا اور ساتھ ہی مشکل پسندی اور مقفی و مسح عبارت آرائی کی جگہ سادہ سلیمانی زبان پر زور دیا جانے لگا۔

## مشقی سوالات

**مختصر ترین سوالات:**

- ۱۔ فورٹ ولیم کا لج کس سن میں قائم ہوا؟
- ۲۔ میرا من کہاں کے رہنے والے تھے؟
- ۳۔ باغ و بہار کے مصنف کون ہیں؟

**مختصر سوالات:**

- ۴۔ حیدر بخش حیدری کی چند تصانیف کے نام لکھیے۔
- ۵۔ جان گلگرسٹ کون تھے؟ ان کی کسی ایک تصنیف کا نام بتائیے۔
- ۶۔ 'ندھہ عشق' کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟

**تفصیلی سوالات:**

- ۷۔ فورٹ ولیم کا لج کی ادبی خدمات کا جائزہ لیجئے۔
- ۸۔ فورٹ ولیم کا لج کے اساتذہ کی علمی کوششوں پر روشنی ڈالیے۔

ڈاکٹر فیروز بیگ

## علی گڑھ تحریک

سرسید تحریک ایک علمی و ادبی تحریک تھی جس کے بانی سرسید احمد خاں تھے یہ وہ زمانہ تھا جب ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کا زوال ہوا تھا، انگریزی حکومت غالب آ رہی تھی اور ۱۸۵۷ء کی ناکام بغاوت کا ذمہ دار مسلمانوں کو ٹھہرایا جا رہا تھا۔ یہیں سے مسلمانوں کی بر بادی کا سلسلہ شروع ہوا۔ دراصل اس کی ذمہ دار اس قوم کی پستی، بے عملی، جہالت، ناعاقبت اندیشی تھی جس نے انہیں تباہی کے گڑھ میں ڈال دیا۔ ان حالات میں ایک رہنماء اور مصلح قوم کی ضرورت محسوس ہوئی جو مسلم قوم کو خواب غفلت سے بیدار کرے سرسید نے یہ کام کر دکھایا۔ ان کے دل میں قوم کا درد تھا، انہوں نے سوتلوں کو چھپھوڑاں کا کھویا ہوا وقار واپس دلا یا فکر و عمل کی تلقین کی اور اپنی اصلاحی کوششوں سے ان کی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کی۔ سرسید کی قومی بھلائی کے جذبے نے مذہب، ادب، سیاست، تعلیم، معاشرت غرض ہندوستانی مسلمانوں کے سبھی مسائل پر توجہ کی۔ آخر سرسید کی محنت رنگ لائی، مسلمانوں میں بیداری پیدا ہوئی اور قوم ترقی کے راستے پر گامزن ہوئی۔ سرسید کی ان کوششوں کو سرسید تحریک کہا گیا چونکہ اس کا مرکز علی گڑھ تھا اس لیے علی گڑھ تحریک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

سرسید نے جدید تعلیم کو مسلمانوں کی ترقی کا واحد ذریعہ بتایا، انہوں نے مسلمانوں میں تعلیم کا ذوق پیدا کیا۔ وہ مسلمانوں کو اعلیٰ تعلیم سے بہرہ ور کرنا چاہتے تھے۔ اس مقصد کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش شروع کی، انگلستان کا سفر کیا وہاں کیمبرج اور آکسفورڈ یونیورسٹیوں کے تعلیمی نظام کا بغور جائزہ لیا۔ وہاں سے لوٹ کر ۱۸۷۵ء میں علی گڑھ میں محدث ایگلو اور نیٹل کالج (ایم۔ اے۔ او۔ کالج) کی بنیاد ڈالی۔ ۱۹۲۰ء میں اس کالج نے یونیورسٹی کا درجہ حاصل کر لیا۔ اب اسے علی گڑھ یونیورسٹی کے نام سے جانا

جاتا ہے۔

سانٹیفیک سوسائٹی ۱۸۶۲ء میں غازی پور میں قائم ہوئی۔ اس کا مقصد مغربی علوم کی مختلف کتابوں کا اردو میں ترجمہ کرانا تھا تاکہ جدید علوم سے مسلمان واقفیت حاصل کریں۔ اس کے علاوہ *علی گڑھ انسٹی ٹیوٹ گزٹ* کے نام سے ایک اخبار بھی جاری کیا گیا۔

سرسید چاہتے تھے کہ ملک کے ہر شہر اور قصبے میں ابتدائی تعلیم کے لیے مدرسے قائم کیے جائیں۔ اسی مقصد کے تحت سرسید نے ۱۸۸۶ء میں محمد انیجوکیشنل کانفرنس کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا، بعد میں اس ادارے کا نام مسلم انیجوکیشنل کانفرنس ہوا۔

سرسید نے ۱۸۵۷ء کی بغاوت کی ناکامی کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا لہذا 'تاریخ سرکشی بجنور' (۱۸۵۸ء) میں اس کی تفصیل موجود ہے اور ۱۸۵۹ء میں 'اسباب بغاوت' ہند لکھ کر انہوں نے یہ واضح کیا کہ سرکار کی غلط پالیسی ہی اس کی ذمہ دار تھی۔ بعد میں ۱۸۶۰ء میں 'لائل محمد نز آف انڈیا' میں انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ مسلمان انگریزی سرکار کے بد خواہ نہیں۔ ایک انگریز ولیم میور نے 'لائف آف محمد'، لکھی جس میں سیرت پاک پر غلط بیانی سے کام لیا گیا تھا جس کی تردید میں انہوں نے 'خطبات احمدیہ'، لکھی۔

انگلینڈ کے دوران سفر انہوں نے سٹیل اور ایڈیسن کے رسالے 'ٹیبلر' اور 'اسپلیٹر' کا مطالعہ کیا۔ جو انہوں نے معاشرے کی اصلاح کی غرض سے لکھے تھے۔ ہندوستان والپس آ کر سرسید نے ۱۸۷۰ء میں رسالہ 'تہذیب الاخلاق' جاری کیا۔ اس رسالے میں علمی، اخلاقی، معاشرتی اور مذہبی موضوعات پر مضامیں لکھے گئے۔ سرسید کے تعلیمی و اصلاحی مشن میں ان کے رفقاء خواجہ الطاف حسین حائلی، محمد حسین آزاد، ڈپٹی نذر احمد، شبلی نعمانی، چراغ علی، نواب محسن الملک، نواب وقار الملک اور مولوی ذکا اللہ کے نام شامل ہیں۔ جنہوں نے سرسید کے ساتھ قدم سے قدم ملایا اور اردو ادب کے مختلف پہلوؤں کو نئے انداز میں پیش

کیا۔ ان لوگوں نے ”تہذیب الاخلاق“ میں مضامین، ہی نہیں لکھے بلکہ بیش قیمتی تصانیف بھی یادگارچھوڑی ہیں۔

محمد حسین آزاد اور حاتی نے نیچرل شاعری کو فروغ دیا۔ حاتی نے سر سید کی فرمائش پر ’مسدس موجز راسلام‘ لکھی۔ اس کے علاوہ حاتی نے ’مقدمہ شعروشاعری‘، ’حیاتِ سعدی‘، ’حیاتِ جاوید‘، ’یادگارِ غالب‘، بھی تصانیف کیں۔ محمد حسین آزاد نے ’آبِ حیات‘، ’نیرنگِ خیال‘، ’دربارِ اکبری‘، وغیرہ تصانیف لکھ کر ادب میں اعلیٰ مقام حاصل کیا۔

ثبلی کی تصانیف میں ’شعرِ الجم‘، ’الفاروق‘، ’المامون‘، ’موازنۃ انیس و دبیر‘، وغیرہ یادگار ہیں۔ اسی طرح نذیر احمد نے ’مراۃ العروں‘، ’بناتِ لعش‘، ’توبۃ النصوح‘، ’فسانۃ بتلا‘، ’ایامی‘، اور ’رویائے صادقة‘ لکھ کر ناول کی صنف کو مقبول بنایا۔

غرض سر سید کے مضامین میں ادب، مذہب، سیاست، تعلیم معاشرت، اقتصادیات سبھی پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ آپ کے رفقاء میں حاتی، ثبلی، محمد حسین آزاد نے اردو نثر، تنقید، تاریخ، سوانح کو بلند مقام پر پہنچایا۔ مقالہ نگاری میں محسن الملک، وقار الملک، چراغ علی وغیرہ بھی اہم مقام رکھتے ہیں۔

سر سید نے اردو نثر کو لفاظی، تصنیع، عبارت آرائی سے نجات دلائی اور مدعا نویسی اور استدلالی نثر پر زور دیا، زبان صاف اور سادہ استعمال کی۔ سر سید کا کہنا تھا کہ جو اپنے دل میں ہو وہی دوسرے کے دل میں پڑے، تاکہ دل سے نکلے اور دل میں بیٹھے۔

## مشقی سوالات

**مختصر ترین سوالات:**

- ۱۔ سرسید تحریک کے بانی کا نام کیا ہے؟
- ۲۔ محمد انگلستان اور نیٹل کالج کا قیام کب عمل میں آیا؟
- ۳۔ سرسید نے کون سارے ممالک کا لاحظا؟

**مختصر سوالات:**

- ۴۔ سرسید کے رفقاء کے نام لکھیے۔
- ۵۔ سرسید کی چند اہم تصانیف کے نام بتائیے۔
- ۶۔ مسدر مذکور اسلام کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟

**تفصیلی سوالات:**

- ۷۔ علی گڑھ تحریک سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟
- ۸۔ سرسید کی ادبی خدمات کا جائزہ لیجیے۔